

# عجائب القرآن

## و غرائب القرآن

(مکمل)



تالیف

حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی

مشیر  
برادری  
از ذوب بازار لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا سَمِعْنَا قَوْلَنَا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الشُّكِّ  
بیشک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی راہ دکھاتا ہے "القرآن"

عجائب القرآن

غرائب القرآن

تالیف

شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ صاحب اعظمی



۴۰ بی اردو بازار

لاہور فون ۶۰۰۶۰۶

بیت برادرز

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

عجائب القرآن	_____	نام کتاب
علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی مجددی مدظلہ	_____	مصنف
دسمبر 2001ء	_____	تاریخ اشاعت
words maker Lhr.	_____	کمپوزنگ
۲۰۰	_____	صفحات
۱۱۰۰	_____	تعداد
شبیر برادرز اردو بازار لاہور	_____	ناشر
روپے ۹۵۰	_____	قیمت
		۵۰ ۱۹۶۰

ملنے کا پتہ

**شبیر برادرز**

۴۰ - بی اردو بازار لاہور فون: ۷۲۳۶۰۰۶

# فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۸	کیوں لکھا؟ اور کیا لکھا؟	۱
۱۰	جنتی لاشھی	
۱۲	عصا اژدھا بن گیا	
۱۳	عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے	
۱۴	عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا	
۱۵	دوڑنے والا پتھر	۲
۱۷	ایک شبہ کا ازالہ	
۱۹	میدان تہ	۳
۲۰	روشن ہاتھ	۴
۲۰	من و سلویٰ	۵
۲۱	بارہ ہزار یہودی بندر ہو گئے	۶
۲۲	دنیا کی سب سے قیمتی گائے	۷
۲۴	ستر ہزار مردے زندہ ہو گئے	۸
۲۴	حضرت حزقیل علیہ السلام	
۲۸	مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ	
۳۱	لطیفہ	
۳۲	سو برس مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے	۹
۳۲	بخت نصر کون تھا؟	
۳۶	تابوت سکینہ	۱۰
۳۸	تابوت سکینہ میں کیا تھا؟	

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۴۰	ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے	۱۱
۴۲	مردوں کو پکارنا	
۴۲	تصوف کا ایک نکتہ	
۴۳	طالوت کی بادشاہی	۱۲
۴۵	حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے؟	۱۳
۴۶	حضرت داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش	
۴۸	محراب مریم	۱۴
۵۰	حضرت مریم باکرامت ولیہ ہیں	
۵۰	عبادت گاہ مقام مقبولیت ہے	
۵۰	قبروں کے پاس دعاء	
۵۰	مقام ابراہیم	۱۵
۵۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار معجزات	۱۶
۵۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر	۱۷
۵۸	عیسائیوں کا مباہلہ سے فرار	۱۸
۶۱	حضرت بخندی اور بساطی شاعر	
۶۱	ابوالحسن ہمدانی کی مرغی	
۶۲	بلخ کا ہر آدمی جھوٹا ہو گیا	
۶۲	پانچ ہزار فرشتے میدان جنگ میں	۱۹
۶۵	سب سے پہلا قاتل و مقتول	۲۰
۶۹	مردے دفن کرنا کوئے نے سکھایا	۲۱
۷۰	آسمانی دسترخوان	۲۲
۷۳	ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید	۲۳
۷۵	فرعونوں پر لگاتار پانچ عذاب	۲۴
۸۰	حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی	۲۵

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۸۱	قدار بن سالف	
۸۲	زلزلہ کا عذاب	
۸۳	ایک لاکھ چالیس ہزار یزیدی مقتول	
۸۴	عذاب کی زمین منحوس	
۸۴	قوم عاد کی آندھی	۲۶
۸۷	الٹ پلٹ ہونے والا شہر، شہر سندوم	۲۷
۹۰	سامری کا پتھر	۲۸
۹۳	سروں کے اوپر پہاڑ	۲۹
۹۴	زبان لٹک کر سینے پر آگئی	۳۰
۹۴	بلعم بن باعوراء	
۹۷	بلعم باعوراء کیوں ذلیل ہوا؟	
۹۸	حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں	۳۱
۹۸	نینوی	
۹۹	عذاب ٹلنے کی دعاء	
۱۰۲	چار مہینے کے بچے کی گواہی	۳۲
۱۰۴	حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا	۳۳
۱۰۵	حکایت	
۱۰۸	سورہ یوسف کا خلاصہ	۳۴
۱۱۶	حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات	
۱۱۷	حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر	
۱۱۷	مکہ مکرمہ کیوں کرا آباد ہوا؟	۳۵
۱۱۹	دعا ابراہیمی کا اثر	
۱۲۱	ابولہب کی بیوی کو رسول نظر نہ آئے	۳۶
۱۲۲	اصحاب کہف	۳۷

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۱۲۵	اصحاب کہف کی تعداد	
۱۲۶	اصحاب کہف کے نام	
۱۲۶	اصحاب کہف کے ناموں کے خواص	
۱۲۷	اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے؟	
۱۲۷	سفر مجمع البحرین کی جھلکیاں	۳۸
۱۳۱	حضرت خضر کا تعارف	
۱۳۲	حضرت ذوالقرنین و یاجوج و ماجوج	۳۹
۱۳۳	ذوالقرنین کیوں کہلائے؟	
۱۳۳	ذوالقرنین کے تین سفر	
۱۳۵	سد سکندری	
۱۳۶	شجر مریم اور نہر جبریل	۴۰
۱۳۸	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی تقریر	۴۱
۱۳۹	حضرت ادریس علیہ السلام	۴۲
۱۴۱	دریا کی موجوں سے ماں کی گود میں	۴۳
۱۴۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام	
۱۴۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی	۴۴
۱۴۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل	
۱۴۷	حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان	۴۵
۱۴۸	فائدہ	
۱۵۰	حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی	۴۶
۱۵۲	لطیفہ	
۱۵۳	حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہد	۴۷
۱۵۵	تخت بلقیس کس طرح آیا؟	۴۸
۱۵۷	حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثل وفات	۴۹

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۱۵۹	قارون کا انجام	۵۰
۱۶۱	قارون کا خزانہ	
۱۶۱	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت	
۱۶۲	رومی غالب ہو کر پھر مغلوب ہوں گے	۵۱
۱۶۳	غزوہ احزاب کی آندھی	۵۲
۱۶۶	قوم سبا کا سیلاب	۵۳
۱۶۷	سیلاب کس طرح آیا؟	
۱۶۸	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تین مبلغین	۵۴
۱۷۲	پھولا باغ منٹوں میں تاراج	۵۵
۱۷۳	دربار داؤد علیہ السلام میں ایک عجیب مقدمہ	۵۶
۱۷۵	ان شاء اللہ چھوڑنے کا نقصان	۵۷
۱۷۶	اصحاب الاخدود کے مظالم	۵۸
۱۷۹	چار قابل عبرت عورتیں	۵۹
۱۸۲	حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تین روزے	۶۰
۱۸۳	شہادت کی جنت	۶۱
۱۸۵	اصحاب فیل و لشکر ابابیل	۶۲
۱۸۷	فتح مکہ کی پیشین گوئی	۶۳
۱۸۹	بیت اللہ میں داخلہ	
۱۹۰	شہنشاہ دو عالم کا دربار عام	
۱۹۰	فتح مکہ کی تاریخ	
۱۹۳	جادو کا علاج	۶۴
۱۹۵	حضرت خضر علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعاء	۶۵
۱۹۶	تلاوت کی اہمیت و آداب	۶۶



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط  
مُسْلِماً وَمُحَمَّدَهُ وَمُصَلِّیًّا

## کیوں لکھا؟ اور کیا لکھا؟

ربیع الاول ۱۴۰۰ھ میں چند مقتدر علماء اہل سنت نے اپنی خواہش بصورت فرمائش ظاہر فرمائی کہ میں قرآن مجید کا ایک ترجمہ سلیس اور عام فہم زبان میں لکھ دوں اس وقت پہلی بار مجھ پر فالج کا حملہ ہو چکا تھا میں نے جواب میں ان حضرات سے اپنی ضعیفی اور بیماری کا عذر کر کے اس کام سے معافی طلب کر لی اور عرض کر دیا کہ اگر چند سال قبل آپ لوگوں نے اس طرف توجہ دلائی ہوتی تو میں ضرور یہ کام شروع کر دیتا۔ مگر اب جب کہ ضعیفی کے ساتھ مرض فالج نے میری توانائیوں کو بالکل مضحک کر دیا ہے۔ اتنا بڑا کام میرے بس کی بات نہیں! پھر بعض عزیزوں نے کہا کہ اگر پورے قرآن مجید کا ترجمہ آپ نہیں لکھتے تو ”نوادیر الحدیث“ کی طرح قرآن مجید کی چند آیتوں ہی کا ترجمہ اور تفسیر لکھ کر آیتوں کی مناسب تشریح کر دیتے تو بہت اچھا اور بے حد مفید علمی کام ہو جاتا۔

یہ کام میرے نزدیک بہت سہل تھا چنانچہ میں نے توکل علی اللہ اس کام کو شروع کر دیا۔ مگر ابھی تقریباً ایک سو صفحات کا مسودہ لکھنے پایا تھا کہ ناگہاں ۱۳ دسمبر ۱۹۸۱ء کو رات میں سوتے ہوئے فالج کا دوسری مرتبہ حملہ ہوا اور بائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں اس طرح مفلوج ہو گیا کہ اس میں حس و حرکت ہی باقی نہ رہی۔ فوراً ہی بذریعہ جیب براؤں شریف سے دو طالب علموں کی مدد سے اپنے مکان پر گھوسی آ گیا اور دو ماہ پلنگ پر پڑا رہا مگر الحمد للہ! کہ بہت جلد خداوند کریم کا فضل عظیم ہو گیا کہ ہاتھ پاؤں میں حس و حرکت پیدا ہو گئی اور تین ماہ کے بعد میں کھڑا ہونے لگا اور رفتہ رفتہ بحمدہ تعالیٰ اس قابل ہو گیا کہ جمعہ و جماعت کے

لئے مسجد تک جانے لگا چنانچہ وہ مسودہ جو نا تمام رہ گیا تھا۔ اب بحالت مرض اس کو مکمل کر کے ”عجائب القرآن“ کے نام سے نظارین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

اس مجموعہ میں قرآن مجید کی مختلف صورتوں سے چن کر پینسٹھ ان عجیب چیزوں اور تعجب خیز وحیرت انگیز واقعات کو جن کا قرآن مجید میں مختصر تذکرہ ہے نقل کر کے ان کی مناسب تفصیل و توضیح تحریر کر دی ہے اور ان واقعات کے دامنوں میں جو عبرتیں اور نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی ”درس ہدایت کے عنوان سے پیش کر دیا ہے۔“

دعا ہے کہ خداوند کریم میری دوسری تصنیفات کی طرح اس انیسویں کتاب کو بھی مقبولیت دارین کی کرامتوں سے سرفراز فرما کر نافع الخلاق بنائے اور اس خدمت کو میرے اور میرے والدین نیز میرے اساتذہ و تلامذہ و مریدین و احباب کے لئے زاد آخرت و ذریعہ مغفرت بنائے اور میرے نواسرہ مولوی فیض الحق صاحب سلمہ المولیٰ تعالیٰ کو عالم باعمل بنائے اور ان کو جزاء خیر عطا فرمائے کہ وہ اس کتاب کی تدوین و تہیض اور طباعت وغیرہ میں میرے دست و بازو بنے رہے۔ آمین

یہ کتاب اس حال میں تحریر کر رہا ہوں کہ کمزوری و نقاہت سے چلنا پھرنا دشوار ہو رہا ہے۔ مگر الحمد للہ کہ داہنا ہاتھ کام کر رہا ہے اور دل و دماغ بالکل درست ہے۔ علاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین کرام دعا فرمائیں کہ مولیٰ تعالیٰ مجھے جلد شفا یاب فرمائے تاکہ میں آخری حیات تک درس حدیث و دینی تصانیف و مواعظ کا سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز ۰ وهو حسبی ونعم الوکیل والحمد للہ رب العالمین ۰ و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والہ و صحبہ اجمعین۔

عبدالمصطفیٰ الاعظمی عفی عنہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

## (۱) جنتی لاٹھی

یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے۔ جس کو ”عصاء موسیٰ“ کہتے ہیں اس کے ذریعہ آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔

اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔

یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر دس ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر دو شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدی علی اہوزی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ

وَإِذْ مَعَهُ أَنْزَلَ الْغُودُ وَالْعَصَا لِمُوسَىٰ مِنَ الْأَسِ النَّبَاتِ الْمُكْرَمِ  
وَأَوْزَاقِ تَيْنٍ وَالْيَمِينِ بِمَكَّةَ وَخَتَمَ سُلَيْمَانَ النَّبِيَّ الْمُعْظَمِ

یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ غود (خوشبو دار لکڑی) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا اور انجیر کی پتیاں اور حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ یہ پانچویں چیزیں جنت سے اتاری

گئیں۔ (صاوی ج ۱ ص ۳۲)

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا۔ یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو ”قوم مدین“ کے نبی تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفوراء رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح فرمادیا اور آپ دس برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔

پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لئے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام ”طوی“ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حن جمل مجدہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ .  
 قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا  
 وَأَهشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ  
 فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَىٰ ۝  
 اور اے موسیٰ! آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟  
 تو آپ نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے میں اس پر  
 ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لئے  
 پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میرے دوسرے کام  
 بھی نکلتے ہیں۔ (سورۃ طہ رکوع ۱)

مَارِبٌ أُخْرَىٰ (دوسرے کاموں) کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احد نفی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ مثلاً (۱) اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا (۲) اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا (۳) دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا (۴) رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا۔ (۵) اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا (۶) کنوئیں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا (۷) بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا (۸) اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔

(تفسیر مدارک التنزیل ج ۳ ص ۵۰)

حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے۔ مگر جب

آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادو گر کہہ کر جھٹلایا تو آپ اس عصا کے ذریعہ بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا۔ جن میں سے تین معجزات کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار فرمایا جو حسب ذیل ہیں۔

### (۱) عصا اژدہا بن گیا

اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادو گروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لئے مقابلہ پر لگا دیا اور اس میلہ کے اثر و دام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا ایک طرف جادو گروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا اور ان جادو گروں کی فوج کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادو گروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لائٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا۔ تو ایک دم وہ لائٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکار مار مار کر دوڑنے لگیں اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا اور فرعون اور اس کے تمام جادو گر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشہ میں بدمست ہو گئے اور جوش شادمانی میں تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لائٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو یہ لائٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادو کے تمام سانپوں کو نکل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادو گر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ میں گر پڑے اور بہ آواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَ مُوسٰی یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ۔

جادو گروں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنیں تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ تمہیں ڈالو تو یکا یک انکی رسیاں اور لائٹھیاں انکی نظر بندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی معلوم

قَالُوْا يٰمُوسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقٰى وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ۝ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۙ فَاِذَا جِبَالُهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اِنَّهَا تَسْعٰى ۝ فَاَوْجَسَ فِى نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوسٰى ۝ قُلْنَا لَا

تَخَفَ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی ۝ وَاَلْقِ مَا  
فِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا  
صَنَعُوْا كَيْدٌ سَجِرٌ وَلَا يُفْلِحُ  
السَّاجِرُ حَيْثُ اَتٰی ۝ فَالْقِي  
السَّحْرَةَ سَجْدًا قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ  
هٰرُوْنَ وَمُوْسٰی ۝ (طہ رکوع ۳۷)

ہونے لگیں جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو  
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں تھوڑا  
خوف سا ہوا تو ہم نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں۔ تم  
ہی غالب رہو گے اور تمہارے ہاتھ میں جو  
عصا ہے اسکو ڈال دو تو ان لوگوں نے جو  
سوانگ بنایا ہے یہ عصا ان سب کو نگل جائے

گا اور جادوگر معجزات کے مقابلہ میں جہاں بھی وہ آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ تو تمام جادوگر سجدہ  
میں گر کر کہنے لگے کہ ہم حضرت ہارون و حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔

(۲) عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے

نبی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت  
میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا جو  
بدترین قسم کے کفار تھے جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام  
کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے  
ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ چھ لاکھ بنی اسرائیل کی فوج  
لے کر جہاد کے لئے روانہ ہو گئے۔ مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ  
کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نا فرمانی پر  
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ چالیس برس تک ”میدان تہ“ میں بھٹکتے اور  
گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں  
کے ساتھ میدان تہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیاہ میدان میں  
بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا  
سے ان لوگوں کے کھانے کے لئے ”من وسلوی“ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک  
قسم کا حلوہ تھا اور سلوی بھنی ہوئی بیسیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے  
تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو  
اس پتھر میں بارہ چشموں کی ٹونٹیاں پھوٹ کے بہنے لگیں اور بنی اسرائیل کے بارہ خاندان

اپنی ایک ایک ٹوٹی سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے اور پورے چالیس برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ اور معجزہ کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ۔

اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے فرما دیا کہ تم اپنی لاشی سے پتھر کو مار دو تو اس پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ کر بنے لگے اور ہر آدمی کو اپنے اپنے پینے کے چشمے کا علم ہو گیا۔

وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا  
اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ  
فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ  
عَلِمَ كُلُّ أَنَاثٍ مَّشْرَبَهُمْ  
(بقرہ رکوع ۷)

(۳) عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا

حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے۔ مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا۔ بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا اس لئے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لئے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاشی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جوں ہی آپ نے دریا پر لاشی ماری تو فوراً ہی دریا میں بارہ سڑکیاں بن گئیں اور بنی اسرائیل نے ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے

ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا۔ مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون مع اپنے لشکروں کے دریا میں غرق ہو گیا اس واقعہ کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا کہ۔

فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ۝ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝

جب دونوں جماعتیں (لشکر فرعون و اصحاب موسیٰ) ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو اصحاب موسیٰ نے کہا کہ ہم بالیقین گرفتار ہو جائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے وہ عنقریب مجھے اس سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا۔

وَأَذَلْنَا ثُمَّ الْأَخْرَيْنَ ۝ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۝ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْأَخْرَيْنَ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

(شعراء رکوع ۳۴ پ ۱۰)

پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو (چنانچہ انہوں نے اس پر عصا مارا جس سے دریا پھٹ گیا) اور دونوں حصہ اس کا اتنا اونچا تھا جیسے بڑا پہاڑ اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس جگہ

کے قریب پہنچا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب ساتھیوں کو بچا لیا پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے اور باوجود اسکے ان کفار میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔

یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاشی کے ذریعہ ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لئے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

## (۲) دوڑنے والا پتھر

یہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے



جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔

### پہلا معجزہ

اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو درحقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔

اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگا بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے۔ لیکن خداوند قدوس نے اس کو نبوت و رسالت کی عظمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لئے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی پر سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے۔ اس لئے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہہ پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصہ میں یا تو برص کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لئے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈہ پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ و رنج گزرا اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا؟ اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خلاق عالم کو کب اور کیونکر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی۔ ارحم الراحمین نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈہ اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھنٹ گئے اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم تاب سے روشن و آشکارا ہو گیا۔

اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لئے تشریف لے گئے اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے اس لئے آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل

فرمانے لگے، غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لئے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لئے ہوئے سر پٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور فرمانے لگے کہ ٹوبی حجر، ٹوبی حجر۔ یعنی اے پتھر میرا کپڑا اے پتھر میرا کپڑا۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کو چوں میں پہنچ گیا اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی غیب نہیں ہے۔ بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ ما بموسیٰ من باس یعنی خدا کی قسم حضرت موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برأت کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا؟ (بخاری ج ۱ ص ۴۸۳ و صاوی ج ۱ ص ۳۲ و روح البیان ج ۱ ص ۱۴۶)

اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا  
كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ  
مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ  
وَجِيهًا  
اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ  
جنہوں نے (تہمت لگا کر) حضرت موسیٰ علیہ  
السلام کو دیکھ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ  
علیہ السلام کو ان لوگوں کی بکو اس سے بری فرما دیا  
تھا۔ اور وہ اللہ کے نزدیک بہت آبرو والے ہیں!

(احزاب رکوع ۹۴)

دوسرا معجزہ

”میدان تہ“ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اُردیا تھا تو اس میں سے پارہ چشموں کی ٹوٹیاں جاری ہو گئی تھیں جس کے پانی کو چالیس برس تک بنی اسرائیل میدان تہ میں استعمال کرتے رہے۔ جس کا پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے! قرآن مجید کی آیت فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ میں ”پتھر“ سے یہی پتھر مراد ہے!

## ایک شبہ کا ازالہ

معجزات کے منکرین جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی عینک ہی سے دیکھا کرتے ہیں اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے۔ حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں خداوند تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا فرمادی ہے کہ وہ بال موٹہ دیتے ہیں۔ بعض پتھروں کا یہ اثر ہے کہ وہ سر کہ کہ تیز اور ترش بنا دیتے ہیں۔ بعض پتھروں کی خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں۔ بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں۔ بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے۔ بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لئے تریاق ہیں۔ بعض پتھروں کو آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے۔ بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے۔ بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ تو جب خداوند قدوس نے پتھروں میں قسم قسم کے اثرات پیدا فرمادیئے ہیں تو پھر اس میں کون سی خلاف عقل اور محال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں نہما صبت عطا فرمادی ہے کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے ٹونٹیوں کی شکل میں باہر نکالتا رہے۔ یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ یہ خداوند قادر و قدیر کی قدرت سے ہر گز ہرگز نہ کوئی بعید ہے نہ محال۔ نہ خلاف عقل لہذا اس معجزہ پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے قرآن مجید میں ہے۔

وَأَنَّ مِنَ الْجِبَارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ  
الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقُّ  
فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا  
يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (بقرہ رکوع ۹۶)

اور بیشک پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے  
ندیاں بہہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ  
جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ  
ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔

بہر حال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشم دید مشاہدہ ہے۔ تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا کیونکہ خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے؟

### (۳) میدان تہ

جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل اور مسلمان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس (بیت المقدس) میں داخل ہو جائیں اس وقت بیت المقدس پر عمالکہ کی قوم کا قبضہ تھا جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھ لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالکہ سے جہاد کے لئے روانہ ہوئے۔ مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں ”جبارین“ (عمالکہ) ہیں جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں۔ لہذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ! آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں۔ ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا کہ۔

رَبِّ اِنِّیْ لَا اَمْلِکُ اِلَّا نَفْسِیْ  
وَ اَحِیْ فَا فَرُقْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ الْقَوْمِ  
الْفَاسِقِیْنَ ۝ (مائدہ رکوع ۴ پارہ ۶)

اے میرے پروردگار! مجھے اپنے اوپر اور  
میرے بھائی پر اختیار ہے۔ لہذا تو ہم کو ان  
نافرمانوں سے الگ رکھ۔

اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ۔  
فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِیْنَ سَنَةً  
یَتِیْهُوْنَ فِی الْاَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلٰی  
الْقَوْمِ الْفَاسِقِیْنَ ۝ (مائدہ رکوع ۴ پارہ ۶)

وہ مقدس زمین ان لوگوں پر چالیس برس تک  
حرام ہے۔ یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں  
گے لہذا آپ ان نافرمانوں کا غم نہ کھائیں۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ چھ لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں چالیس برس تک بھٹکتے رہے۔ مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام ”میدان تہ“ ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لئے ”من و سلویٰ“ نازل ہوا اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر میں سے بارہ چشمے جاری ہو گئے اس واقعہ کو قرآن مجید نے

بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے جس میں سے سورہ مائدہ میں یہ واقعہ قدرے تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے جو بلاشبہ ایک عجیب الشان واقعہ ہے۔ جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ میدان تہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے کھانے کے لئے من و سلویٰ نازل کرایا اور پتھر پر عصا مار کر بارہ چشمے جاری کر دیئے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور آپ کے حلم اور تحمل کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

## (۴) روشن ہاتھ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لئے اس کے دربار میں بھیجا تو دو معجزات آپ کو عطا فرما کر بھیجا۔ ایک ”عصا“ دوسرا ”ید بیضاء“ (روشن ہاتھ) حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا پھر جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیتے تو وہ اپنی اصلی حالت میں ہو جایا کرتا تھا۔ اس معجزہ کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ طہ میں ارشاد فرمایا کہ۔

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ  
تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً  
أُخْرَىٰ لِنُرَيْكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ۝  
(طہ رکوع ۱ پارہ ۱۶)

اور (اے موسیٰ) اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملاؤ تو  
خوب سپید نکلے گا بغیر کسی مرض کے۔ یہ ایک  
دوسرا معجزہ ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی  
نشانیوں دکھائیں۔

اسی معجزہ کا نام ”ید بیضاء“ ہے جو ایک عجیب اور عظیم معجزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا۔ (خزان العرفان ص ۳۵۲)

## (۵) من و سلویٰ

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھ لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان تہ میں

مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کھانے کے لئے آسمان سے دو طرح کا کھانا اتارا تھا۔ ایک کا نام ”من“ اور دوسرے کا نام ”سلوی“ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا۔ یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی اور سلوی پکی ہوئی بیڑیں تھیں جو دکھنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَ السَّلْوٰی - (اے بنی اسرائیل) ہم نے میدان تیرے میں تم

لوگوں پر من و سلوی اتارا۔

اس من و سلوی کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھالیا کرو اور کل کے لئے ہرگز ہرگز اس کا ذخیرہ مت جمع کرنا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ دغدغہ ہونے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوی نہ اترتا تو ہم لوگ اس بے آب و گیاہ چشیل میدان میں بھوکے مرجائیں گے چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لئے رکھ لیا تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لئے جمع کیا تھا وہ سڑ گیا اور آئندہ کے لئے اترنا بند ہو گیا اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ چھپاتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا۔ ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ (تفسیر روح البیان ج ۱ ص ۱۴۲ مصری)

## (۶) بارہ ہزار یہودی بندر ہو گئے

روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی ”عقبہ“ کے پاس سمندر کے کنارے ”ایلہ“ نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سینچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتہ کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا۔ مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سینچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو اور جب سینچر کے دن ان نالیوں کے ذریعہ مچھلیاں حوض میں آ

جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی پسند آگئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا تو سپنچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لئے حرام تھا۔

اس موقع پر ان یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے۔ (۱) کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلہ سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ (۲) اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے دوسرے کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ (۳) اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حیلہ بازی کو مان کر سپنچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بچا بھی لیا۔

جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنالی اور آمدورفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضب ناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمادی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لئے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار زار روتے تھے۔ مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد بارہ ہزار تھی یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے۔ بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ (صاوی ج ۱ ص ۳۵)

اس واقعہ کا اجمالی بیان تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ  
فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً  
خَاسِيْنَ (البقرہ رکوع ۸)

اور بیشک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں  
سے سب کے بارے میں حد سے بڑھ گئے  
تھے۔ تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے  
ہوئے بندر ہو جاؤ!

اور مفصل واقعہ سورہ اعراف میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔

(اے رسول) ان (یہود) سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کے کنارے تھی جب وہ  
سینچ کے بارے میں حد سے بڑھے۔ جب سینچ کے دن ان کی محبلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان  
کے سامنے آئیں اور جو سینچ کا نہ ہوتا تو نہ آئیں اسی طرح ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے  
تھے ان کی نافرمانی کے سبب سے اور جب ان نے ان کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کو نصیحت  
کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ بلاک کر۔ اور ایسا نہیں ست عذاب دینے والا ہے تو  
وہ لوگ بولے کہ تمہارے رب کے حضور عذر آگے اور اس لئے بھی کہ شاید یہ ڈر  
جائیں۔ پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی  
سے منع کرتے تھے اور خالموں کو بڑے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ ان کی نافرمانیوں کا بدلہ  
دینے کے لئے پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے فرما دیا کہ تم لوگ  
دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ (الاعراف رکوع ۲۱)

### درسِ ہدایت

معلوم ہوا کہ شیطانی حیلہ بازیوں میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام  
کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے؟ اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرمادیں وہ کیسے  
ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے  
ہیں اور دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ (توبہ نعوذ باللہ منہ)

اصحاب ایلہ کے اس دل ہلا دینے والے واقعہ میں ہر مسلمان کے لئے بہت بڑی  
عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعہ سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف  
خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ و رسول کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے  
منہ موڑ کر صراطِ مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہان کی سر بلندیوں سے سرفراز ہو کر



اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔

## (۷) دنیا کی سب سے قیمتی گائے

یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے اور اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورہ کا نام ”سورۃ البقرہ“ (گائے والی سورہ) رکھا گیا ہے۔

اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے اور ان کا ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا اور اس کے پاس فقط ایک گائے کی بچھیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچھیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ! میں اس بچھیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچھیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرماں بردار اور انتہائی نیکو کار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ میں سوتا تھا اور ایک حصہ میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے ایک تہائی رقم صدقہ کر دیتا اور ایک تہائی اپنی ذات پر خرچ کرتا اور ایک تہائی رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔

ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے! تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچھیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سوئپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق کے خدا! تو میرے باپ کی سوئپ ہوئی امانت مجھے واپس دے دے اور اس بچھیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھرا لیا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا! تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں تین دینار میں فروخت کر ڈالو لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورہ کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت تین دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو درحقیقت فرشتہ

تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت تین دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ سے  
 بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو مگر میں  
 اپنی ماں سے مشورہ کئے بغیر ہرگز ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے سارا ماجرا بیان  
 کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو تو اے بیٹا! تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس  
 گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے  
 مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو۔ آئندہ اس گائے کو حضرت  
 موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت  
 طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔

چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو جس کا نام  
 عامیل تھا اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں  
 ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی۔ مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ  
 علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ  
 ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے  
 قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اس کی عمر وغیرہ کے بارے  
 میں بحث و کرید شروع کر دی اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے  
 چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے  
 پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے  
 گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی  
 زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے  
 چچا کے دونوں لڑکے ہیں۔ جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر  
 پھر وہ مر گیا چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی  
 ماں کا فرماں بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ (جلالین۔ صاوی وغیرہ)

اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے!  
 ”اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے  
 ذبح کرو۔ تو وہ لوگ بولے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پناہ

بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو بوڑھی ہو نہ بچھیا۔ بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان ہو۔ تو تم کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے وہ لوگ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈھڈھاتی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے وہ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دے کہ وہ کیسی گائے ہو؟ کیونکہ گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے زمین جوتنے کی خدمت نہ لی جاتی ہو اور نہ وہ کھیت میں پانی بھرتی ہو بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ لوگ بولے کہ اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لائے پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے اور اے (بنی اسرائیل) جب تم لوگوں نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کر دینا تھا جس کو تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ مقتول کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے مارو۔ (تو وہ زندہ ہو گیا) اور اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا اور وہ اپنی نشانیاں تم لوگوں کو دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو۔ (سورۃ البقرۃ ع ۸)

### درسِ ہدایت

اس واقعہ سے بہت سی حیرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے ان میں سے چند یہ ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں!

۱- خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ اس مرد صالح نے صرف ایک بچھیا چھوڑ کر وفات پائی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو ایک بچھیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی!

۲- اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچھیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لئے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے!

- ۳- ماں باپ کی فرماں برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرمادیتا ہے۔ دیکھ لو کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرماں برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوش حال بنا دیا۔
- ۴- خداوند قدوس کے احکام میں بحث و کرید کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ دیکھ لو بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا۔ مگر ان لوگوں نے جب بحث اور کرید شروع کر دی کہ کیسی گائے ہو؟ کیسا رنگ ہو؟ کتنی عمر ہو؟ تو مصیبت میں پڑ گئے کہ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی۔ اسی لئے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہ ہوئی۔ نہ آئندہ ہونے کی امید ہے!
- ۵- جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سوئپ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرمادیتا ہے۔
- ۶- جو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرمادے اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے کہ جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا!
- ۷- امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کے چمڑے کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لئے یہ فرمایا کہ "تَسْرُ النَّاطِرِينَ" کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے!
- ۸- اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور جس قدر بھی زیادہ بے عیب اور خوبصورت اور قیمتی ہو اسی قدر زیادہ بہتر ہے! (واللہ تعالیٰ اعلم)

## ستر ہزار مردے زندہ ہو گئے

یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت خیز اور انتہائی نصیحت آمیز واقعہ ہے جس کو خداوند قدوس نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے!

حضرت حزقیل کون تھے؟

یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کئے گئے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز (بڑھیا کے بیٹے) ہے اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے تھے۔ ”ابن العجوز“ کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب کہ ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لئے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر ستر انبیاء کرام کو قتل سے بچالیا تھا۔ جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے!

### مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ

اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ ”موتوا“ یعنی تم سب مر جاؤ اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک یہ سب کے سب مر گئے جن کی تعداد ستر ہزار تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن آٹھ دن تک پڑی پڑی سڑنے لگیں اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھادی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا۔ تو اپنی قوم کے ستر ہزار انسانوں کو اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی

دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔ آبدیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑگڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ! یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں ان لوگوں سے مجھے انس حاصل تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب! یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل! (علیہ السلام) آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیو! بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل! آپ یہ فرما دیجئے کہ اے ہڈیو! تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی اے حزقیل! اب یہ کہہ دو کہ اے مردو! خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی ستر ہزار لاشیں دم زدن میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں کہ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کے اور ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔

(تفسیر صاوی ج ۱ ص ۱۰۱ اور روح البیان ج ۲ ص ۳۷۷)

یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا کہ۔

اے محبوب! کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا  
جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت  
کے ڈر سے نکل بھاگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان  
سے یہ فرمادیا کہ ”تم سب مر جاؤ پھر اللہ تعالیٰ نے  
انہیں زندہ فرمادیا بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل  
کرنے والا ہے۔ مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ  
دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ  
الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا  
ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ  
عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
لَا يَشْكُرُونَ ۝

### درسِ ہدایت

بنی اسرائیل کے اس محیر العقول واقعہ سے مندرج ذیل ہدایات ملتی ہیں۔

۱- آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا۔ لہذا موت سے بھاگنا بالکل  
ہی بے کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرمادی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے  
گی نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی۔ لہذا بندوں  
کو لازم ہے کہ رضا الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہیں اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا  
گھمسان کا رن پڑے اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور یہ یقین  
رکھیں کہ جب تک میری موت نہ آئے گی نہ مجھے کوئی مار سکتا ہے نہ ہرگز ہرگز میں مر  
سکتا ہوں اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں کہیں بھی چلا جاؤں  
بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا ہوں میں کسی حال میں نہیں بچ سکتا!

۲- اس آیت میں خاص طور پر مجاہدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا یا میدان  
جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز ہرگز موت کو دفع نہیں کر سکتا۔ لہذا مجاہدین کو میدان  
جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں ہرگز ہرگز  
موت کے وقت سے پہلے نہ مر سکتا ہوں۔ نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے یہ عقیدہ رکھنے والا  
اس قدر بہادر اور شیر دل ہو جاتا ہے کہ خوف اور بزدلی کبھی اس کے قریب نہیں آ سکتی  
اور اس کے پائے استقلال میں کبھی بال برابر بھی کوئی لغزش نہیں آ سکتی۔ اسلام کا بخشا  
ہوا یہی وہ مقدس عقیدہ ہے کہ جس کی بدولت مجاہدین اسلام ہزاروں کفار کے مقابلہ  
میں تنہا پہاڑ کی طرح جم کر جنگ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ فتح مبین ان کے قدموں کا

بوسہ لیتی تھی اور وہ ہر جنگ میں مظفر و منصور ہو کر اجر عظیم اور مال غنیمت کی دولتوں سے مالا مال ہو کر اپنے گھروں میں اس حال میں واپس آتے تھے کہ ان کے جسموں پر زخموں کی کوئی خراش بھی نہیں ہوا کرتی تھی اور وہ کفار کے دل بادل شکروں کا صفایا کر دیتے تھے۔ شاعر مشرق نے اس منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے کسی مجاہد اسلام کی زبان سے یہ ترانہ سنایا ہے کہ

ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے  
 پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے  
 حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے  
 تیغ کیا چیز ہے؟ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے  
 نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے  
 زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے

لطیفہ

منقول ہے کہ بنو امیہ کا بادشاہ عبدالملک بن مروان جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا اور ساتھ میں اپنے خال غلام اور کچھ فوج کو بھی لے لیا اور وہ طاعون کے ڈر سے اس قدر خائف اور ہراساں تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا۔ بلکہ گھوڑے کی پشت پر سویا کرتا تھا دوران سفر میں ایک رات اس کو نیند نہیں آئی۔ تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تم مجھے کوئی قصہ سناؤ۔ تو ہوشیار غلام نے بادشاہ کو نصیحت کرنے کا موقع پا کر یہ قصہ سنایا کہ ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لئے ایک شیر کی خدمت گزار کی کیا کرتی تھی۔ تو کوئی درندہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے لومڑی کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا اور لومڑی نہایت ہی بے خوفی اور اطمینان کے ساتھ ساتھ خدمت میں زندگی بسر کرتی تھی۔ اچانک ایک دن ایک عقاب لومڑی پر چھپنا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی اور شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھالیا۔ عقاب دوبارہ چھپنا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنے چنگل میں دبا کر اڑ گیا۔ لومڑی چلا چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی۔ تو شیر نے کہا کہ اے لومڑی! میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تیری حفاظت کر سکتا ہوں



لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ یہ قصہ سن کر عبد الملک بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں مگر جو بلائیں اور وبائیں آسمان کی طرف سے مجھ پر حملہ آور ہوں ان سے مجھ کو نہ میری بادشاہی بچا سکتی ہے نہ میرا خزانہ اور نہ میرا لشکر میری حفاظت کر سکتا ہے۔ آسمانی بلاؤں سے بچانے والا تو بجز خدا کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر عبد الملک بادشاہ کے دل سے طاعون کا خوف جاتا رہا اور وہ رضا الہی پر راضی رہ کر سکون و اطمینان کے ساتھ شاہی محل میں رہنے لگا۔

(روح البیان ج ۲ ص ۳۷۸)

## (۹) سو برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے

اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیا علیہ السلام کا ہے جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بد اعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابل کی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے ایک لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا اور ایک لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور ایک لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہیں قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویرانہ بنا ڈالا۔

بخت نصر کون تھا؟

قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت ”نصر“ کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا اس لئے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر (نصر کا بیٹا) رکھ دیا۔ خدا کی شان یہ لڑکا بڑا ہو کر کبر اسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا۔ پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ (جمل علی الجلائین ج ۱ ص ۲۱۲)

کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح ”بخت نصر“ کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھرا آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی

انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں۔ مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا انسی یُحییٰ ہذہ اللہ بَعْدَ مَوْتِہَا یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا؟ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا۔ پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی میں باندھ دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جن و انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ یہاں تک کہ ستر برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا اور بچے کھچے بنی اسرائیل کو جو اطراف و جوانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا اور ان لوگوں نے نئی نئی عمارتیں بنا بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے ایک سو برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ گدھامر کر سڑ کر اس کی سفید سفید گلی سڑی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل ہی خراب نہیں ہوا ہے۔ نہ پھلوں میں کوئی تغیر نہ شیرے میں کوئی بو باس یا بد مزگی پیدا ہوئی ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہی ہیں اور آپ کی عمر وہی چالیس برس کی اب بھی ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر! آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے یہ خیال کر کے کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کم سوتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں! اے عزیر! تم پورے ایک سو برس یہاں ٹھہرے رہے اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لئے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو اس

کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر! اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر اور ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا کہ اَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ یعنی میں یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔

اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں ایک سو برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے؟ ان کو تو سو برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا! میں ہی عزیر ہوں تو بڑھیا! مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سو برس مردہ رکھا پھر مجھ کو زندہ فرما دیا ہے اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی اگر آپ واقعی حضرت عزیر ہیں تو میرے لئے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا انکھیری ہو گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو! بلاشبہ یہ حضرت عزیر ہی ہیں مگر کسی نے بھی بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسہ تھا جو چاند کی شکل کا تھا چنانچہ آپ نے اپنا کرتہ اتار کر دکھایا تو

وہ مسہ موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تورات زبانی یاد تھی۔ اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنادی بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت چالیس ہزار تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریث کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشان دہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی تو وہ حرف بہ حرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بیشک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ۔ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدہ پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ (معاذ اللہ)

(تفسیر جمل علی الجلائین ج ۱ ص ۲۱۲ تا ص ۲۱۵)

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔

یا اس (حضرت عزیر) کی طرح جو ایک بستی  
(بیت المقدس) پر گزرے اور وہ اپنی چھوتوں  
کے بل ڈھٹی پڑی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ  
اس (بستی) کو اس کی موت کے بعد اللہ  
کیونکر جلانے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سو  
برس تک مردہ رکھا۔ پھر ان کو زندہ فرمایا۔ اللہ  
تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کتنے دن یہاں ٹھہرے؟  
تو انہوں نے کہا کہ دن بھر ٹھہرا ہوں گا۔ یا

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ  
خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى  
يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَّا تَهُ  
اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ  
لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ  
يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ  
إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ  
يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ

وَلَنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى  
 الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا  
 لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۗ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ  
 اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝  
 (البقرہ رکوع ۳۵)

(جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں) اور اس لئے ہوا کہ ہم آپ کو لوگوں کے لئے اللہ کی نشانی بنا دیں۔ اور ان ہڈیوں کو دیکھو کہ کیونکہ ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں۔ پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں جب یہ معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

### درس ہدایت

(۱) ان آیتوں میں صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں۔ مگر پھلوں اور شیرہ انگور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ سو برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں ایسا ہو سکتا ہے۔ بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

(۲) بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیونکر اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

### (۱۰) تابوت سکینہ

یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ

کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا۔ پھر بطور میراث کے یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا۔ یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص خاص سامان رکھنے لگے۔

یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر "مَنْ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ" کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی اور جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے اور اس صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور دباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لئے تابوت سکینہ اور برکت و رحمت کا خزانہ تھا اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بد اعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا۔ عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیئے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے پانچ شہر بالکل ہر باد اور ویران ہو گئے یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا

عذاب ہم پر پڑ گیا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بلی گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ جب کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ (روح البیان ج ۲ ص ۳۸۶ و صاوی ج ۱ ص ۲۰۱)

### تابوت سکینہ میں کیا تھا؟

اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے۔ کچھ من وسلویٰ۔ اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ (جلالین، روح البیان، صاوی وغیرہ)

قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرہ رکوع ۳۲)

اور ان کے نبی (حضرت شمویل) نے فرمایا کہ اس (طالوت) کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا۔ جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین اور حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام کے کچھ تبرکات

ہیں۔ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً اس میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے۔

اگر تم ایمان رکھتے ہو!

## درس ہدایت

بنی اسرائیل کی صندوق کے اس واقعہ سے چند مسائل و فوائد پر روشنی پڑتی ہے۔ جو یاد رکھنے کے قابل ہیں! (۱) معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے اور ان کے ذریعہ مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو! اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم و معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی کہ **فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ**۔

یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا۔ اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوض و برکات ملتے رہیں گے۔

(۲) جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس و عصا اور جوتیاں ہوں جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا قرآن سے ثابت ہے۔ تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا کیا ان قبروں پر رحمت و برکت اور سکینہ و اطمینان نہیں اترے گا؟ ہر وہ عاقل انسان جس کو خداوند عالم نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی جوتیوں پر سکینہ رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا ضرور اس پر بھی بارش انوار و رحمت کے چند قطرات برس ہی جائیں گے۔ کیونکہ جو موسلا دھار بارش میں کھڑا ہوگا۔ ضرور اس کا کپڑا اور بدن بھیکے گا۔ جو دریا میں غوطہ لگائے گا ضرور اس کا بدن پانی سے تر



ہوگا۔ جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا ضرور اس کو خوشبو نصیب ہوگی۔

تو ثابت ہو گیا کہ جو بزرگوں کی قبروں پر حاضری دیں گے ضرور وہ فیوض و برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے اور ضرور ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا جس سے ان کے مصائب و آلام دفع ہوں گے اور دین و دنیا کے فوائد و منافع حاصل ہوں گے! (۳) یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی اہانت و بے ادبی کریں گے وہ ضرور ضرور قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہوں گے قوم عمالقہ نے جنہوں نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی ان پر ایسا قہر الہی کا پہاڑ ٹوٹا کہ وہ بلاؤں ہجوم سے بلبلا اٹھے اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ اسی لئے ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو نیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دیا تا کہ وہ لوگ غضب الہی کی بلاؤں کے پنجہ قہر سے نجات پالیں۔

(۴) جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو جہاں میں فتح مبین ملتی تھی۔ تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنین کی مشکلات دفع ہوں گی اور مرادیں پوری ہوں گی۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثر رحمت بزرگوں کے بدن میں ہوگا!

(۵) اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ و رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے پڑھ لیا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر عفریت بن کر سوار ہو گیا۔ تو ان کے جرموں کی نحوستوں نے انہیں یہ برادن دکھایا کہ صندوق سیکنہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے کفار اٹھالے گئے اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۱۱) ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ! تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم! کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟

میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں۔ لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چار پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو۔ پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو پکارو۔ تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ۔ ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور ان چار پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان چاروں پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا۔ پھر ان چاروں پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان چاروں کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا کہ **يَا أَيُّهَا الدِّيْكُ** (اے مرغ) **يَا أَيُّهَا الْحَمَامَةُ** (اے کبوتر) **يَا أَيُّهَا النَّسْرُ** (اے گدھ) **يَا أَيُّهَا الطَّاوُسُ** (اے مور) آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت پوست ہڈی پر الگ ہو کر چار پرند تیار ہو گئے اور وہ چاروں پرند بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ (جمل ج ۱۲، بیضاوی)

اس واقعہ کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان

فرمایا کہ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۗ قَالَ أُولَٰئِكَ تُؤْمِنُونَ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي ۗ قَالَ فَاخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُذَاءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۗ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ (البقرة رکوع ۳۵)

اور جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ کیونکر مردہ جلائے گا۔ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی کیوں نہیں۔ مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لو۔ پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو۔ پھر انہیں بلاؤ تو وہ آپ کے

پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اور یہ یقین رکھو کہ اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔

### درسِ ہدایت

مذکورہ بالا قرآنی واقعہ سے مندرجہ ذیل چند مسائل پر خاص طور سے روشنی پڑتی ہے۔  
ان کو بغور پڑھئے اور ہدایت کا نور حاصل کیجئے اور دوسروں کو بھی روشنی دکھائیے!

### مردوں کو پکارنا

چاروں پرندوں کو قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ **ثُمَّ اذْعُهْنَّ** یعنی ان مردہ پرندوں کو پکارو۔ چنانچہ آپ نے چاروں کو نام لے کر پکارا۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا تو ہرگز ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ نہ خداوند کریم کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم دے گا نہ کوئی نبی ہرگز ہرگز کبھی شرک کا کام کر سکتا ہے۔ تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں تو وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا کیونکر شرک ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ولیوں اور شہیدوں کے پکارنے کو شرک کہتے ہیں اور یا غوث کا نعرہ لگانے والوں کو شرک کہتے ہیں۔ انہیں تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنا چاہیے۔ تاکہ اس قرآنی واقعہ کی روشنی میں انہیں ہدایت کا نور نظر آ جائے اور وہ اہل سنت کے طریقے پر صراطِ مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں (واللہ الموفق)

### تصوف کا ایک نکتہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن چار پرندوں کو ذبح کیا ان میں سے ہر پرند ایک بری خصلت میں مشہور ہے۔ مثلاً مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ ہوتا ہے اور مرغ میں کثرتِ شہوت کی بری خصلت ہے اور گدھ میں حرص اور لالچ کی بری عادت ہے اور کتوبر کو اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر نخوت و غرور ہوتا ہے۔ تو ان چاروں پرندوں کے ذبح کرنے سے ان چاروں خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ چاروں پرند ذبح کئے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے

دل میں نور اطمینان کی تجلی ہوئی۔ جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے اور مور کو ذبح کرے یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے اور گدھ کو ذبح کرے یعنی حرص اور لالچ کا گلا کاٹ ڈالے اور کبوتر کو ذبح کرے یعنی اپنی بلند پروازی اور اونچے مرتبوں کے غرور و نخوت پر چھری چلا دے۔ اگر کوئی ان چاروں بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا ثبوت حاصل ہو جائے گا (واللہ تعالیٰ اعلم) (جمل ج ۱ ص ۲۱ و بیضاوی وغیرہ)

## (۱۲) طالوت کی بادشاہی

بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا۔ جو ملکی نظام چلاتا تھا اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتا تھا اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لادی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا طرہ امتیاز تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کئے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق ”طالوت“ کو بادشاہ بنا دیا۔ جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا۔ لیکن بہت ہی غریب و مفلس تھا۔ چمڑا پکا کر یا بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے۔ لہذا یہ کیونکہ اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے۔ ایک غریب و مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیونکر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضوں کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ۔

”طالوت کو میں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہی کے لئے چن لیا ہے اور ملک اللہ

ہی کا ہے وہ جس کو چاہے اپنا ملک عطا فرمادے اور اگر طالوت کے پاس مال و دولت نہیں تو کیا ہوا؟ دیکھو وہ کتنا طاقتور ہے اور کتنا بڑا صاحب علم ہے اور سلطنت چلانے کے لئے مال سے زیادہ طاقت اور علم کی ضرورت ہے۔ پھر ان باتوں کے علاوہ وہ طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ وہ تمہارا صندوق جو تم سے چھین لیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا“

(البقرہ رکوع ۳۲)

چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد چار فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شمویل کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی کو سنبھالا۔ بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں فرماتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ:

اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان لوگوں (بنی اسرائیل) نے کہا کہ ہم پر اس کی بادشاہی کیوں کر ہوگی؟ حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے تم پر (بادشاہی کے لئے) چن لیا ہے اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی دی ہے اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرمادے اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور ان (بنی اسرائیل) سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام کے ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے بے شک اس میں تمہارے لئے بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

(سورہ بقرہ رکوع ۳۲)

### درسِ ہدایت

اس واقعہ سے جہاں بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک بہت ہی واضح درس یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے

چھوٹے آدمی کو منٹوں بلکہ سکندوں میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے۔ دیکھ لو حضرت طالوت ایک بہت ہی کم درجے کے آدمی تھے اور اتنے مفلس تھے کہ یا تو دگر تھے جو چمڑے کو دباغت دے کر اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ یا بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ مگر لمحہ بھر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب تخت و تاج بنا کر بادشاہ بنا دیا۔

(۲) اس واقعہ سے اور قرآن مجید کی عبارت سے معلوم ہوا کہ جسمانی توانائی اور علم کی وسعت بادشاہی کے لئے مالداری سے زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ بغیر جسمانی طاقت اور علم کے نظام ملکی کو چلانا اور سلطنت کا انتظام کرنا تقریباً محال اور ناممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ علم کا درجہ مال سے بہت بلند تر ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

### (۱۳) حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے؟

جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لئے تیار کیا۔ اور ایک کافر بادشاہ ”جالوت“ سے جنگ کرنے کے لئے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا وہ اپنے سر پر لوہے کی جوٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن تین سو رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لئے صف آرائی کر چکیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا۔ میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لئے روانہ ہوئے تھے راستہ میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد! مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد! مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپھن لے کر صفوں سے

آگے بڑھے اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپھن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوپھن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر تیس جالوتوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کی فتح مبین ہو گئی اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدمی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے چالیس برس کے بعد حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر ستر برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے۔ اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا (جمل علی الجلائین ج ۱ ص ۲۰۸)

اس واقعہ کا اجمالی بیان قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس طرح ہے کہ۔  
 وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاتَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ (البقرہ رکوع ۳۳)

اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھا دیا۔

### حضرت داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش

حضرت داؤد علیہ السلام باوجودیکہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے خورد و نوش کا سامان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا اور

آپ اس سے زر ہیں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی بھی سکھادی تھی۔ (قرآن مجید)

### درسِ ہدایت

حضرت طالوت کی سرگزشت کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی مقدس زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو ایک لمحہ میں رانی کو پہاڑ اور ذرہ کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ غور کرو کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک کمن لڑکے تھے اور خود نہایت ہی مفلس اور ایک غریب باپ کے بیٹے تھے۔ مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے عظیم اور بڑے بڑے مراتب و درجات کے اعزاز سے سرفراز فرما دیا کہ ان کے سر پر تاج شاہی رکھ کر انہیں بادشاہ بنا دیا اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کے نکاح میں آئی اور پھر نبوت کا مرتبہ بلند انہیں عطا فرما دیا کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لئے کوئی بلند مرتبہ ہو سکتا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا جلوہ دیکھو کہ جالوت جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا جو ایک کمن لڑکے اور بیمار تھے۔ اور وہ بھی ان کے تین پتھروں سے قتل ہوا۔ حالانکہ جالوت کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے تین پتھروں کی کیا حقیقت تھی؟ جب کہ وہ تین سو رطل وزن کی فولادی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک چیونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہاتھی ایک چیونٹی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔

(۲) واقعہ مذکورہ بالا میں آپ نے پڑھ لیا کہ طالوت دگری یعنی چمڑا پکانے کا پیشہ کرتے تھے یا بکریاں چراتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور نبوت کے شرف سے بھی سرفراز فرما دیا تو انہوں نے اپنا ذریعہ معاش زر ہیں بنانے کے پیشے کو بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق حلال طلب کرنے کے لئے کوئی پیشہ اختیار کرنا خواہ وہ دگری ہو یا چرواہی ہو یا لوہاری ہو یا کپڑا بنانا ہو الغرض کوئی پیشہ ہرگز ہرگز نہ ذلیل ہے نہ ان پیشوں کے ذریعہ روزی حاصل کرنے والوں کے لئے کوئی ذلت ہے۔ جو لوگ بنکروں اور دوسرے پیشہ وروں کو محض ان کے پیشے کی بنا پر ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں وہ انتہائی جہالت و گمراہی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں رزق حلال طلب



کرنے کے لئے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا یہ انبیاء و مرسلین اور صالحین کا مقدس طریقہ ہے لہذا ہرگز ہرگز پیشہ ور مسلمان کو حقیر و ذلیل نہیں شمار کرنا چاہیے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پیشہ ور مسلمان ان لوگوں سے ہزاروں درجہ بہتر ہیں جو سرکاری نوکریوں اور رشوتوں اور دھوکہ دہی کے ذریعہ رقمیں حاصل کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں اور اپنے شریف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ شرعاً اس سے زیادہ ذلیل کون ہوگا جس کی کمائی حلال نہ ہو یا مشتبہ ہو۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

### (۱۳۰) محراب مریم

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کے والد کا نام ”عمران“ اور ماں کا نام ”حنہ“ تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھیں اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں۔ تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام مردوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خوردنوش کا انتظام کرنے کے لئے آتے جاتے رہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم یہ جواب دیتیں کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا۔ مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجزن تھی اور بار بار انہوں نے گڑ گڑا گڑا گڑا کر خدا سے فرزند ملنے کی دعا بھی مانگی تھی۔

مگر خدا کی شان بے نیازی کہ باوجود اس کے اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا۔ کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے۔ مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کے اولاد کا پھل عطا فرماتا۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود خداوند عالم نے ”یحییٰ“ رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ۔

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ فَنَادَتْهُ الْمَلَكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَخَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

(آل عمران رکوع ۴۷)

(حضرت عیسیٰ) کی تصدیق کریں گے اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والے ہوں گے اور نبی اور صالحین میں سے ہوں گے۔

درس ہدایت

اس واقعہ سے مندرجہ ذیل عبرتوں کی تجلی ہوتی ہے جن سے ہر مسلمان کو سبق حاصل

کرنا بہت ضروری ہے۔

### (۱) حضرت مریم با کرامت ولیہ ہیں

واقعہ مذکورہ سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں۔ کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے اور وہ بھی جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں۔ یہ ان کی ایک بہت ہی عظیم الشان اور واضح کرامت ہے۔ جو ان کی ولایت کی شاہد عدل ہے!

### (۲) عبادت گاہ مقام مقبولیت ہے

اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں۔ وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی!

### (۳) قبروں کے پاس دعا

جہاں اللہ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دنوں بیٹھ کر عبادت کریں جب ان جگہوں پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں تو ان مقبولان بارگاہ الہی کی قبروں کے پاس جہاں ان بزرگوں کا پورا جسم بر سہا برس تک رہتا ہے۔ وہاں بھی ضرور دعائیں مقبول ہوں گی۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب کسی مسئلہ کا حل میرے لئے مشکل ہو جاتا تھا۔ تو میں بغداد جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان امام ممدوح کی مبارک قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تھا تو میری مراد بر آتی تھی۔ اور مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔

(اس قسم کے واقعات کے لئے پڑھئے ہماری کتاب اولیاء رجال الحدیث روحانی حکایات)

### (۱۵) مقام ابراہیم

یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کعبہ معظمہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے یہ وہی پتھر ہے

کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ مکرمہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ تو جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر بہت گہرا نشان پڑ گیا آپ کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس مبارک پتھر کی فضیلت و عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ خداوند قدوس نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں دو جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ تو یہ ارشاد فرمایا کہ **فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرَاهِيمَ** یعنی کعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی وہ مقام ابراہیم ہے اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ **وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى** یعنی اے ایمان والو! کعبہ کے بعد والی دو رکعتوں میں تم لوگ "مقام ابراہیم" کو نماز کی جگہ بناؤ۔ یعنی مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھو (البقرہ رکوع ۱۵)

یہ بابرکت پتھر تقریباً چار ہزار برس کا طویل زمانہ گزر گیا کہ اس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مبارک قدموں کا نشان پڑ گیا تھا۔ چار ہزار برس کا زمانہ گزر گیا کہ یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے اس پر چار ہزار برساتیں گز گئیں۔ ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس پر ٹکرائے۔ بارہا حرم کعبہ میں پہاڑی نالوں سے برسات میں سیلاب آیا اور یہ مقدس پتھر سیلاب کے تیز دھاروں میں ڈوبا رہا۔ کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا مگر اس کے باوجود آج تک حضرت خلیل کے جلیل القدر قدموں کا نشان اس پتھر پر باقی ہے۔ جو بلاشبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی بڑا اور نہایت ہی معظم معجزہ ہے۔ اور یقیناً یہ پتھر خداوند قدوس کی آیات بینات اور کھلی ہوئی روشن نشانیوں میں سے ایک بہت بڑا نشان ہے اور اس کی شان کا یہ عظیم الشان نشان ہر مسلمان کیلئے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ خداوند قدوس نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اسی پتھر کے پاس دو رکعت نماز ادا کرو۔ تم لوگ نماز تو میرے لئے پڑھو اور سجدہ میرا ادا کرو لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگیں کہ جس پتھر پر میرے نلیل۔ بلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان بنا ہوا ہے!

## درسِ ہدایت

مسلمانو! مقام ابراہیم کی عظمت شان سے یہ سبق ہے کہ جس جگہ اللہ کے مقدس بندوں کا کوئی نشان موجود ہو وہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ عزت و عظمت والی ہے اور اس جگہ خدا کی عبادت خدا کے نزدیک بہت ہی بہتر اور محبوب تر ہے!

اب غور کرو کہ مقام ابراہیم جب حضرت خلیل اللہ کے قدموں کے نشان کی وجہ سے اتنا معظم و مکرم ہو گیا تو خدا کے محبوب اکرم اور حبیب معظم کی قبر انور کی عظمت و بزرگی اور اس کے تقدس و شرف کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں حبیب خدا کا صرف نشان ہی نہیں۔ بلکہ خدا کے محبوب اکرم کا پورا جسم انور موجود ہے اور اس زمین کا ذرہ ذرہ انوار نبوت کی تجلیوں سے رشک آفتاب و غیرت مہتاب بنا ہوا ہے۔ مسلمانو! کاش قرآن مجید کی یہ آیتیں لوگوں کی آنکھوں میں ایمانی بصیرت کا نور پیدا کریں تاکہ لوگ قبر انور کی تعظیم و تکریم کر کے دونوں جہان میں مکرم و معظم بن جائیں اور اس کی توہین و بے ادبی کر کے شیطان کے بچہ گمراہی میں گرفتار نہ ہوں اور جہنم کے عذاب مہین میں نہ پڑ جائیں اور کاش ان چمکتی ہوئی آیات بینات سے نجدیوں اور وہابیوں کو عبرت حاصل ہو جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر منور کو مٹی کا ڈھیر کہہ کر اس کی توہین و بے ادبی کرتے رہتے ہیں اور گنبد خضرا کو منہدم کرنے اور گرا کر مسما کر دینے اور نشان قبر مٹا دینے کا پلان بناتے رہتے ہیں۔ (نعوذ باللہ منہ)

## (۱۶) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار معجزات

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا۔ جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے۔

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ  
جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ  
لَكُمْ مِّنَ الصَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ  
فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ تَوَّابِرِي  
الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ

وہ رسول میں بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتے ہوئے آئیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں۔ تو

بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝  
(آل عمران رکوع ۵)

وہ فوراً اللہ کے حکم سے پرند ہو جاتی ہے اور  
میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید  
داغ والے کو اور میں مردوں کو جلاتا ہوں اللہ  
کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے  
ہو اور اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں بڑی نشانی ہے اگر تم لوگ  
ایمان رکھتے ہو۔

اس تقریر میں آپ نے اپنے چار معجزات کا اعلان فرمایا (۱) مٹی کے پرند بنا کر ان  
میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا (۲) مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا (۳) مردوں کو زندہ  
کرنا (۴) اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔  
اب ان معجزات کی کچھ تفصیل بھی پڑھ لیجئے۔

### مٹی کے پرند بنا کر اڑا دینا

جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا۔ کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیجئے تو حضرت عیسیٰ  
علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں  
سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا۔ کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب  
یہی پرندہ ہے کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ آدمی کی طرح ہنستا  
بھی ہے۔ یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا  
ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے!

روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے اور ان کی  
نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تا کہ خدا کے پیدا کئے  
ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کئے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے (جمل ج ۱ ص ۲۷۴)

### مادر زاد اندھوں کو شفا دینا

روایت ہے کہ ایک دن میں پچاس اندھوں اور کوڑھیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر  
شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے (جمل ج ۱ ص ۲۷۴)

## مردوں کو زندہ کرنا

روایت ہے کہ آپ نے چار مردوں کو زندہ فرمایا (۱) عاذرا اپنے دوست کو (۲) ایک بڑھیا کے لڑکے کو (۳) ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو (۴) حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو!

### عاذر

یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا۔ تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے تین دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ عاذر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے۔ اور عاذر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے۔ اور عاذر کو پکارا۔ تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا۔ اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔

### بڑھیا کا بیٹا

یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازہ سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازہ کی چار پائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا۔ اور مدتوں زندہ رہا اور اس کے اولاد بھی ہوئی۔

### عاشر کی بیٹی

ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی۔ اور بہت دنوں تک زندہ رہی۔ اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے!

### حضرت سام بن نوح

اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا۔ تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں درحقیقت مرے ہوئے تھے ہی نہیں۔ بس ان تینوں پر سکتہ طاری تھا۔ اس لیے وہ

ہوش میں آگئے لہذا آپ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے چار ہزار برس کا زمانہ گزر گیا۔ تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا۔ تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے۔ اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہوگئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔

### جو کھایا اور چھپایا اس کو بتا دیا

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ اور بچے گھروں میں آ کر اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہو جایا کرتی ہے؟ تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب میں جانے سے روک دیا۔ اور کہا کہ حضرت عیسیٰ جا دو گر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے سب بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا۔ اور کہہ دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہیں؟ تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ اور پلان بنا لیا یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے (جمل ج ۱ ص ۲۰۵)

### (۱۷) حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو



چونکہ یہودی تو رات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے۔ اس لئے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرمایا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ”مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ“ یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف تو صرف بارہ یا انیس حواریوں نے یہ کہا ”نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ“ یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے۔ یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام ”ططیانوس“ تھا۔ آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لئے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھالیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان! اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بقول علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ ۳۳ برس کی تھی اور بقول علامہ زرقانی شارح مواہب اس وقت آپ کی عمر شریف ایک سو بیس برس کی تھی اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے بھی آخر میں اسی قول کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ (جمل ج ۱ ص ۲۸۰)

”ططیانوس“ جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ”ططیانوس“ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے ”ططیانوس“ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب ططیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ باقی سارا بدن ططیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی ططیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ ططیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو

اس طرح بیان فرمایا کہ :

وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ  
الْمَاكِرِينَ ۝ اِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى  
اِنِّى مُتَوَفِّىكَ وَرَافِعَكَ اِلَىَّ  
وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا  
وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ  
الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ  
كَفَرُوْا اِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ اِلَىَّ  
مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِىْمَا  
كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

(آل عمران ع ۵-۶)

اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کو ہلاک  
میں خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر  
چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب کہ اللہ نے  
فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک  
پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھالوں گا اور  
تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے  
تابعداروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر  
غلبہ دوں گا پھر تم سب پلٹ کر میری طرف  
آؤ گے تو میں فیصلہ کر دوں گا جس بات میں  
تم سب جھگڑتے تھے۔

آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم نے چھ برس دنیا میں رہ کر وفات  
پائی (بخاری و مسلم) کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین  
پر اتریں گے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال و  
خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور سات برت تک دنیا میں عدل فرما کر  
وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضراء کے اندر مدفون ہوں گے! (بہار شریعت  
وغیرہ)

اور قرآن مجید میں عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے یہ بھی نازل ہوا کہ:-

وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ  
اِلَيْهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝  
(النساء رکوع ۲۲)

اور یقیناً یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں  
کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا اور  
اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اور اس سے اوپر والی آیت میں ہے کہ:-

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلْبُوْهُ وَلٰكِنْ شَبَّهَ  
لَهُمْ ۗ (النساء رکوع ۲۲)

اور یہودیوں نے نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا نہ  
ان کو سولی پر لٹکایا بلکہ ان کے لئے ان کی  
شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھ مقتول نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھالیا جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصاریٰ کا عقیدہ ہے تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔

## (۱۸) عیسائیوں کا مباہلہ سے فرار!

نجران (یمین) کے نصرانیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ یہ چودہ آدمیوں کی جماعت تھی جو سب کے سب نجران کے اشراف تھے اور اس وفد کی قیادت کرنے والے تین شخص تھے۔ (۱) ابو حارثہ بن علقمہ جو عیسائیوں کا پوپ اعظم تھا (۲) اہیب جو ان لوگوں کا سردار اعظم تھا (۳) عبدالمسیح جو سردار اعظم کا نائب تھا۔ اور ”عاقب“ کہلاتا تھا۔ یہ سب نمائندے نہایت قیمتی اور نفیس لباس پہن کر عصر کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنی نماز ادا کی پھر ابو حارثہ اور ایک دوسرا شخص دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے نہایت کریمانہ لہجے میں ان دونوں سے گفتگو فرمائی اور حسب ذیل مکالمہ ہوا!

نبی علیہ السلام تم لوگ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار بن جاؤ۔  
ابو حارثہ ہم لوگ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار ہو چکے ہیں۔  
نبی علیہ السلام تم لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں کیونکہ تم لوگ صلیب کی پرستش کرتے ہو اور اللہ کے لئے بیٹا بتاتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو۔

ابو حارثہ آپ لوگ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟  
نبی علیہ السلام ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟  
ابو حارثہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہتے ہیں حالانکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔

نبی علیہ السلام ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور وہ کلمتہ اللہ جو کنواری مریم کے شکم سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے۔

کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تو پھر آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ ہے۔

نبی علیہ السلام اگر کسی کا باپ کوئی انسان نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا باپ خدا ہی ہو۔ خداوند تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی آدمی پیدا ہو سکتا ہے۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرما دیا تو جس اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا اگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس پیغمبرانہ طرز استدلال اور حکیمانہ گفتگو سے چاہئے تو یہ تھا کہ یہ وفد اپنی نصرانیت کو چھوڑ کر دامن اسلام میں آجاتا مگر ان لوگوں نے حضور علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ بحث و تکرار کا سلسلہ بہت دراز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی کہ:-

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ۝ (آل عمران رکوع ۶)

تو آپ کے پاس علم آجانے کے بعد جو لوگ اس میں آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلااتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور ہم اپنی عورتوں کو بلااتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود آتے ہیں اور تم خود

آؤ پھر ہم گڑگڑا کر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ڈالیں۔

قرآن کی اس دعوت مباہلہ کو ابوحارثہ نے منظور کر لیا اور طے پایا کہ صبح نکل کر میدان میں مباہلہ کریں گے لیکن جب ابوحارثہ نصرانیوں کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اے میری قوم! تم لوگوں نے اچھی طرح جان لیا اور پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں اور خوب یاد رکھو کہ جو قوم کسی نبی برحق کے ساتھ مباہلہ کرتی ہے اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح

کر کے اپنے وطن کو واپس چلے چلو اور ہرگز ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرو۔ چنانچہ صبح کو ابو حارثہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے آیا تو یہ دیکھا کہ آپ حضرت حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن کی انگلی تھامے ہوئے ہیں اور حضرت فاطمہ و حضرت علی آپ کے پیچھے چل رہے ہیں اور آپ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو تم لوگ ”آمین“ کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ خوف سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ اے گروہ نصاریٰ! میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے گا۔ لہذا اے میری قوم! ہرگز ہرگز مباہلہ نہ کرو۔ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر کہیں بھی کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا پھر اس نے کہا کہ اے ابوالقاسم! ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی دین پر قائم رہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تم لوگ اسلام قبول کر لو تا کہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر میرے لئے تمہارے ساتھ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر نصرانیوں نے کہا کہ ہم لوگ عربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لہذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ نہ کریں اور ہم کو اپنے ہی دین پر قائم رہنے دیں اور ہم بطور جزئیہ آپ کو ہر سال ایک ہزار کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شرط پر صلح فرمائی اور ان نصرانیوں کے لئے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا!

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ نجران والوں پر ہلاکت و بربادی آن پہنچی تھی مگر یہ لوگ بچ گئے اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے اور ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ نجران کی کل آبادی یہاں تک کہ چرند اور پرند جل بھن کر راکھ کے ڈھیر بن جاتے اور روئے زمین کے تمام عیسائی سال بھر میں فنا ہو جاتے۔

(روح البیان ج ۲ ص ۳۳ پارہ ۳)

درس ہدایت:- اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے رسولوں کے ساتھ مباہلہ کرنا ہلاکت و بربادی ہے بلکہ انبیاء و اولیاء اور اللہ والوں کا مقابلہ کرنا اور ان لوگوں کی بددعا کا سامنا کرنا بربادی و ہلاکت کا سنگٹل ہے بلکہ خدا کے ان محبوب بندوں کی ذرا سی بے ادبی اور دل آزاری

بھی انسان کو فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے اور ایسی تباہی و بربادی لاتی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں۔

### حضرت خجندی اور بساطی شاعر

چنانچہ منقول ہے کہ حضرت کمال الدین خجندی علیہ الرحمۃ ایک مرتبہ شاعروں کے مجمع میں تشریف لے گئے تو بساطی شاعر نے آپ کو دیکھ کر نہایت ہی بدتمیزی اور بیہودگی کے انداز میں یہ مصرع بک دیا کہ از کجائی از کجائی اے لوند (تم کہاں سے آئے۔ تم کہاں سے آئے اے بد معاش!)

آپ نے یہ سمجھ کر کہ نشہ میں بک رہا ہے کچھ زیادہ ناراض نہیں ہوئے بلکہ تفریحاً جواب میں ایک مصرع کہہ دیا کہ:

از خندم از خندم از خند

میں خند سے آیا۔ میں خند سے آیا۔ میں خند سے آیا پھر آپ نے مجمع سے مخاطب ہو کر فرما دیا کہ یہ نشہ میں بدست ہے جو منہ میں آتا کہہ دیتا ہے اس سے کچھ نہ کہو یہ سن کر بساطی کہنے نے آپ کی ہجو میں ایک شعر یہ کہہ دیا کہ:

اے ملحد خجندی ریش بزرگ داری

کز غایت بزرگی وہ ریش می تو اں گفت

یعنی اے ملحد خجندی تو بہت بڑی داڑھی رکھتا ہے کہ اس کی بڑائی کو دیکھ کر اس کو دس داڑھیاں کہہ سکتے ہیں۔

مجمع عام میں یہ ہجو سن کر آپ کو سخت ناگواری ہوئی اور آپ نے قہر آلود نظروں سے دیکھ کر بددعا کر دی تو بغیر کسی بیماری کے بساطی شاعر ایک دم مرکز زمین پر گر پڑا اور سب لوگ دیکھتے رہ گئے۔

### ابوالحسن ہمدانی کی مرغی

بلکہ بزرگوں کے مزاج کے خلاف کوئی کام کرنا بھی بڑی بڑی مصیبتوں کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے چنانچہ حضرت خواجہ ابوالحسن ہمدانی کا واقعہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ جعفر خالدی علیہ الرحمۃ کی زیارت کو گئے اور گھر میں یہ کہہ گئے تھے کہ میرے لئے تنور میں مرغی

بھون کر تیار رکھی جائے۔ حضرت خواجہ جعفر خالدي نے ان کو حکم دیا کہ تم رات میرے یہاں بسر کرو مگر ان کا دل چونکہ مرغی میں لگا ہوا تھا اس لئے کوئی خوبصورت بہانا کر کے یہ اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ جعفر کے دل پر اس کا ملال گزرا۔ اس کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ جب خواجہ ابوالحسن ہمدانی دسترخوان پر مرغی کھانے کے لئے بیٹھے اور ذرا سی غفلت ہوئی تو ایک کتا گھر آ گیا اور مرغی لے کر بھاگا اور اس کو ایک گندی نالی میں ڈال دیا۔ حضرت خواجہ ابوالحسن ہمدانی جب صبح کو حضرت خواجہ جعفر خالدي کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ جو شخص مشائخ کرام کی قلبی خواہش کا احترام نہیں کرتا اس پر اسی طرح ایک کتا مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو ایذا دیتا ہے۔ یہ سن کر خواجہ ابوالحسن ہمدانی شرم و ندامت سے پانی پانی ہو گئے۔

بلخ کا ہر آدمی جھوٹا ہو گیا

حضرت خواجہ ابوعلی وفاق علیہ الرحمۃ کا بیان ہے کہ جب بلخ والوں نے بلا تصور حضرت خواجہ محمد بن فضل قدس سرہ کو شہر بدر کر دیا تو آپ نے شہر والوں کو یہ بددعا دے دی کہ یا اللہ! ان لوگوں کو سچائی کی توفیق نہ دے۔ اس کا یہ انجام ہوا کہ برسوں تک اس شہر میں کوئی سچا آدمی باقی نہ رہا اور شہر کا ہر آدمی بلا کا جھوٹا ہو گیا اور یہ جھوٹوں کا شہر کہلانے لگا۔

(روح البیان ج ۳۶۲)

بہر حال بزرگوں کو اپنی کسی حرکت سے کبھی ناراض نہیں کرنا چاہئے ورنہ ان بزرگوں کے قلب کا ادنیٰ سا غبار قہر الہی کی آندھی بن کر تمہیں ہلاکت و بربادی کے غار میں گرا کر نیست و نابود کر دے گا۔

خدا کا قہر ہے ان کی نگاہ کی گردش  
گرا جو ان کی نظر سے سنبھل نہیں سکتا

## (۱۹) پانچ ہزار فرشتے میدان جنگ میں!

جنگ بدر کفر و اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ ۱۷ رمضان ۲ھ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ”بدر“ میں یہ جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان

بہت ہی کمتر اور پست حال میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے جوان اور بچے اور انصار و مہاجرین کل مل کر تین سو تیرہ مجاہدین اسلام علم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبرد آزما تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں چھ زرہیں اور آٹھ تلواریں تھیں اور کفار کا لشکر تقریباً ایک ہزار نہایت ہی جنگجو اور بہادروں کا دل بادل تھا اور ان بہادروں کے ساتھ ایک سو بہترین گھوڑے سات سو اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر خدا سے لوگ لگائے مصروف دعا تھے کہ:

”الہی! اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے“ (سیرت ابن ہشام ج ۲ صفحہ ۲۲۷)

دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر مبارکہ دوش انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارکہ کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جاں نثار کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا کہ:

سَيُهْذِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ - عنقریب کفار کی فوج شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔

صبح کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز وعظ فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور آپ نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لئے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔

چنانچہ پانچ ہزار فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علیؓ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور حضرت سعد بن عبادؓ انصار کے علمبردار تھے۔ کفار کے ستر آدمی قتل ہو گئے اور ستر گرفتار ہوئے باقی اپنا سارا سامان



چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپاہ گری میں یکتائے روزگار تھے۔ ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکر کی طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل چودہ خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا۔ جن میں چھ مہاجر اور آٹھ انصار تھے اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ فرمایا کہ:-

اور بیشک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب کہ تم بالکل بے سرور سامان تھے تو اللہ سے ڈرو تا کہ تم شکر گزار بنو یاد کرو جب اے محبوب! تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد فرمائے۔ ہاں کیوں نہیں اگر تم لوگ صبر و تقویٰ کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھیج دے گا اور یہ فتح اللہ نے تمہاری خوشی کے لئے دی ہے اور اس لئے کہ تمہارے دلوں کو چین ملے اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غلبہ والا حکمت والا ہے۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ  
 أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
 تَشْكُرُونَ ۝ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ  
 أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ  
 بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ۝  
 بَلَىٰ إِنَّ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم  
 مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمِدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ  
 بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ  
 مُسَوِّمِينَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا  
 بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ  
 بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
 الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

(آل عمران رکوع ۱۳ پارہ ۴)

درس ہدایت:-

جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقوف نہیں۔ بلکہ فتح کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے کہ وہ جب چاہتا

ہے تو فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی امداد و نصرت فرما دیتا ہے اور مسلمان قلت تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود فتح مند ہو کر کفار کے دل بادل لشکروں کو تہس نہس کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے دو شرطیں رکھی ہیں۔ ایک صبر دوسرے تقویٰ اگر مسلمان صبر و تقویٰ کے دامن کو تھامے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں اڑ جائیں تو انشاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ اور ہر محاذ پر فتح مبین مسلمانوں کے قدم چومے گی اور کفار شکست کھا کر راہ فرار اختیار کریں گے یا مسلمانوں کی مار سے فنا ہو کر فی النار ہو جائیں گے۔ بس ضرورت ہے کہ مسلمان صبر و تقویٰ کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر خدا کی مدد کا بھروسہ کر کے کفار کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لئے میدان جنگ میں استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے رہیں اور ہرگز ہرگز تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت و کثرت کی پروا نہ کریں کیونکہ فرمان خداوندی ہے کہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ مدد فرمانے والا تو بس اللہ ہی ہے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے کہ:

کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ  
مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

## (۲۰) سب سے پہلا قاتل و مقتول

روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول ہابیل ہے۔ "قابیل و ہابیل" یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حواء کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح "لیوذا" سے جو ہابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ اور ہابیل کا نکاح "اقلیما" کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا بلکہ چونکہ اقلیما زیادہ خوبصورت تھی اس لئے وہ اس کا طلب گار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ چونکہ اقلیما تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لئے وہ تیری بہن ہے۔ اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس کے دربار میں پیش کرو۔ جس کی قربانی

مقبول ہوگی وہی اقلیما کا حق دار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھالیا کرتی تھی۔ چنانچہ قانبل نے گیسوں کی کچھ بال اور ہابیل نے ایک بکری قربانی کے لئے پیش کی۔ آسمانی آگ نے ہابیل کی قربانی کو کھالیا اور قانبل کے گیسوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قانبل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے ہابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور ہابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کر دوں گا۔ ہابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی ہابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لئے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ پھر آخر قانبل نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل ہابیل کی عمر بیس برس کی تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل ثور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا۔ اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

روایت ہے کہ جب ہابیل قتل ہو گئے تو سات دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور وحوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی اور قانبل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا۔ بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بد صورت ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بیدرنج و قلق ہوا۔ یہاں تک کہ ہابیل کے رنج و غم میں ایک سو برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی اور سریانی زبان میں آپ نے ہابیل کا مرثیہ کہا جس کا عربی اشعار میں ترجمہ یہ ہے کہ:

تَغَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَمَنْ عَلَيْهَا  
فَوَجَّهَ الْأَرْضَ مُغْبِرًا قَبِيحًا  
تَغَيَّرَ كُلُّ ذِي لَوْنٍ وَطَعْمٍ  
وَقُلَّ بِشَاشَةِ الْوَجْهِ الصَّبِيحِ

ترجمہ:- تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور قبیح ہو گیا۔ ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔

حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قانبل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بد نصیب اقلیما کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین ”عدن“ میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس

کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ہابیل کی قربانی کو آگ نے اس لئے کھالی کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا لہذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ بد بخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ (روح البیان ج ۲ ص ۳۸۱ پارہ ۶ مائدہ)

ہابیل کے قتل ہو جانے کے پانچ برس بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف ایک سو تیس برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اس ہونہار فرزند کا نام ”شیث“ رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ”پتہ اللہ“ یعنی ”اللہ کا عطیہ“ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پچاس صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیث علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگیں۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ہی حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ (روح البیان ج ۲ ص ۳۸۲)

اس واقعہ کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ:-

اور اے پیغمبر! انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ تو وہ بولا میں تجھے قتل کروں گا تو دوسرے نے کہا کہ اللہ اس کی قبول فرماتا ہے جو متقی ہو۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا۔ میں خدا

وَآتَىٰ عَلَيْهِم نَبَاتِنِي آدَمَ بِالْحَقِّ ۝  
 إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا  
 وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۗ قَالَ  
 لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ  
 مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ لَئِن مَّ بَسَطْتُ إِلَىٰ  
 يَدِكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي  
 إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ ۗ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ  
 رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ

بِأَيْمِي وَائِمِكَ فَتَكُونُ مِنْ  
أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ  
الظَّالِمِينَ ۝ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ  
أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَاصْبَحَ مِنْ  
الْخَسِرِينَ ۝ (مائدہ رکوع ۵ پارہ ۶)

سے ڈرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا  
اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو  
اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی  
رغبت دلائی تو وہ اس کو قتل کر کے نقصان  
اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔

### درس ہدایت

اس واقعہ سے چند ہدایتوں کے سبق ملتے ہیں!

- (۱) دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا۔ وہ ایک عورت کے معاملہ میں ہوا لہذا  
کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہئے!
- (۲) قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد  
انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اس لئے قرآن مجید میں مِنْ شَرِّ  
حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ فرما کر حکم دیا گیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔
- (۳) خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی کا فرزند اپنے باپ  
حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے راندہ درگاہ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا  
اور قیامت تک ہونے والا ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار  
رہے گا۔
- (۴) اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس  
برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار بنے گا۔
- (۵) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیکوں  
کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی  
اللہ ہیں مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا وہ آپ پڑھ چکے۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہئے  
کہ فرزند صالح اور نیک اولاد کی دعائیں خدا سے مانگتا رہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

## (۲۱) مردہ دفن کرنا کوئے نے سکھایا

جب قابیل نے ہابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا۔ اس لئے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا پھر اس نے دیکھا کہ دو کوئے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا پھر زندہ کوئے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوئے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہئے چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔  
(مدارک التزیل ج ۱ ص ۲۸۱)

قرآن مجید نے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ:

پھر اللہ نے ایک کو بھیجا زمین کریدتا ہوا کہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے (قابیل) بولا۔ ہائے خرابی! میں اس کوئے جیسا بھی نہ ہوسکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا پھر وہ اپنے کرتوت پر پچھتا تارہ گیا۔

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي  
الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ  
أَخِيهِ قَالِ يٰوَيْلَتِي اَعَجَزْتُ اَنْ  
اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِي  
سَوْءَةَ اَخِي فَاَصْبَحَ مِنَ النَّدِمِيْنَ ۝  
(مائدہ رکوع ۵ پارہ ۶)

### درس ہدایت

(۱) اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ آدمی علم سیکھنے میں چھوٹے سے چھوٹے استاد کا یہاں تک کہ کوئے کا بھی محتاج ہے۔

(۲) اس سے معلوم ہوا کہ انسان پر اس کی دنیاوی زندگی کی راہ میں جب کوئی مشکل درپیش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا رحیم و کریم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں تک کہ چرندوں اور پرندوں کے ذریعے مشکلات حل کرنے کی راہ دکھا دیتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

## (۲۲) آسمانی دسترخوان

### درس ہدایت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم! کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے؟ کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لئے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لائیں!

حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی کہ

اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے کہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لئے عید کا دن ہوگا اور تیری قدرت اور میری نبوت پر تیری ایک نشانی بھی ہوگی اور تو ہم کو روزی دے اور تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ (قرآن مجید)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دسترخوان تو اتار دوں گا لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے جس میں سات مچھلیاں اور سات روٹیاں تھیں۔ (جلالین شریفین ۱۰۹) اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے اور بعض روٹیوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کاشا نہیں تھا اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں اور

پانچ روٹیاں تھیں ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، پانچویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا جو تمام حواریوں کا سردار تھا کہ اے روح اللہ! یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لئے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ (جمل ج ۱ ص ۵۲۳)

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لئے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لئے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لئے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نکل گئی۔ یا اللہ بنے ان کو کیا کر دیا۔

(جمل ج ۱ ص ۵۲۵ بحوالہ قرطبی)

اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں فرمایا ہے اور اسی واقعہ کی وجہ سے اس سورہ کا نام ”مائدہ“ رکھا گیا۔ ”مائدہ“ دسترخوان کو کہتے ہیں۔

عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی کہ اے اللہ! اے ہمارے رب! ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے کہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لئے عید ہو اور تو ہم کو روزی دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو تم پر اتارتا ہوں لیکن پھر جو اب تم میں سے کوئی کفر کرے گا تو بیشک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا۔

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا  
انزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ  
تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا  
وَآيَةً مِنْكَ وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ  
الرَّازِقِينَ ۝ قَالَ اللَّهُ أَنِّي مُنَزِّلُهَا  
عَلَيْكُمْ ۖ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِغْثِ  
فَأَنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا  
مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ (مائدہ رکوع ۱۵)



درس ہدایت: واقعہ مذکورہ سے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں۔ جن میں سے یہ دو سبق تو بہت ہی واضح ہیں۔

(۱) حضرت انبیاء علیہم السلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک جرم عظیم ہے۔ دیکھ لو! کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی کی مخالفت و نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لئے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا تو عذاب الہی نے ان کو خنزیر و بندر بنا کر دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہ گیا۔ جو لوگ اللہ و رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ انہیں اس ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہئے اور توبہ کر لینا چاہئے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم!)

(۲) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ جملہ کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لئے عید کا دن ہوگا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس دن قدرت خداوندی کا کوئی خاص نشان ظاہر ہو اس دن خوشی منانا اور مسرت و شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات اور اس کا دن یقیناً خداوند قدوس کے ایک نشان اعظم کے ظہور کی رات اور دن ہے۔ لہذا میلاد النبی کی خوشی منانا اور اس تاریخ کو عید میلاد کہنا یقیناً قرآن مجید کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ خوشی منانا، گھروں اور محفلوں کی آرائش کرنا اچھے اچھے پکوان پکا کر خود بھی کھانا اور دوسروں کو کھلانا یہی سب عید کی نشانیاں اور عید منانے کے طریقے ہیں جن پر بارہویں شریف کو اہلسنت و جماعت عمل کر کے عید میلاد کی خوشی مناتے ہیں اور جو لوگ اس سے چڑھتے ہیں اور اس تاریخ کو اپنا گھر اندھیرا رکھتے ہیں۔ جھاڑو بھی نہیں لگاتے اور میلے کھیلے کپڑے پہن کر منہ لٹکائے پھرتے ہیں اور عید میلاد کی خوشی منانے والوں کو بدعتی کہہ کر پھبتیاں کتے ہیں۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہئے اور اہلسنت کو چاہئے کہ خوب خوب خوشی منائیں اور کثرت سے میلاد شریف کی مجلس منعقد کریں اور خوب جھوم جھوم کر صلوٰۃ و سلام پڑھیں۔

غیض میں جل جائیں بے دینوں کے دل

رات دن ذکر ولادت کیجئے

## (۲۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلانِ توحید

مفسرین کا بیان ہے کہ ”نمرود بن کنعان“ بڑا جابر بادشاہ تھا سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیئے گئے مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ سات برس کی عمر تک اور بعضوں نے تحریری فرمایا کہ سترہ برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

اس زمانے میں عام طور پر لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ نے زہرہ یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لئے آپ نے نہایت ہی نفیس اور دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگو! کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا، پھر جب چمکتے دکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے یہ تو ان سب سے بڑا ہے کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم! میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہو اور میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ بس میں صرف اسی ایک ذات کا عابد اور پجاری بن گیا ہوں اور

میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اس خدا نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ سن لو! بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ اس واقعہ کو مختصر مگر بہت جامع الفاظ میں قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے:

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَاكَوْكَبًا  
 قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا  
 أَحِبُّ الْأَفْلِينَ ۝ فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ  
 بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ  
 لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ  
 الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝ فَلَمَّا رَا  
 الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي  
 هَذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ  
 إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝ إِنِّي  
 وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا  
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (انعام رکوع ۹۷)

پھر جب ان (ابراہیم) پر رات کا اندھیرا ہوا ایک تارا دیکھا فرمایا کہ تم لوگ اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا تم لوگ اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں ہوتا، پھر جب جگمگاتا سورج دیکھا تو فرمایا کہ اس کو تم میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ اے میری قوم!

میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں اسی ایک کا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

### درس ہدایت

غور کیجئے کہ کتنا دلکش طرز بیان اور کس قدر موثر طریقہ استدلال ہے؟ کہ نہ کوئی سخت کلامی ہے نہ کسی کی دل آزاری۔ نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس لگا کر اس کو غصہ دلانا ہے۔ پس

اپنے مقصد کو نہایت ہی حسین پیرایہ اور خوبصورت انداز میں منکرین کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کر دینا ہے۔ ہمارے سخت گو اور تلخ زبان مقررین کے لئے اس میں ہدایت کا بہترین درس ہے۔ مولیٰ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

## (۲۴) فرعونیوں پر لگاتار پانچ عذاب

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اڑدھا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے۔ مگر فرعون اور اس کے تابعین نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی۔ اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کے دربار میں اس طرح دعا مانگی۔ کہ

”اے میرے رب! فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے۔ اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے۔ لہذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما دے جو ان کے لیے سزاوار ہو۔ اور میری قوم اور بعد والوں کے لئے عبرت ہو“ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار پانچ عذابوں کو مسلط فرما دیا وہ پانچوں عذاب یہ ہیں!۔

### (۱) طوفان

ناگہاں ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی۔ یہاں تک کہ طوفان آ گیا۔ اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا۔ اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے۔ اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے۔ سینچر تک مسلسل سات روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے اور باوجودیکہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے۔ مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا۔ اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی۔ اور وہ

بالکل ہی عاجز ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی۔ تو طوفان کی بلا ٹل گئی۔ اور زمین میں ایسی سرسبزی و شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں۔ اور غلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعون نے کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے مکر گئے۔ اور ایمان نہیں لائے۔ اور پھر سرکشی اور ظلم و عصیان کی گرم بازاری شروع کر دی!

### (۲) ٹڈیاں

ایک ماہ تک تو فرعون نے نہایت عافیت سے رہے لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے دل بادل جھنڈ کے جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئیں اور فرعونوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونوں کو بڑی عبرت ہو گئی۔ اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے رفع ہونے کے لیے دعا فرمادیں تو ہم لوگ ضرور ایمان قبول کر لیں گے۔ اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے ساتویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر ایک ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے۔ لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے۔ اور پھر ان لوگوں کے کفر اور عصیاں و طغیان میں اضافہ ہونے لگا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذا میں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ لہذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے!

### (۳) گھن

غرض ایک ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر ”قمل“ کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا

بیان ہے کہ گھن تھا جو ان فرعونوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میوؤں کو کھا گئے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا۔ اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغ کی بسمل کی طرح تڑپانے لگا۔ یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھنووؤں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں جھک رو بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں پانیوں اور برتنوں میں گھسے پڑتے۔ جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے۔ نہ کچھ پی سکتے تھے۔ نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے یہاں تک کہ ایک ہفتہ میں اس قہر آسمانی و بلاء ناگہانی سے بلبلا کر یہ لوگ چیخ پڑے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد و پیمانہ دینے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ و زاری پر رحم کھا کر دعا کر دی۔ اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا۔ لیکن فرعونوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا۔ اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر ایک ماہ بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا!

### (۴) مینڈک

ان فرعونوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کود کر گھس جاتے ہانڈیوں میں مینڈک ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے۔ اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے۔ اور بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد و پیمانہ کرنے لگے کہ ہم ضرور ضرور ایمان لائیں گے۔ اور مومنین کو کبھی ایذا نہ دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ساتویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا۔ مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی۔ مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگے تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور

ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔

### (۵) خون

ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنوؤں، نہروں کا پانی خون ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی؟ کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں۔ اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں۔ مگر خدا کی شان کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف شفاف اور شیریں پانی نکلتا۔ اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے۔ اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ پانی پیئیں گے۔ مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے۔ مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا تھا اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے۔ مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعا خیر فرمادی تو ساتویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل پانچ عذاب آتے رہے۔ اور ہر عذاب ساتویں دن ملتا رہا۔ اور ہر دو عذابوں کے درمیان ایک ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی۔ کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اور کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے تبعین سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی۔ اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و

نابود کر دیئے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہ گیا۔

(صاوی شریف ج ۲ ص ۲ ص ۸۱ و ص ۸۲ و جلالین وغیرہ)

قرآن مجید نے ان مذکورہ بالا پانچوں عذابوں کی تصور کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے۔

کہ:

تو بھیجا ہم نے طوفان اور ٹڈی اور گھن (یا کلنی  
یا جوئیں) اور مینڈک اور خون جدا جدا  
نشانیوں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ (فرعونؑ)  
مجرم قوم تھی اور جب ان پر عذاب پڑتا تو وہ  
کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے  
دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے  
پاس ہے۔ بیشک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا  
دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور  
بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے پھر  
جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت  
کے لیے جس مدت تک انہیں پہنچنا ہے جہی  
وہ پھر جائے۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو  
انہیں دریا میں ڈبو دیا۔ اس لیے کہ وہ ہماری

آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غفلت برتتے تھے۔

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ  
وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ اَيِّتٍ  
مُّفَصَّلَتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا  
قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ  
الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا  
رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن  
كَشَفْتَنَا عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ  
وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝  
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلَى  
اَجَلٍ هُمْ بِالْغُوهِ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ۝  
فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ  
بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا  
غَافِلِينَ ۝ (الاعراف رکوع ۱۶ پ ۹)

### درس ہدایت

(۱) ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ عہد شکنی اور اللہ کے نبیوں کے تکذیب و توہین کتنا  
بڑا اور ہولناک جرم عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے فرعونوں پر بار بار عذاب الہی قسم قسم کی  
صورتوں میں اترا۔ یہاں تک کہ آخر میں وہ دریا میں غرق کر کے دنیا سے فنا کر دیئے  
گئے۔ لہذا ہر مسلمان کو عہد شکنی اور سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہنا لازم ہے۔ کہ کہیں  
بد اعمالیوں کی تحوستوں سے ہم پر بھی قہر الہی عذاب کی صورت میں نہ اتر پڑے!



(۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر و تحمل اور ان کی رفیق القلبی بلاشبہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ بار بار عہد شکنی کرنے والے اپنے دشمنوں کی آہ و فغاں پر رحم کھا کر ان کے عذاب کو دفع کرنے کی دعا فرماتے رہے اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے ہادی اور ان کے پیشوا کے لیے صبر و تحمل اور عفو و درگزر کی خصلت انتہائی ضروری ہے اور علماء کرام کو جو حضرات انبیاء علیہم السلام کے نائبین ہیں ان کے لیے بیحد لازم و ضروری ہے کہ وہ اپنے مخالفین اور بدخواہوں سے انتقام کا جذبہ نہ رکھیں بلکہ صبر و تحمل کر کے اپنے مجرموں کو بار بار معاف کرتے رہیں۔ کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت بھی ہے اور ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو یہ ایک بڑا ہی خاص اور خصوصی طرہ امتیاز ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اپنے دشمنوں سے کوئی بھی انتقام نہیں لیا۔ بلکہ ہمیشہ ان کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اور یہ آپ کی مقدس تعلیم کا بہت ہی تابناک اور درخشاں ارشاد ہے کہ **صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَأَحْسِنُ إِلَىٰ مَا آسَاءَ إِلَيْكَ** یعنی تم سے جو تعلق کاٹے تم اس سے تعلق جوڑو۔ اور جو تم سے ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ اور جو تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو!

حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ۔

بدی رابدی سہل باشد جزا

اگر مروی احسنُ الی من آسا

یعنی برائی کا بدلہ لینا تو بہت آسان ہے۔ لیکن اگر تم جوان مرد ہو تو برائی کرنے والے

کے ساتھ بھلائی کرو!

## (۲۵) حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی

حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم ثمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گائے بھن اونٹنی نکالے جو خوب فریبہ اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی۔ اور

اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گا بھن تھی۔ اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔

اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو! دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم ثمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ!

اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ بیشک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی۔ تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرے۔ اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(الاعراف رکوع ۱۰ پارہ ۱)

چند دن تو قوم ثمود نے تکلیف کو برداشت کیا۔ کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا۔ کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔

قدار بن سالف

چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا۔ اور ایک زنا کار عورت کا لڑکا تھا۔ ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے۔ لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا۔ پھر اس کو ذبح کر دیا۔ اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ!

ان لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ اور یہ بولے کہ اے صالح! ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو۔ اگر تم رسول ہو۔

فَعَقَرُ النَّاقَةَ وَاعْتَوَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ  
وَقَالُوا يُصْلِحُ آئِنَّا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ  
كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝  
(الاعراف رکوع 10)

### زلزلہ کا عذاب

قوم ثمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی۔ پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اٹھل پھل ہو کر چلنا چور ہو گئی۔ تو عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں۔ اور قوم ثمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا کر مر گیا قرآن مجید نے فرمایا کہ!

فَاخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي  
دَارِهِمْ جِثْمِينَ ۝  
(الاعراف رکوع 10)

تو زلزلہ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو وہ سب صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے مرے پڑے رہ گئے۔

حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو آپ کو بڑا صدمہ اور قلق ہوا۔ اور آپ کو قوم ثمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے کہ!

يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي  
وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ  
النَّاصِحِينَ (الاعراف رکوع 10)

اے میری قوم! بیشک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کرتا رہا۔ لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے!

خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم ثمود کی پوری بستی برباد ویران ہو کر کھنڈر بن گئی۔ اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا!

(صاوی ج ۲ ص ۸۳ تا ۸۵)

## درس ہدایت

اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک نبی کی ایک اونٹنی کی قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کے تباہکاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہ گیا۔ تو جو قوم اپنے نبی کی آل و اولاد کو قتل کر ڈالے گی وہ بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے؟ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی کوفیوں اور شامیوں کا یہی حشر ہوا کہ مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا۔ اور ان کے گھروں کو تاخت و تاراج کر کے ان پر گدھوں کے ہل چلائے گئے۔ اور آج روئے زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا کوئی بچہ باقی نہیں رہ گیا۔

## ایک لاکھ چالیس ہزار یزیدی مقتول

حاکم محدث نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی بھیجی تھی کہ قوم یہود نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو ان کے ایک خون کے بدلے ستر ہزار یہودی قتل ہوئے اور آپ کے نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خون کے بدلے ستر ہزار اور ستر ہزار یعنی ایک لاکھ چالیس ہزار کوفی و شامی مقتول ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں ستر ہزار کوفی و شامی قتل ہوئے۔ اور پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ سفاح کے حکم سے ستر ہزار کوفی و شامی مارے گئے۔ کل مل کر ایک لاکھ چالیس ہزار مقتول ہو گئے!

بہر حال یہ یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی ہر چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ لہذا خدا کے محبوبوں کی آل و ازواج ہوں یا اصحاب و احباب یا ان سے نسبت و تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو۔ ان میں سے کسی کی بھی توہین اور بے ادبی سے خداوند قہار کے قہر و غضب ضرور کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جس کو اللہ کے محبوبوں سے نسبت حاصل ہو جائے اس کی تعظیم و تکریم لازم و ضروری ہے۔ اور اس کی توہین و بے ادبی عذاب الہی کی ہری جھنڈی اور تباہی و بربادی کا سنگل ہے۔ (والعیاذ باللہ منہ)

## عذاب کی زمین منحوس

روایت ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر سفر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوم ثمود کی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو۔ اور نہ اس گاؤں کے کنویں کا کوئی شخص پانی پیئے۔ اور تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی میں ڈوب کر روتے ہوئے اور منہ ڈھانپے ہوئے جلد سے جلد گزر جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر پڑے۔ (روح البیان ج ۳ ص ۱۹۴)

## (۲۶) قوم عاد کی آندھی

قوم ”عاد“ مقام ”احقاف“ میں رہتی تھی جو ”عمان“ و حضرت موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح ہے پوری قوم کو لوگ ان کے مورث اعلیٰ ”عاد“ کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال و بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے۔ مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ!

کیا تم (اے ہود) ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں۔ اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ تو تم لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے۔ اگر تم سچے ہو۔

اجْتَنَّا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا  
كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا فَاَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا  
اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝  
(الاعراف رکوع ۹ پ ۸)

آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ تین سال تک بارش نہیں ہوئی۔ اور ہر طرف قحط و خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر

خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرشد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا۔ جو مومن تھا مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرشد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا۔ اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم! تم لاکھ دعائیں مانگو۔ مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں بر سے گا۔ جب تک تم لوگ اپنے نبی حضرت ہود پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرشد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے اس وقت اللہ تعالیٰ نے تین بدلیاں بھیجیں۔ ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد! تم لوگ اپنی قوم کیلئے ان تین بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں لگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم! دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟

یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ (روح البیان ج ۳، ۱۸۸)

یہ بادل پچھتم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو مع ان کے سوار کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑالے جانے لگی یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگ اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا۔ مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سات رات اور آٹھ دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی۔ یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا۔ اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لمبی لمبی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئیں تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ چنانچہ ارشادِ ربانی ہے کہ!

وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوهُنَّ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ  
عَاتِيَةٍ ۝ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ  
وَتَمْنِيَةً أَيَّامٍ حَسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ  
فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أُعِجَازُ نَخْلٍ  
خَاوِيَةٌ ۝ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّنْ  
بَاقِيَةٍ ۝ (الحاقة رکوع ۱)

اور رہے عادتو وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت  
گر جتنی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگا دی  
گئی سات راتیں اور آٹھ دن لگاتار تو ان  
لوگوں کو پھڑپھڑے ہوئے دیکھو گویا وہ کھجور کے  
درخت میں گرے ہوئے۔ تو تم ان میں سے  
کسی کو بچا ہوا دیکھ رہے ہو؟ پھر قدرت

خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنھوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا  
اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا۔ اور چند  
مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اور آخری زندگی تک بیت اللہ  
شریف میں عبادت کرتے رہے۔ (صادی ج ۲ ص ۷۳)

### درسِ ہدایت

قرآن کریم کے اس دردناک واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ”قوم عاد“ جو بڑی طاقتور  
اور تندرست اور قوم تھی اور اس لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی۔ کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور  
ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں  
اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کئے تھے۔ اور ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت  
پر بڑا اعتماد اور اپنے تمول اور سامان عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا۔ مگر کفر اور بد اعمالیوں و  
بد کاریوں کو منحوسیت نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی  
کے جھونکوں اور جھنکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا۔ اور اس پوری قوم  
کے وجود کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا بھی کہیں نشان باقی نہ رہا۔ تو پھر  
بھلا ہم لوگوں جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانا ہے؟ کہ عذاب الہی کے جھنکوں کی تاب لاسکیں  
گی۔ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت و بقا منظور ہے۔ انہیں لازم ہے کہ  
وہ اللہ و رسول کی نافرمانیوں اور بد اعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ اور اپنی کوشش اور طاقت  
بھرا اعمال صالحہ اور نیکیاں کرتے رہیں ورنہ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دے  
رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی۔ اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ قرآن مجید میں پڑھ لو کہ

وَالْمُؤْتَفِكْتُ بِالْخَطِئَةِ یعنی بہت سی بستیاں اپنی بد کاریوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئیں۔ اور دوسری آیت میں یہ بھی پڑھ لو کہ!

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا  
لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ  
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا  
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝  
(الاعراف رکوع ۱۲ پارہ ۹)

اور اگر بستیوں والے ایمان پر رہتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے آسمان و زمین سے کھول دیتے۔ لیکن ان لوگوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔

## (۲۷) الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر

یہ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر ”سندوم“ ہے۔ جو ملک شام میں صوبہ ”حمص“ کا ایک مشہور شہر ہے حضرت لوط علیہ السلام بن ہاران بن تارخ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر ”بابل“ کے باشندہ تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے ”فلسطین“ تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر ”اردن“ میں مقیم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر ”سندوم“ والوں کی ہدایت کیلئے بھیج دیا (صاوی ج ۲ ص ۷۵)

### شہر سندوم

شہر سندوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوئے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے۔ اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے۔ مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا۔ اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو۔ تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ



جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے۔ تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بد فعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا۔ اور ان لوگوں سے خوب خوب بد فعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بدان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے۔ کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔

(روح البیان ج ۳ ص ۱۱۹ اعراف)

چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح وعظ فرمایا کہ:

کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے بھی نہ کی۔ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر بلاشبہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔

اتَّاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝ (الاعراف رکوع ۱۰ پ ۸)

حضرت لوط علیہ السلام کی اس اصلاحی اور مصلحانہ وعظ کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کیا کہا؟ اس کو قرآن کی زبان سے سنئے! اور ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ان (حضرت لوط) کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۝ (الاعراف رکوع ۱۰)

جب قوم لوط کی سرکشی اور بد فعلی قابل ہدایت نہ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں قوم کے بد فعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بد فعلی

کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا۔ مگر یہ بد فعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی۔ تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین ورنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی! آپ بالکل ہی کوئی فکر نہ کریں۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں۔ لہذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں۔ اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا مینہ برسا اور اس زور کی سنگباری ہوئی کہ قوم لوط کا ایک ایک آدمی مر گیا۔ اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام ”واعلہ“ تھا جو درحقیقت منافق تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ اور یہ کہا کہ ”ہائے رے میری قوم!“ یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا۔ اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَانْجَيْنُهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ كَانَتْ  
 مِنَ الْغَابِرِينَ ۝ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ  
 مَطْرًا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
 الْمُجْرِمِينَ ۝

تو ہم نے حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو  
 نجات دی۔ بجز ان کی ایک عورت کے کہ وہ  
 رہ جانے والوں میں ہوئی۔ اور ہم نے ان پر  
 ایک مینہ برسایا۔ تو دیکھ تو کیسا انجام ہوا

مجرموں کا؟

(الاعراف رکوع ۱۰ پ ۸)

جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے۔ اور پتھر پر اس شخص کا

نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ (صاوی ج ۲ ص ۷۶)

## درسِ ہدایت

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ لواطت کس قدر شدید اور ہولناک گناہ کبیرہ ہے کہ اس جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئیں۔ اور مجرمین پتھراؤ کے عذاب سے مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے!

منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس لعین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بد فعلی کرے۔ اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اور حدیث میں ہے کہ عورت کا اپنی فرج کو دوسری عورت کی فرج سے رگڑا یہ ان دونوں کی زنا کاری ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ (روح البیان ج ۳ ص ۱۹۸)

لواطت کی ممانعت کی تفصیلی بیان ہماری کتاب ”جہنم کے خطرات“ میں پڑھئے۔

## (۲۸) سامری کا بچھڑا

فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے بچے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ چالیس راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں اس کے بعد انہیں کتاب (توراة) دی جائے گی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ چالیس دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔

## سامری

بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا جو طبعی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا اور حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا۔ اس لیے یہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام ”موسیٰ سامری“ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ”موسیٰ“ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے پالا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر

ہوئی تھی مگر خدا کی شان فرعون کے گھر پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے۔ اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کا پالا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے پچھڑے کی پوجا کرائی۔ اس بارے میں کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے کہ۔

إِذَا لَمَرُّهُ لَمْ يُخْلَقْ سَعِيدًا مِنَ الْأَزَلِّ  
فَقَدْ خَابَ مَنْ رَبَّى وَ خَابَ الْمُؤْمَلُ  
فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ  
وَ مُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ

یعنی : ب کوئی آدمی ازل ہی سے نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے۔ اور اس کا پرورش کرنے والا بھی ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ دیکھ لو موسیٰ سامری جو حضرت جبرئیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شقی اور پیدا کٹی بد بخت تھا۔ تو حضرت جبرئیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ بھی نفع نہ دیا اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ (صاوی ج ۱ ص ۲۹)

جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے۔ سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک پچھڑا بنایا۔ اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی۔ اس نے وہ خاک پچھڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ پچھڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم! حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ حالانکہ تمہارا خدا تو یہی پچھڑا ہے۔ لہذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے۔ اور بارہ ہزار آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے پچھڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس پچھڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے۔

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ  
حَلِيَّتِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ  
خَوَازِٓمٌ (الاعراف رکوع ۱۸ پارہ ۹)

اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے  
زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا جو بے جان کا  
دھڑ تھا۔ اور گائے کی طرح بولتا تھا۔

جب چالیس دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر اور توراہ  
شریف ساتھ میں لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچھڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر  
بہت غضب و جلال طاری ہو گیا آپ نے جوش غضب میں توراہ شریف کو زمین پر ڈال دیا  
اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کا بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر  
دیا اور فرمانے لگے تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا حضرت ہارون علیہ السلام  
معذرت کرنے لگے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

قَالَ ابْنُ أُمَّ إِنْ الْقَوْمَ اسْتَضَعْفُونِي  
وَكَادُوا يَقْتُلُونِي فَلَا تَشْمِثْ بِي  
الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ  
الظَّالِمِينَ (الاعراف رکوع ۱۸ پارہ ۹)

حضرت ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے  
بیٹے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ  
مجھے مار ڈالیں تو آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا  
موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں نہ ملائیں۔

حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا  
اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی  
دعا فرمائی۔ پھر آپ نے بچھڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں  
بہا دیا۔

### درس ہدایت

مذکورہ بالا قرآنی واقعہ سے خاص طور پر دو سبق ملتے ہیں۔

(۱) اس سے علماء کرام کو یہ سبق ملتا ہے کہ علماء کرام کو کبھی اپنے مذہب کے عوام کی طرف سے  
غافل نہیں رہنا چاہیے۔ بلکہ ہمیشہ عوام کو مذہبی باتیں بتاتے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ  
سامری نے چالیس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اس نے  
ساری قوم کو بہکا کر گمراہ کر دیا۔ اسی طرح اگر علمائے اہل سنت اپنی قوم کی ہدایت و خبر گیری  
سے غافل رہیں تو بد مذہبوں کو موقع مل جائے گا۔ کہ ان لوگوں کو بہکا کر گمراہ کر دیں۔

(۲) حضرت جبرئیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک میں جب یہ اثر تھا کہ پچھڑے کے منہ میں پڑتے ہی پچھڑا بولنے لگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے قدموں کے نیچے کی خاک میں بھی خیر و برکت کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ لہذا خدا کے نیک بندوں کے غبار آلود قدموں کو دھو کر مکانوں میں پانی چھڑکنا جیسا کہ بعض خوش عقیدہ مریدین کا طریقہ ہے یہ کوئی لغو اور بیکار کام نہیں بلکہ اس سے فیوض و برکات اور فوائد حاصل ہونے کی امید ہے۔ اور یہ شرعاً جائز بھی ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

## (۲۹) سروں کے اوپر پہاڑ

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توراہ شریف کے احکام پڑھ کر بنی اسرائیل کو سنائے اور فرمایا کہ تم لوگ اس پر عمل کرو۔ جب بنی اسرائیل نے توراہ شریف کے احکام کو سنا تو ایک دم انہوں نے ان احکام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سرکشی پر اللہ تعالیٰ کا یہ غضب نازل ہوا کہ ناگہاں کوہ طور جڑ سے اکھڑ کر ہوا میں اڑتا ہوا اور بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق ہو گیا جو تین میل لمبی اور تین میل چوڑی زمین میں ڈیرے ڈالے ہوئے مقیم تھے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ پہاڑ ان کے سروں پر لٹک رہا ہے تو سب کے سب سجدہ میں گر کر عہد کرنے لگے کہ ہم نے توراہ کے سب احکام کو قبول کیا۔ اور ہم ان پر عمل بھی کریں گے۔ مگر ان لوگوں نے سجدہ میں اپنے رخسار اور بائیں بھنوں کو زمین پر رکھا اور دہنی آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے اور کہہیں ہمارے اوپر گرتو نہیں رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی یہودی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں کہ بائیں رخسار اور بائیں بھنوں کو زمین پر رکھتے ہیں۔ بہر حال بنی اسرائیل نے جب توبہ کر لی اور توراہ کے احکام پر عمل کرنے کا عہد کر لیا تو پھر یہ پہاڑ اڑ کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کو چند جگہوں پر بیان فرمایا ہے مثلاً سورہ اعراف میں ہے کہ:

اور جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ سائبان ہے اور ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب یہ پہاڑ ان پر گر پڑے گا پھر ہم نے کہا کہ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ  
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

(الاعراف رکوع ۲۱ پ ۹) کے ساتھ اور یاد کر لو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔

### درس ہدایت

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ ناواقفوں یا سرکشوں کو کسی نیک کام کے کرنے یا اچھی بات کو قبول کرنے پر ڈرا دھمکا کر مجبور کرنا یہ عین حکمت اور خداوند قدوس کی مقدس سنت ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

## (۳۰) زبان لٹک کر سینے پر آگئی

### بلعم بن باعوراء

یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا۔ کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دو اتیں بارہ ہزار تھیں۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ”قوم جبارین“ سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باعوراء کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس لوٹ جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعم بن باعوراء کانپ اٹھا۔ اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو۔ خدا کی پناہ! حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے۔ ان پر بھلا میں کیسے؟ اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رور و کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے

بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بددعا کر دوں گا۔ مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بددعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا۔ تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدایا اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا۔ یہاں تک کہ بلعم بن باعوراء پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا۔ اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا۔ اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بددعا کے لیے چل پڑا راستہ میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا۔ یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی۔ اور اس نے کہا کہ افسوس! اے بلعم بن باعوراء! تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم! تیرا برا ہو۔ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بھی بلعم بن باعوراء واپس نہیں لوٹا۔ یہاں تک کہ ”حسان“ نامی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا۔ اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بددعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرتا تھا۔ مگر اس کی زبان پر اس قوم کے لیے بددعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم! تم تو الٹی بددعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا اے میری قوم! میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باعوراء نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس! میری دنیا و آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی میرا ایمان جاتا رہا۔ اور میں قہر قہار و غضب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن باعوراء کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا۔ اور بہت سی خوبصورت دوشیزہ لڑکیوں کو بناؤ سنگار کر کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا



ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا۔ اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا۔ اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی! یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار یہ تیرے لیے حرام ہے فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے۔ اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمہ میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون (پلیگ) کی وبا پھیل گئی۔ اور گھنٹے بھر میں ستر ہزار آدمی مر گئے۔ اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر نا کام و نامراد واپس لوٹ آیا جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ (صاوی ج ۲ ص ۹۴ و جلالین وغیرہ)

بلعم بن باعوراء پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعہ کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

اے محبوب! انہیں اس (بلعم) کے احوال سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی۔ تو وہ ان آیتوں سے صاف نکل گیا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو آیتوں کے سبب اوپر اٹھا لیتے۔ مگر وہ تو زمین پکڑ کر رہ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا۔ تو اس کا حال کتے کی طرح ہے کہ تو اس پر حملہ کرے جب بھی وہ زبان نکالے۔ اور چھوڑ دے جب بھی وہ زبان نکالے۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا جو

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا  
فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ  
فَكَانَ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا  
لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى  
الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۖ فَمَثَلُهُ  
كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۖ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ  
يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ۗ ذَٰلِكَ  
مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
فَاقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝  
(الاعراف رکوع ۲۲ پارہ ۹)

ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اے محبوب! آپ لوگوں کو نصیحت سناتے رہئے تاکہ لوگ دھیان رکھیں۔

## بلعم باؤراء کیوں ذلیل ہوا؟

روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلعم باعوراء کو اتنی کراہتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس قدر مذلت میں گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کراہتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہان میں اس طرح ذلیل و خوار اور خائب و خاسر نہ کرتا۔

(روح البیان ج ۳ ص ۱۳۹)

### درسِ ہدایت:

بلعم باعوراء کی اس سرگزشت سے چند اسباق ہدایت ملتے ہیں!

(۱) اس سے ان عالموں اور لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو جان بوجھ کر اپنے دین و ایمان کا سودا کرتے رہتے ہیں۔ دیکھ لو! بلعم باعوراء کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے اور صرف اس لیے کہ وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو گیا۔ اور دانستہ اللہ کے نبی پر بددعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اس کا اس پر یہ وبال پڑا کہ دنیا و آخرت میں ملعون ہو کر اس طرح مردود و مطرود ہو گیا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھرا۔ اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی اور شعلہ بار آگ ایندھن بن گیا۔ لہذا ہر مسلمان خصوصاً علماء و مشائخ کو مال و دولت کے حرص اور لالچ کے جال سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہئے۔ اور ہرگز ہرگز کبھی بھی مال کی طمع میں دین کے اندر مدہانت نہیں کرنی چاہیے۔ ورنہ خوب سمجھ لو۔ کہ قہر الہی کی تلوار لٹک رہی ہے (والعیاذ باللہ منہ)

(۲) اس سانحہ سے عام مسلمان بھی یہ سبق سیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جس میں ملائیکہ اور مومنین تھے۔ ظاہر ہے کہ اس لشکر کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کیونکہ یہ ایسا روحانی اور ملکوتی لشکر تھا کہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے پہاڑ لرزہ بر اندام ہو جاتے مگر صرف ایک بدنصیب کے گناہ کے سبب ایسی نحوست پھیل گئی کہ ملائیکہ لشکر سے الگ ہو گئے۔ اور طاعون کے عذاب نے پورے لشکر میں ایسی ابتری پھیلا دی کہ پورا لشکر بکھر گیا۔ اور یہ فوج ظفر موج ناکام و نامراد ہو کر پسا ہو گئی۔ اس لیے مسلمانوں کو لازم ہے کہ اگر وہ کفار کے مقابلہ میں مظفر و منصور اور فتیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر وقت گناہوں اور

بدکاریوں کی نحوستوں سے بچتے رہیں ورنہ فرشتوں کی مدد ختم ہو جائے گی۔ اور مسلمانوں کا رعب کفار کے دلوں سے نکل جائے گا اور مسلمانوں کو نہ صرف ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ بلکہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو جائے گی۔ اور پوری قوم بھاگتے ہوئے کتوں بلکہ چوہوں کی طرح کفار کی مار اور کران کی تلوار کا لقمہ بن کر صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے گی۔ (نعوذ باللہ منہ)

## (۳۱) حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں!

حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر ”نینوی“ کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا!

### نینوی

یہ موصل کے علاقہ کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ اور کفر و شرک وغیرہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا۔ مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے۔ اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے۔ کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں۔ اور ہر طرف سے دھواں اٹھا کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے ہی والا ہے۔ تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی۔ مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا۔ چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں بچوں بلکہ اپنے

موشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے۔ اور رو کر صدق دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ اور دربار باری میں گڑگڑا کر گریہ و زاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوتے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے۔ اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھیں سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم ان پر صدق دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بیقراری اور مخلصانہ گریہ و زاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھالیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔

اس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا کہ:

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا  
 اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا  
 كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي  
 الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى  
 حِيْنٍ ۝ (يونس رکوع ۱۰ اپ ۱۱)

تو ہوئی ہوگی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا  
 ایمان کام آتا۔ ہاں یونس کی قوم جب وہ  
 ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب  
 دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا۔ اور ایک وقت تک  
 انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔

مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان  
 لانا مفید نہیں ہوتا مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی  
 جب وہ لوگ ایمان لائے۔ تو ان سے عذاب اٹھالیا گیا۔

عذاب ٹلنے کی دعا:

طبرانی شریف کی روایت ہے کہ شہر منیٰ پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے۔  
 اور حضرت یونس علیہ السلام باوجود تلاش و جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے۔ تو شہر والے گھبرا کر  
 اپنے ایک عالم کے پاس گئے۔ جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے اور ان سے فریاد کرنے  
 لگے۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو یا حٰی حٰی حٰی لا حٰی و یا حٰی  
 یٰحٰی الموتٰی و یا حٰی لا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ چنانچہ لوگوں نے یہ پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل

گیا۔ لیکن مشہور محدث اور صاحب کرامت ولی حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمۃ کا قول ہے کہ شہر نینوی کا عذاب جس دعا کی برکت سے دفع ہوا وہ دعا یہ تھی کہ اَللّٰهُمَّ اِنَّ ذُنُوْبَنَا قَدْ عَظُمَتْ وَجَلَّتْ وَاَنْتَ اَعْظَمُ وَاَجَلُّ فَاَفْعَلْ بِنَا مَا اَنْتَ اَهْلُهُ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ اَهْلُهُ بہر حال عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جاسکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا۔ مگر عذاب نہیں آیا۔ تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصہ میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرعہ نکالا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا۔ تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا۔ اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نکل گئی اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ مقید ہو گئے۔ مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹھری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی نحیف و کمزور ہو چکے تھے۔ خدا کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سایہ میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو اپنی قوم میں تشریف لائے۔ اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔

(صاوی ج ۲ ص ۷۴ وغیرہ کتب تفاسیر)

حضرت یونس علیہ السلام کی اس دردناک سرگزشت کو قرآن کریم نے ان لفظوں میں

بیان فرمایا کہ:

اور بیشک یونس پیغمبروں میں سے ہیں جب کہ وہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے تو قرعہ ڈالا۔ تو وہ دریا میں ڈھکیل دیئے گئے۔ پھر انہیں مچھلی نے نکل لیا۔ اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتے جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے پھر ہم نے انہیں میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا۔ اور ہم نے ان کو ایک لاکھ آدمیوں کی طرف بلکہ کچھ زیادہ کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لائے پھر ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ اذْ  
أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۝  
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۝  
فَالْتَقَمَهُ الْحُوتَ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝  
فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۝  
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝  
فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۝  
وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ۝  
وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ  
يَذِيدُونَ ۝ فَأَمْنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى  
حِينٍ ۝ (الصف ۵۷ پارہ ۲۳)

### درس ہدایت

(۱) نبیوں والوں کی سرگزشت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو توبہ و استغفار میں مشغول ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ بندوں کی بے قراری اور ان کی گریہ و زاری پر ارحم الراحمین رحم فرما کر بلاؤں کے عذاب کو دفع فرما دے گا!

(۲) حضرت یونس علیہ السلام کی دل ہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے لیکن جب بندے امتحان میں پڑ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اور عین بلاؤں کے طوفان میں بھیا خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ تو ارحم الراحمین اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ غور کیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر انہیں مچھلی نے نکل لیا تو اب بھلا ان کی حیات کا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر اسی حالت

میں آپ نے جب آیت ۱۰۲ کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ و سلامت رکھا اور پھر مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا۔ اور پھر انہیں تندرستی و سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا۔ اور ان کی تبلیغ کی بدولت ایک لاکھ سے زائد آدمیوں کو ہدایت مل گئی!

## (۳۲) چار مہینے کے بچے کی گواہی

حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنوئیں میں ڈال دیا۔ تو ایک شخص جس کا نام مالک بن زعر تھا جو مدین کا باشندہ تھا۔ ایک قافلہ کے ہمراہ اس کنوئیں کے پاس پہنچا۔ اور اپنا ڈول کنوئیں میں ڈالا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا۔ اور مالک بن زعر نے آپ کو کنوئیں میں سے نکال لیا۔ تو آپ کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ یہ ہمارا بھگا ہوا غلام ہے۔ اگر تم اس کو خرید لو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ بیچ دیں گے۔ چنانچہ ان کے بھائیوں نے صرف بیس درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا۔ مگر شرط یہ لگا دی کہ تم اس کو یہاں سے اتنی دور لے جاؤ کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ مالک بن زعر نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا۔ اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ دیان بن ولید عملی تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم قطیف مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیئے تھے۔ اور مصر میں لوگ اس کو ”عزیز مصر“ کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کیلئے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں۔ تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنے ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا۔ اور گھر لے جا کر اپنی بیوی ”زلیخا“ سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر شریف تیرہ یا سترہ برس کی تھی۔ ”زلیخا“ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ اور ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لہانے لگی آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مولیٰ عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت





## (۳۳) حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنوئیں میں ڈال کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے انتہارنج و قلق اور بے پناہ صدمہ ہوا۔ اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے اور بکثرت رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا۔ اور بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ پھر برسوں کے بعد جب برادران یوسف علیہ السلام قحط کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ مصر گئے اور بھائیوں نے آپ کو پہچان کر اظہارِ مذمت کرتے ہوئے معافی طلب کی۔ تو آپ نے انہیں معاف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمادے وہ ارحم الراحمین ہے۔

جب آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال پوچھا۔ اور بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کی جدائی میں روتے روتے بہت ہی نڈھال ہو گئے ہیں۔ اور ان کی بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی ہے۔ بھائیوں کی زبانی والد ماجد کا حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہو گئے پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ:

تم لوگ میرا یہ کرتا لے جاؤ۔ اور اس کو میرے والد کے منہ پر ڈال دو۔ تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔

اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلٰى  
وَجْهِ اَبِي يَاتِ بِصِيْرًا وَاَتُوْنِيْ  
بَاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ (يوسف ۱۰ع)

چنانچہ برادران یوسف علیہ السلام اس کرتے کو لے کر مصر سے کنعان کو روانہ ہوئے آپ کے بھائیوں میں سے یہودا نے کہا۔ کہ اس کرتے کو میں لیکر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں گا۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈال کر ان کا خون آلود کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا۔ اور میں نے ہی یہ کہہ کر ان کو غمگین کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو چونکہ میں نے انہیں غمگین کیا تھا۔ لہذا آج میں ہی یہ کرتا دے کر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو خوش

کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہود اس پیراہن کو لے کر اسی کوس تک ننگے سر برہنہ پا دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستہ کی خوراک کے لیے سات روٹیاں اس کے پاس تھیں مگر فرط مسرت اور جلد پہنچنے کے شوق میں وہ ان روٹیوں کو بھی نہ کھا سکا۔ اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کی خدمت میں پہنچ گیا!

یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اور آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا کہ:

اِنِّیْ لَا جِدُّ رِیْحِ یُوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تَفْنِدُوْنَ (یوسف رکوع ۱۱)

بیشک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اگر مجھے تم لوگ یہ نہ کہو کہ سٹھیا گیا ہے۔

آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم آپ اب بھی اپنی اسی پرانی وارنگی میں پڑے ہوئے ہیں بھلا کہاں یوسف ہیں؟ اور کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا۔ اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں میں روشنی آگئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ:

فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلْقَهْ عَلٰی وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ؕ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ مِنْ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ (یوسف رکوع ۱۱ پارہ ۱۳)

پھر جب خوشی سنانے والا (یہودا) آیا اس نے وہ کرتا حضرت یعقوب کے منہ پر ڈالا۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں پھر روشنی آگئی۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شائیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے!

یہودا مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جیسے ہی کنعان کی طرف چلا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لی۔ اس بارے میں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے ایک بڑی ہی نصیحت آموز اور لذیذ حکایت لکھی ہے۔ جو بہت ہی دلکش ہے اور نہایت ہی کیف آور بھی ہے۔

حکایت:

یکے پر سیدازاں گم کردہ فرزند کہ اے عالی گہر! پیر خرد مند

حضرت یعقوب علیہ السلام سے جن کے فرزند گم ہو گئے تھے۔ کسی نے یہ پوچھا کہ  
اے عالی ذات اور بزرگ عقلمند۔

زمصرش بوئے پیراہن شنیدی

چرا در چاہ کنعاش ندیدی

آپ نے مصر جیسے دور دراز مقام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو  
سونگھ لی۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان ہی کی سرزمین میں ایک کنوئیں کے اندر  
تھے۔ تو آپ کو اتنے قریب سے بھی ان کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو  
حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا۔

بگفتا حال ما برق جہاں است

دے پیدا و دیگر دم نہاں است

گے بر طارم اعلیٰ نشینم

گے بر پشت پائے خود نہ بینم

یعنی ہم اللہ والوں کا حال کوندنے والی بجلی کی مانند ہے۔ کہ دم بھر میں ظاہر اور دم بھر  
میں پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ کبھی تم ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات نورانیہ کی تجلی ہوتی ہے تو ہم  
لوگ آسمانوں پر جا بیٹھتے ہیں اور ساری کائنات ہمارے پیش نظر ہو جاتی ہے۔ اور کبھی جب  
ہم پر استغراق کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہم لوگ خدا کی ذات و صفات میں ایسے مستغرق  
ہو جاتے ہیں کہ تمام ماسوی اللہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم اپنے پشت پا کو  
بھی نہیں دیکھ پاتے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ مصر سے تو پیراہن یوسف کو ہم نے سونگھ کر اس کی  
خوشبو محسوس کر لی کیونکہ اس وقت ہم پر کشفی کیفیت طاری تھی مگر کنعان کے کنوئیں میں سے  
ہم کو حضرت یوسف کی خوشبو اس لیے محسوس نہ ہو سکی کہ اس وقت ہم پر استغراقی کیفیت کا  
غلبہ تھا اور ہمارا یہ حال تھا کہ۔

میں کسی کی لوں خبر مجھے اپنی خبر نہیں!

درس ہدایت

اس پورے واقعہ سے خاص طور پر دو سبق ملتے ہیں!

(۱) یہ کہ اللہ والوں کے لباس اور کپڑوں میں بھی بڑی برکت اور کرامت پنہاں ہوتی ہے لہذا بزرگوں کے لباس و پوشاک کو تبرک بنا کر رکھنا اور ان سے برکت و شفاء حاصل کرنا اور ان کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعاء مانگنا یہ مقبولیت اور حصول سعادت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔

اللہ والوں کا حال ہر وقت اور ہمیشہ یکساں ہی نہیں رہتا بلکہ کبھی تو ان پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے انوار سے ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ اس وقت وہ سارے عالم کے ذرے ذرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ تجلیوں کے مشاہدے میں مستغرق ہو کر سارے عالم سے بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ وہ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں۔ تصوف کی یہ دو کشفی و استغراقی کیفیات ایسی ہیں جن کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا بلکہ ان پر کیفیات طاری ہوتی رہتی ہے۔ سچ ہے۔

لذت مے شناسی بخدا تانہ چشمی

اور اس حال و کیفیت کا طاری ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ ذکر و فکر اور مراقبہ کے ساتھ ساتھ شیخ کامل کی باطنی توجہ سے دل کی صفائی اور انجلاء قلبی پیدا ہو جائے سلطان تصوف حضرت مولانا رومی علیہ الرحمہ نے اسی نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ۔

صد کتاب و صد ورق درنار کن

روئے دل راجانب دلدار کن

اور کسی دوسرے عارف نے یہ فرمایا کہ۔

از ”کنز“ ”وہدایہ“ نہ تو اں یافت خدارا

سی پارہ دل حواں کہ کتابے بہ ازیں نیست

یعنی خالی ”کنز الدقائق“ ”وہدایہ“ پڑھ لینے سے خدا نہیں مل سکتا بلکہ دل کے سپارے

کو پڑھو کیونکہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے مگر اس دور نفسانیت میں جب کہ تصوف کے

علم بردازوں نے اپنی بے عملی سے تصوف کے مضبوط و مستحکم محل کی اینٹ سے اینٹ بجادی

ہے۔ اور محض جھاڑ پھونک اور شعبدہ بازیوں پر پیری مریدی کا ڈھونگ چلا رہے ہیں۔ اور

خالی رنگ برنگ کے کپڑوں اور نئی نئی تراش خراش کی پوشاکوں اور تسبیح و عصا کو تخت کا معیار

بنارکھا ہے۔ بھلا تصوف کی حقیقی کیفیات و تجلیات کو لوگ کب؟ اور کیسے اور کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے اس بارے میں ارباب تصوف اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہ:

حقیقت خرافات میں کھو گئی

یہ امت روایات میں کھو گئی

## (۳۴) سورہ یوسف کا خلاصہ

اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو "احسن القصص" یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے۔ اس لئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اور رنج و راحت اور غم و سرور کے مد و جزر میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے اس لئے ہم اس قصہ عجیبہ کا خلاصہ تحریر کرتے ہیں تاکہ ناظرین اس سے عبرت حاصل کریں اور خداوند قدوس کی قدرتوں کا مشاہدہ کریں۔

حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: (۱) یہودا (۲) روبیل (۳) شمعون (۴) لاوی (۵) زبولون (۶) یسجر (۷) دان (۸) نفتالی (۹) جاد (۱۰) آشر (۱۱) یوسف (۱۲) بنیامین۔

حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بیحد اکرام اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ سات برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور چاند و سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ پیارے بیٹے! خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کر دینا ورنہ یہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی خفیہ چال چل دیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ تیار کر لیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر

جنگل کے کنوئیں میں ڈال دیں۔ اس منصوبہ کی تکمیل کے لئے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت حاصل کر لی اور ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو ایک گہرے اور اندھیرے کنوئیں میں گرا دیا لیکن فوراً ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے کنوئیں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچالیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنوئیں میں تھا اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر ان کو پہنا دیا جس سے اس اندھیرے کنوئیں میں روشنی ہو گئی۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنوئیں میں ڈال کر اور آپ کے پیرا ہن کو ایک بکری کے خون میں لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ میرا یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ کھیل میں دوڑتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر چلے گئے تو ایک بھیڑیا آیا اور وہ ان کو پھاڑ کر کھا گیا اور یہ ان کا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا لیا تھا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشکبار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا کہ کرتا بالکل سلامت ہے اور کہیں سے بھی پھٹا نہیں ہے تو آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانا بھیڑا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی اور آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے پھر آپ نے دکھے ہوئے دل سے نہایت درد بھری آواز میں فرمایا کہ "فَصَبْرٌ جَمِيلٌ" وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ۔

حضرت یوسف علیہ السلام تین دن اس کنوئیں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھاری تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت شیریں ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا جب اس قافلہ کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زعر خزاہی تھا پانی بھرنے کے لئے آیا اور کنوئیں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے مالک بن زعر نے ڈول کھینچا تو آپ کنوئیں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کا حسن و جمال دیکھا تو بے شریٰ ہذا غلام کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے برابر روزانہ کنوئیں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے جب ان لوگوں نے آپ کو کنوئیں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلہ میں پہنچے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا بھائی کا ہوا غلام ہے جو بالکل ناکارہ اور نافرمان ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ فروخت کر دیں گے مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زعر کے ہاتھ صرف بیس درہموں میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زعر ان کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت گراں قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ ”زلیخا“ سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی بلکہ ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر عاشق ہو گئی اور ان کا جوش عشق یہاں تک بڑھا کہ ایک دن ”زلیخا“ عشق و محبت میں والہانہ طور پر آپ کو پھسلانے اور لہانے لگی اور آپ کو ہمبستری کی دعوت دینے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مولیٰ عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا اور آپ گھر میں سے بھاگ نکلے تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیرا ہن پکڑ لیا اور آپ کا پیرا ہن پیچھے سے پھٹ گیا۔ عین اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں آ گئے اور دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخا نے آپ پر تہمت لگا دی۔ عزیز مصر حیران ہو کر ان دونوں میں سے کون سچا ہے؟ اتفاق سے مکان میں ایک چار ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شہادت

دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف قصور وار ہیں اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا کی خطا ہے اور یوسف بے قصور ہیں۔ جب عزیز مصر نے کرتے کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطا وار قرار دے کر ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس کا خیال و ملال نہ کیجئے پھر زلیخا کے مشورہ سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں بھجوا دیا۔ اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانہ کی کوٹھڑی میں چلے گئے اور آپ نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ! یہ قید خانہ کو کوٹھڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے۔ جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی پھر آپ سات برس یا بارہ برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور وعظ فرماتے رہے۔

یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانہ میں داخل ہوئے اسی دن آپ کے ساتھ ساتھ بادشاہ مصر کے دو خادم ایک شراب پلانے والا دوسرا باورچی دونوں جیل خانہ میں داخل ہوئے اور دونوں نے اپنا ایک ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا اور آپ نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر فرمادی جو سو فیصدی صحیح ثابت ہوئی۔ اس لئے آپ کا معبر (تعبیر دینے والا) ہونا مشہور ہو گیا۔

اسی دوران میں مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ سات فرہ گایوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات ہری بالیاں ہیں اور سات سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہیں بتائی اتنے میں بادشاہ کا ساتی جو قید خانہ سے رہا ہو کر آ گیا تھا اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے جیل خانہ میں جانے کی اجازت دی جائے چنانچہ یہ بادشاہ کا فرستادہ ہو کر قید خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ سات دبلی گائیں سات موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور سات ہری بالیاں ہیں اور سات سوکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سات برس تک مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو پھر سات برس تک سخت خشک سالی ہے گی۔ قحط کے ان سات برسوں میں پہلے سات برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد



نے واپس لوٹ کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانہ میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعہ میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرایا جائے اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف کو پھسلا یا تھا۔ خطا میری ہے۔ حضرت یوسف سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام و انصرام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر سات سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا۔ یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا دور شروع ہو گیا اور ہر طرف بھکمری پھیل گئی تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لئے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ نے غلوں کی فروخت شروع کر دی۔

اسی سلسلے میں آپ کے بھائی لوگ بھی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل ہی نہیں پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دیدیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی (بنیامین) جو ہے آئندہ اس کو بھی لے کر آنا اگر تم لوگ آئندہ اس کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم ان کی نقدیوں کو اس کی بوریوں میں ڈال دو تا کہ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچ کر ان کی نقدیوں کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ ضرور یہ لوگ واپس لوٹیں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان! اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے۔ تمہیں غلہ نہیں ملے گا لہذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ

ہم ان کے حصہ کا بھی غلہ لے لیں اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی قمیص اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان! اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہئے؟ دیکھ لیجئے عزیز مصر نے ہم کو پورا پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے لہذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ”یوسف“ کے معاملہ میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں تو تم لوگوں نے کیا کر ڈالا؟ تو اب دوبارہ تم لوگوں پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ میں اس طرح ”بنیامین“ کو ہرگز ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب بھائیوں نے حلف لے کر عہد کیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ”بنیامین“ کو بھیج دیا۔

جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی ”بنیامین“ کو اپنی مسند پر بٹھا لیا اور چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی ”یوسف“ ہوں۔ لہذا تم کوئی فکر و غم نہ کرو پھر آپ نے سب کو اناج دیا اور سب نے اپنی اپنی بوریوں کو سنبھال لیا جب سب چلنے لگے تو آپ نے ”بنیامین“ کو اپنے پاس روک لیا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے۔ اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے اور یہاں ”بنیامین“ ان کے ہاتھ سے چھین لئے گئے۔ اب گھر جا کر کیونکر؟ اور یہاں ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی ”یہودا“ کہنے لگا کہ اے میرے بھائیو! سوچو کہ تم لوگ والد صاحب کو کیا کیا عہد و پیمانہ دے کر آئے ہو؟ اور اس سے پہلے تم لوگ اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی تقصیر کر چکے ہو لہذا میں تو جب تک والد صاحب حکم نہ دیں اس زمین سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہاں تم لوگ گھر جاؤ اور والد صاحب سے سارا ماجرا عرض کر دو۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد سے سارا حال بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف کی طرح بنیامین کے معاملہ میں بھی تم لوگوں نے حیلہ سازی کی ہے تو خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ

ہائے افسوس! اور حضرت یوسف کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدتِ غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے یوسف کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا کہ ابا جان! آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ آپ لب گور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اے میرے بیٹو! تم لوگ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی ”بنیامین“ کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔

چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا کہ اے عزیز مصر! ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے اور ہم چند کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں لہذا آپ بطور خیرات کے کچھ نلہ دے دیجئے اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان اور خیرات کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا سچ مچ آپ یوسف ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان فرمایا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بلاشبہ ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم لوگوں پر بہت بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھرا آیا اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا۔ جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔

بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا کیونکہ حضرت یوسف کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر میں ہی ان کے پاس لے گیا تھا تو جس طرح میں نے انہیں وہ کرتا دے کر غمگین کیا تھا آج یہ کرتا لے جا کر ان کو خوش کر دوں گا۔ چنانچہ یہودا یہ کرتا لے کر گھر

پہنچا اور اپنے والد کے چہرہ پر ڈال دیا تو ان کی آنکھوں میں بینائی آگئی پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت بعد نماز اپنے سب بیٹوں کے لئے دعا فرمائی اور یہ دعا مقبول ہوگئی۔ چنانچہ آپ پر یہ وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئیں۔

پھر مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ دو سواریاں بھیج دی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل بہتر یا تہتر آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر آپ مصر روانہ ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو چھ لاکھ سے زیادہ تھے حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف چار سو سال بعد کا زمانہ ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چار ہزار لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا۔ اور صد ہار ریشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے ہوئے مصر باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند ”یہودا“ کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لارہے تھے۔ جب ان لشکروں اور سواروں پر آپ کی نظر پڑی۔ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو ”یہودا“ نے عرض کیا کہ جی نہیں۔ یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی! ذرا سراٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ کے سرور و شادمانی میں شرکت کے لئے ملائکہ کا جم غفیر حاضر ہے جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے ہیں ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور طبل و بوق کی آوازوں نے عجیب سماں پیدا کر دیا تھا!

جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجئے اور اپنے پدر بزرگوار کو ان کے رقت انگیز سلام کا موقع دیجئے چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں کے ساتھ سلام کہا کہ ”السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا مُذْهَبَ الْأَخْدَانِ“ یعنی اے تمام غموں کو دور

کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹوں نے نہایت گرمجوشی کے ساتھ معانقہ کیا۔ اور فرط مسرت میں دونوں خوب خوب روئے۔ پھر ایک استقبالیہ خیمہ میں تشریف لے گئے جو خوب مزین اور آراستہ کیا گیا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونق افروز ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا۔ اور ان کے ارد گرد آپ کے گیارہ بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ گئے۔ اور سب کے سب بہ یک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ۔

اے میرے باپ! یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بیشک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بیشک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا۔ اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاقی کرا دی تھی۔ بیشک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے۔ بیشک وہی علم و حکمت والا ہے۔

يَا بَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ  
زَقَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ  
أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجْتُنِي مِنَ  
السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ  
بَعْدِ أَنْ نَدَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ  
إِخْوَتِي ۖ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا  
يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝  
(سورۃ یوسف ع ۱۱ پ ۱۲)

یعنی میرے گیارہ بھائی گیارہ ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہے اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی آپ کا خواب تھا جو بچپن میں دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے اور سورج و چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی دس تاریخ عاشورہ کے دن وقوع پذیر ہوا۔

### حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات

اسحاب تواریخ کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چوبیس سال تک نہایت آرام و خوشحالی میں رہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ ملک شام میں لے جا کر مجھے میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پہلو میں دفن کرنا۔ چنانچہ آپ کی وفات

کے بعد آپ کے جسم مقدس کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر مصر سے شام لایا گیا ٹھیک اسی وقت آپ کے بھائی حضرت "عمیس" کی وفات ہوئی۔ اور آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ایک ہی ساتھ ہوئی تھی۔ اور دونوں ایک ہی قبر میں دفن کئے گئے اور دونوں بھائیوں کی عمریں ایک سو سینتالیس برس کی ہوئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن فرما کر پھر مصر تشریف لائے۔ اور اپنے والد ماجد کے بعد ۲۳ سال تک مصر پر حکومت فرماتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی بھی وفات ہو گئی۔

### حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر

آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقام دفن میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلہ میں دفن پر اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ آپ کو بیچ دریاے نیل میں دفن کیا جائے۔ تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر منور کو چھوتا ہوا گزرے۔ اور تمام مصر والے آپ کے فیوض و برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریاے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا۔ یہاں تک کہ چار سو برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ بوقت وفات آپ کی عمر شریف ایک سو بیس برس کی تھی۔ اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے ۱۳۷ برس کی عمر پائی۔ اور آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر شریف ۱۸۰ سال کی ہوئی اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر شریف ۱۷۵ سال کی ہوئی۔ (صاوی روح البیان جلالین، جمل ملخصاً)

### (۳۵) مکہ مکرمہ کیوں کر آباد ہوا؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسمعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس لیے انہیں رشک پیدا ہوا۔ اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسمعیل کو میرے پاس سے جدا کر کے

کہیں دور کر دیجئے۔ خداوند قدوس کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا۔ چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ اور اسمعیل کو اس سرزمین پر چھوڑ آئیں۔ جہاں بے آب و گیاه میدان اور خشک پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسمعیل کو ساتھ لے کر سفر فرمایا۔ اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی نہ کوئی چشمہ نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ نے فریاد کی کہ اے اللہ کے نبی! اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ نمخوار آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت ہاجرہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا خداوند قدوس کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ہاجرہ! میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اب آپ جائیے۔ مجھے یقین کامل اور پورا پورا اطمینان ہے کہ خداوند کریم مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا!

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت ہاجرہ پر بھوک پیاس کا غلبہ ہوا۔ اور ان کے سینے کا دودھ خشک ہو گیا۔ اور بچہ بھوک پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش و جستجو میں سات چکر صفا اور مردہ کی دونوں پہاڑیوں کا لگایا۔ مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا۔ یہاں تک کہ حضرت اسمعیل پاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا۔ اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیل زندہ رہے۔ یہاں تک کہ حضرت اسمعیل جوان ہو گئے۔ اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگی۔ پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں

آباد ہو گئے۔ اور اس قبیلہ کی ایک لڑکی سے حضرت اسمعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی۔ اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدوس کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسمعیل کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی۔ وہ قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں مذکور ہے چنانچہ سورہ ابراہیم میں آپ کی دعا کا کچھ حصہ اس طرح مذکور ہے کہ۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ  
غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ  
الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
فَاجْعَلْ أَفْتِدَاءَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي  
إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ  
لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝

اے میرے رب! میں نے اپنی کچھ اولاد کو  
ایک ایسے میدان میں بسایا ہے جس میں کھیتی  
نہیں ہوتی۔ تیرے حرمت والے گھر کے  
پاس۔ تاکہ وہ نماز قائم رکھیں۔ لہذا لوگوں  
کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں  
کچھ پھل کھانے کو دے شاید وہ تیرا شکر ادا

کریں۔

(ابراہیم رکوع ۶ پارہ ۱۳)

یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کی ابتدائی تاریخ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہوئی ہے۔

### دعاء ابراہیم کا اثر

اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دو چیزیں طلب کیں  
ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں اور دوسرے ان  
لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ سبحان اللہ آپ کی یہ دعائیں مقبول ہوئیں۔ چنانچہ  
اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج کروڑ ہا کروڑ انسان مکہ مکرمہ کی  
زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی  
اور سمندر اور ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے رہے۔ اور قیامت تک جاتے رہیں گے۔  
اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یکہ شہر مکہ اور اس کے قرب  
و جوار میں کہیں نہ کوئی کھیت ہے نہ کوئی باغ باغیچہ ہے۔ مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں  
میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ فرط تعجب سے دیکھنے والوں کی



آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ”طائف“ کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرمادی ہے۔ کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ میں آتی رہتی ہیں اور اس کے علاوہ مصر و عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے بھی میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم کی دعاؤں کی برکتوں کے اثرات و ثمرات ہیں جو بلاشبہ دنیا کے عجائبات میں سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی جس میں آپ نے اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لیے بھی دعا مانگی کہ۔

اے میرے پروردگار! مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا۔ اور میری کچھ اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب! ہماری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب! مجھے اور میرے ماں باپ اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا!

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝  
(ابراہیم رکوع ۶ پارہ ۱۳)

### درس ہدایت

اس واقعہ سے دو باتیں خاص طور پر معلوم ہوئیں!

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کے بہت ہی اطاعت گزار اور فرماں بردار تھے کہ وہ بچہ جس کو بڑی بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا۔ فطری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا کہ اے ابراہیم! تم اپنے پیارے فرزند اور اس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال کر وادی بطحا کی اس سنسان جگہ پر لے جا کر چھوڑ آؤ۔ جہاں سرچھپانے کو درخت کا پتہ اور پیاس بجھانے کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ نہ وہاں کوئی یار و مددگار ہے نہ کوئی مونس و غمخوار ہے۔ دوسرا کوئی انسان ہوتا تو شاید اس کے تصور ہی سے اس کے سینے میں دل دھڑکنے لگتا۔ بلکہ شدت غم سے دل پھٹ جاتا۔ مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام خدا کا یہ حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے۔ نہ ایک لمحہ کے لیے سوچ بچار میں پڑے نہ رنج و غم سے نڈھال ہوئے بلکہ فوراً ہی خدا کا حکم بجالانے کے لیے بیوی اور بچے کو

لے کر ملک شام سے سرزمین مکہ میں چلے گئے اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر ملک شام چلے آئے۔ اللہ اکبر۔ اس جذبہ اطاعت شعاری اور جوش فرماں برداری پر ہماری جانیں قربان! (2) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسمعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں ان کی مقبولیت اور رزق کے لیے جو دعائیں مانگی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرنا اور اس کے لیے دعائیں مانگنا یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا مبارک طریقہ ہے جس پر ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنا ہماری صلاح و فلاح دارین کا ذریعہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۳۶) ابولہب کی بیوی کو رسول نظر نہ آئے!

جب سورہ "تبت ید" نازل ہوئی۔ اور ابولہب اور اس کی بیوی "ام جمیل" کی اس سورہ میں مذمت اتری۔ تو ابولہب کی بیوی ام جمیل غصہ میں آپے سے باہر ہو گئی۔ اور ایک بہت بڑا پتھر لے کر وہ حرم کعبہ میں گئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ اور قریب ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ "ام جمیل" بڑ بڑاتی ہوئی آئی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور مارے غصہ کے منہ میں جھاگ بھرتے ہوئے کہنے لگی۔ کہ بتاؤ! تمہارے رسول کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری اور میرے شوہر کی ہجو کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے رسول شاعر نہیں ہیں کہ کسی کی ہجو کریں۔ پھر وہ غیظ و غضب میں بھری ہوئی پورے حرم کعبہ میں چکر لگاتی پھری اور بکتی جھکتی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ڈھونڈتی پھری۔ مگر جب وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ تو بڑ بڑاتی ہوئی حرم سے باہر جانے لگی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے رسول کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لے کر آئی تھی۔ مگر افسوس کہ وہ مجھے نہیں ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے وہ کئی بار گزری مگر میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ اس طرح حائل ہو گیا کہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ اس واقعہ کے متعلق یہ آیت

نازل ہوئی۔ (تفسیر خزائن العرفان ۴۱۵)

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ  
وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
حِجَابًا مَسْتُورًا ۝

اور اے محبوب! جب آپ نے قرآن پڑھا  
تو ہم نے آپ اور ان میں جو آخرت پر  
ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیا!

### درس ہدایت

ام جمیل انھیاری ہوتے ہوئے۔ اور آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود حضور علیہ  
الصلوة والسلام کے پاس ہی سے تلاش کرتی ہوئی بار بار گزری۔ مگر وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی  
بلاشبہ یہ ایک عجیب بات ہے اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزہ کے سوا کچھ  
بھی نہیں کہا جاسکتا۔ اس قسم کے معجزات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بارہا صادر  
ہوئے ہیں۔ اور بہت سے اولیاء اللہ سے بھی ایسی کرامتیں بارہا صادر ہوئی ہیں۔ اور اولیاء  
کی یہ کرامتیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات ہی ہیں۔ کیونکہ ہر ولی کی  
کرامت درحقیقت اس کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ.

### (۳۷) اصحاب کہف (غار والے)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھالیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بحد  
خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ یہ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور  
کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ ”دقیانوس“ تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی  
سے انکار کرتا تھا۔ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔

### اصحاب کہف کون تھے؟

اصحاب کہف شہر ”فسوس“ کے شرفاء تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے۔ مگر یہ  
لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ ”دقیانوس“ کے ظلم و جبر سے  
پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے  
پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے۔ اور سو گئے تو تین سو برس سے زیادہ عرصے تک

اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بیحد ناراض ہوا۔ اور فرط غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد پر رکھ دیا۔ اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کرادی کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا۔ اور سلطنتیں بدلتی رہیں۔ یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام ”بیدروس“ تھا تخت نشین ہوا اڑسٹھ سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا۔ اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ و زاری کر کے دعائیں مانگنے لگا۔ کہ یا اللہ! کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا۔ اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرز بر اندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے۔ اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی ”یملیخا“ سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ۔ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ ”دقیانوس“ ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے؟ ”یملیخا“ غار سے نکل کر بازار گئے۔ اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے۔ اور لوگ علانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ”یملیخا“ یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ الہی! یہ ماجرا کیا ہے؟ کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا۔ آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک نانباتی کی دکان پر کھانا لینے گئے۔ اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا

تھا۔ بلکہ کوئی اس سکہ کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی۔ اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ ”یملیخا“ نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہی ہے۔ یہ سکہ تین سو برس پرانا ہے۔ اور برسوں گزر گئے کہ اس سکہ کا چلن بند ہو گیا۔ اور تم ابھی جوان ہو۔ لہذا صاف صاف بتاؤ کہ یہ عقدہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر ”یملیخا“ نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں سینکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی کے ایک غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چلو میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے۔ اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا۔ اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا۔ اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے۔ اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ ”بیدروس“ کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا۔ تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معاف کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا مقبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت

کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے۔ اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے۔ اور سو گئے۔ اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوایا اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جاسکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوادی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ (تفسیر خازن ملخصاً سورہ کف)

### اصحاب کہف کی تعداد

اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ قُلْ رَبِّيَ اعْلَمُ بَعْدَتِهِمْ وَمَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيلٌ یعنی اے محبوب! فرما دیجئے۔ کہ اللہ اصحاب کہف کی گنتی کو زیادہ جانتا ہے۔ اور تم میں سے بہت ہی کم لوگ ان کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد سات ہے اور آٹھواں ان کا کتا ہے۔ (تفسیر صادی ج ۳ ص ۳)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:

کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے کے غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کا سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی

اَمْ حَسِبْتَ اَنْ اَصْحَابَ الْكَهْفِ  
وَالرَّقِیْمِ كَانُوْا مِنْ اٰیٰتِنَا عَجَبًا  
اِذْ اَوٰی الْفِتِیۡةُ اِلٰی الْكَهْفِ فَقَالُوْا  
رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً  
وَحِیۡءٌ لَّنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا  
فَضْرَبْنَا عَلٰی اٰذَانِهِمْ فِی الْكَهْفِ  
سِنِّیۡنَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اٰیٰی

الْحَزْبَيْنِ أَحْصَى بِمَا لَبِثُوا أَمْدًا  
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ  
بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فَتِيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ  
وَزِدْنَهُمْ هُدًى ۝

(کہف رکوع اپارہ ۱۵)

برس تھپکا (سلا دیا) پھر ہم نے انہیں جگایا کہ  
دیکھیں دو گروہوں میں سے کون ان کے  
ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم  
ان کا ٹھیک ٹھیک حال سناتے ہیں۔ وہ چند  
جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے۔ اور  
ہم نے انہیں زیادہ ہدایت عطا فرمائی۔

اس کے آگے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا پورا حال بیان فرمایا  
ہے جس کو ہم پہلے ہی تحریر کر چکے ہیں۔

اصحاب کہف کے نام

ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے  
روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں۔ مکسلمینا، تملیخا، مرطونس، نینوس، ساریونس، ذونواس،  
فلستپیونس، اور ساتواں چرواہا تھا۔ جوان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ  
عنہ نے اس کا نام ذکر نہیں فرمایا۔ اور ان لوگوں کے کتے کا نام ”قطمیر“ تھا۔ اور ان لوگوں کے  
شہر کا نام ”فسوس“ تھا اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ (مدارک، التنزیل ج ۳ ص ۸)  
اور تفسیر صاوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں۔ مکسلمینا، تملیخا،  
مرطونس، نینوس، ساریونس، ذونواس، فلستپیونس، یہ آخری چرواہے تھے جو راتے میں ساتھ ہو  
لیے تھے۔ اور ان لوگوں کے کتے کا نام ”قطمیر“ تھا۔ (صاوی ج ۹۳)

اصحاب کہف کے ناموں کے خواص:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں  
کی تعویذ نو کاموں کے لیے فائدہ مند ہے۔ (۱) بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں  
سے بچ کر بھاگنے کے لیے (۲) آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال  
دیں (۳) بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے (۴) درد سر کے لیے  
دائیں بازو پر باندھیں (۵) ام الصیان کے لیے گلے میں پہنائیں (۶) خشکی اور سمندر میں  
سفر محفوظ ہونے کے لیے (۷) مال کی حفاظت کے لیے (۸) عقل بڑھانے کے لیے

(۹) گنہگاروں کی نجات کے لیے (صاوی ج ۳ ص ۹)

اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے؟

جب قرآن کی آیت وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَزَادُوا تِسْعًا (یعنی وہ لوگ غار میں تین سو برس تک رہے اور نو برس اور زیادہ رہے) نازل ہوئی۔ تو کفار کہنے لگے کہ ہم تین سو برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت غار میں رہے۔ مگر ہم نو برس کو نہیں جانتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے۔ اور شمسی سال کے ہر سو برس میں تین سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ (صاوی ج ۳ ص ۱۰)

درس ہدایت:

(۱) مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے۔ جو قرآن مجید میں موجود ہے!

(۲) جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان فرمادیتا ہے۔ کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا!

(۳) اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش تاثیرات ہوتی ہیں!

(۴) بیدروس ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کی زیارت کے لیے سالانہ ایک دن مقرر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے عرس کا دستور بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔

(۵) بزرگوں کے مزاروں کے پاس مسجد تعمیر کرنا اور وہاں عبادت کرنا بھی بہت پرانا مبارک طریقہ ہے۔ کیونکہ بیدروس بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کے پاس ایک مسجد بنا دی تھی۔ جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں ہے (واللہ تعالیٰ اعلم)

## (۳۸) سفر مجمع البحرین کی جھلکیاں

ایک روایت ہے کہ جب فرعون مع اپنے لشکر کے دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا۔ تو ایک دن موسیٰ



علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے اس طرح مکالمہ شروع ہوا!  
حضرت موسیٰ علیہ السلام: خداوند! تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھ کو محبوب کون  
سا بندہ ہے؟

اللہ تعالیٰ: جو میرا ذکر کرتا ہے۔ اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے!  
حضرت موسیٰ علیہ السلام: سب سے بہتر کرنے والا کون ہے؟  
اللہ تعالیٰ: جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرے!  
حضرت موسیٰ علیہ السلام: تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟  
اللہ تعالیٰ: جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے تاکہ اس طرح اسے  
کوئی ایک ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف راہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے  
بچالے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام: اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے  
اس کا پتہ بتا دے؟

اللہ تعالیٰ: ”خضر“ تم سے زیادہ علم والے ہیں۔  
حضرت موسیٰ علیہ السلام: میں انہیں کہاں تلاش کروں؟  
اللہ تعالیٰ: ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔  
حضرت موسیٰ علیہ السلام: میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں؟  
اللہ تعالیٰ: تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو۔ جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس  
وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی (مدارک التنزیل نسفی ج ۳ ص ۱۸)

اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون  
بن افرائیم بن یوسف علیہم السلام کو اپنا رفیق سفر بنا کر ”مجمع البحرین“ کا سفر فرمایا۔ حضرت  
موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے۔ تو اس جگہ سو گئے۔ اسی جگہ مچھلی ٹوکری  
میں تڑپ کر سمندر میں کود گئی۔ اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بن گیا۔  
حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر پھر چلنے لگے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت  
ہوا تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے مچھلی طلب فرمائی۔ تو انہوں

نے عرض کیا کہ چنان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے مچھلی کو دکر سمندر میں چلی گئی۔ اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اس جگہ کی تلاش تھی۔ بہر حال پھر آپ اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے۔ جہاں حضرت خضر سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی۔

وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ تو انہوں نے تعجب سے فرمایا کہ اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ”موسیٰ“ ہوں۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ! مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ میں علم ”اسرار“ جانتا ہوں۔ جس کا آپ کو علم نہیں۔ اور آپ علم ”الواح“ جانتے ہیں۔ جن کو میں نہیں جانتا!

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر! کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علوم دیئے ہیں آپ کچھ مجھے بھی تعلیم دیں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاء اللہ تعالیٰ صبر کروں گا۔ اور ہرگز ہرگز کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں۔ یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ غرض اس عہد و معاہدہ کے بعد حضرت خضر نے حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون علیہما السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک کشتی نظر پڑی۔ اور کشتی والوں نے تینوں صاحبان کو کشتی میں سوار کر لیا۔ اور کشتی کا کرایہ بھی نہیں مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر نے اپنے جھولے میں سے کلہاڑی نکالی۔ اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر سے یہ سوال کر بیٹھے کہ!

أَخْرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتُ  
شَيْئًا أَمْرًا (کہف رکوع ۱۰)

کیا آپ نے کشتی پھاڑ دی؟ جس کا نتیجہ یہ  
ہوگا کہ کشتی والے غرق ہو جائیں گے۔ یہ  
آپ نے بہت برا کام کیا۔

حضرت خضر نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا؟ کہ آپ ہرگز ہرگز  
میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ  
میں نے بھول کر سوال کر دیا۔ لہذا آپ میری بھول پر میری گرفت نہ کیجئے۔ اور میرے کام  
میں مشکل نہ ڈالئے۔

پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کوچلے۔ تو خضر نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں  
باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر نے گلا دبا کر اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا یہ  
ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے ذرا  
سخت لہجے میں حضرت خضر سے کہہ دیا کہ!

أَقْتَلْتَ نَفْسًا ذَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ  
لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا نُّكْرًا (کہف  
ع ۱۰)

کیا آپ نے ایک ستھری جان بغیر کسی جان  
کے بدلے قتل کر دی بلاشبہ آپ نے بہت  
ہی برا کام کر ڈالا ہے۔

حضرت خضر نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ  
ہرگز ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا۔ اب  
اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہے گا۔ اس میں شک  
نہیں کہ میری طرف سے آپ کا کوئی عذر پورا ہو چکا ہے!

پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ یہ لوگ  
ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا۔ مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے  
بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی۔ تو  
حضرت خضر نے اسم اعظم پڑھ کر اس دیوار کو سیدھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں  
والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے ہی آپ کو غصہ آ گیا برداشت نہ کر سکے اور یہ فرما دیا کہ:

لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا  
اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے  
لیتے۔

(کہف ع ۱۱)

یہ سن کر حضرت خضر نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنئے جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے۔ اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے قصداً ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہے اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا۔ اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے۔ اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے تو ہمیں یہ خوف و خطرہ نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں نہ مبتلا کر دے۔ اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا۔ جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا۔ جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی۔ جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے۔ اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جو ان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے اور اے موسیٰ! آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کیا ہے۔ بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس لوٹ آئے۔ (جلالین، صاوی، مدارک وغیرہ ملخصاً)

### حضرت خضر کا تعارف

حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام ”بلیا“ اور ان کے والد کا نام ”ملکان“ ہے ”بلیا“ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں اس کا ترجمہ ”احمد“ ہے ”خضر“ ان کا

لقب ہے اور اس لفظ کو تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضر، خضر، خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی۔ اس لیے لوگ ان کو ”خضر“ کہنے لگے!

یہ بہت ہی عالی خاندان ہیں۔ اور ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا (صاوی ج ۳ ص ۱۷)

### حضرت خضر زندہ ولی ہیں

بعض لوگوں نے حضرت خضر کو نبی بتایا ہے لیکن اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ آپ ولی ہیں (جلالین) اور جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے کیونکہ آپ نے آب حیات پی لیا ہے۔ آپ کے گرد بکثرت اولیاء کرام جمع رہتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ چنانچہ عارف باللہ حضرت سید بکری نے اپنے قصیدہ ”رد السحر“ میں آپ کے بارے میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ۔

حَىٰ وَحَقِّكَ لَمْ يَقُلْ بِوَفَاتِهِ إِلَّا الَّذِي لَمْ يَلْقَ نُوْرَ جَمَالِهِ

فَعَلِيْهِ مَنِيْ كُلَّمَا هَبَّ الصَّبَا اذْكَى سَلَامٍ طَابَ فِيْ اِرْسَالِهِ

تیرے حق کی قسم! کہ حضرت خضر زندہ ہیں اور ان کی وفات کا قائل وہی ہوگا۔ جو ان کے نور جمال سے ملاقات نہیں کر سکا ہے۔ تو میری طرف سے ان پر جب باد صبا چلے ستر اسلام ہو۔ کہ پاگیزی کے ساتھ باد صبا اس کو پہنچائے۔

حضرت خضر حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ (تفسیر صاوی ج ۳ ص ۱۸)

### (۳۹) ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج

ذوالقرنین کا نام ”سکندر“ ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگوں میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت

ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں۔ بلکہ ایک بندہ صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ (صاوی ج ۳ ص ۲۱)

### ذوالقرنین کیوں کہلائے؟

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین (دو سینگوں والے) کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو قرن ختم ہو گئے سو برس کا ایک قرن ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے دو گیسوتھے اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے تھے۔ اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھارتھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا۔ اور بعضوں نے یہ وجہ بتائی کہ چونکہ ان کے باپ اور ماں نجیب الطرفین اور شریف زادہ تھے اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے واللہ تعالیٰ اعلم (مدارک ج ۳ ص ۲۳)

اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی دنیا میں کل چار بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جس کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں دو مومن تھے اور دو کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں۔ اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے اور تمام روئے زمین کے ایک پانچویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسمگرامی حضرت "امام مہدی" ہے (صاوی ج ۳ ص ۲۳)

### ذوالقرنین کے تین سفر:

قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے تین سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید ہی سے ان تینوں سفروں کا حال تحریر کرتے ہیں۔ جن کی روداد بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔

### پہلا سفر

حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی

اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ میں سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے۔ اور اس کا پانی پی بھی لیا۔ مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا۔ وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ”ناسک“ کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کا لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقت ور اور جنگجو ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف بہ ایمان ہو گئے۔ اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھ سے مقتول ہو گئے!

### دوسرا سفر

پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے۔ اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ قوم ”نسک“ کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلہ میں بھی لشکر آرائی کی۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تہہ تیغ کر دیا!

### تیسرا سفر

پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا یہاں تک کہ ”سیدین“ (دو پہاڑوں کے درمیان) میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ

اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جاسکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یا جوج و ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔

### یا جوج و ماجوج

یہ یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو و خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں۔ جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔

### سد سکندری

حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یا جوج و ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے۔ اور ان لوگوں نے اسکے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ بس تم لوگ جسمانی محنت میں میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کونکہ بھروا دیا۔ اور اس میں آگ جلوادی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی۔ اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی پھر پگھلایا ہوتا تانبہ دیوار میں پلا دیا گیا۔ جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی!

(صاوی ج ۳ ص ۲۲ مدارک و خزائن العرفان)

قرآن مجید کی سورہ کہف میں ”حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا . پھلے سفر کا ذکر ہے پھر ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا سے خُبْرًا تک دوسرے سفر کا تذکرہ ہے اور ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا سے وَعَدُّ رَبِّي حَقًّا تک تیسرے سفر کی روداد ہے۔



## سد سکندری کب ٹوٹے گی؟

حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہنے والا کہے گا کہ اب چلو۔ انشاء اللہ تعالیٰ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاء اللہ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے۔ اور زمین پر ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے۔ اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے۔ زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے۔ مگر مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ و بیت المقدس ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ۔

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ  
وَمَا جُوجُ وَهُمْ مِّنْ كَلِّ حَدَبٍ  
يَنْسِلُونَ (الانبیاء ع ۷)

یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج  
و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے  
دوڑتے ہوں گے۔

## (۴۰) شجر مریم اور نہر جبریل

حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم آبادی سے کچھ دور ایک کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے تنہائی میں بیٹھ گئیں۔ اور اسی درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چونکہ آپ بغیر باپ کے کنواری مریم کے شکم سے پیدا ہوئے۔ اس لیے حضرت مریم بڑی فکر مند اور بیحد اداس تھیں اور بدگوئی و طعنہ زنی کے خوف سے بستی میں نہیں آ رہی تھیں۔ اور ایک ایسی سنان زمین میں کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں

کہ جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ ناگہاں حضرت جبریل علیہ السلام اتر پڑے اور اپنی ایڑی زمین پر مار کر ایک نہر جاری کر دی اور اچانک کھجور کا سوکھا درخت ہرا بھرا ہو کر پختہ پھل لایا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو پکار کر ان سے یوں کلام فرمایا کہ۔

تو جبریل نے مریم کو اس کے تلمے سے

پکارا کہ غم نہ کھا بیشک تیرے رب نے

تیرے نیچے ایک نہر بہادی ہے۔ اور کھجور

کاتنا پکڑ کر اپنی طرف ہلا۔ تو تجھ پر تازی

پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ تو تم کھاؤ

اور پیو اور آنکھ ٹھنڈی رکھو۔

فَنَادَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ

رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا ۝ وَهَدَىٰ

إِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ

عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ۝ فَكُلِي وَاشْرَبِي

وَقَرِّي عَيْنًا (مریم ۲۷ پارہ ۱۶)

سوکھے درخت میں پھل لگ جانا اور نہر کا اچانک جاری ہونا۔ بلاشبہ یہ دونوں حضرت

مریم کی کرامات ہیں۔

### درس ہدایت

اس سے پہلے کے صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت بی بی مریم جب بچی تھیں اور بیت المقدس کی محراب میں عبادت کرتی تھیں تو بغیر کسی محنت کے وہاں بلا موسم کے پھل ملا کرتے تھے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پکی ہوئی کھجوریں تو حضرت مریم کو ضرور ملیں۔ لیکن خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کھجور کی جڑیں ہلاؤ تب تم کو کھجوریں ملیں گی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی جب تک صاحب اولاد نہیں ہوتا تو اس کو بلا محنت کے بھی روزی مل جایا کرتی ہے۔ اور وہ کہیں نہ کہیں کھاپی لیا کرتا ہے۔ مگر جب آدمی صاحب اولاد ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ محنت کر کے روزی حاصل کرے۔ دیکھو حضرت مریم جب تک صاحب اولاد نہیں ہوئی تھیں۔ تو بلا کسی محنت و مشقت کے ان کی محراب عبادت میں پھلوں کی روزی ملا کرتی تھی۔ مگر جب ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اب خدا کا حکم ہوا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ اور محنت کرو اس کے بعد کھجوریں ملیں گی۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

## (۴۱) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی تقریر

جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر بنی اسرائیل کی بستی میں تشریف لائیں۔ تو قوم نے آپ پر بدکاری کی تہمت لگائی۔ اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے مریم! تم نے یہ بہت برا کام کیا۔ حالانکہ تمہارے والد میں کوئی خرابی نہیں تھیں۔ اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھیں۔ بغیر شوہر کے تمہارے لڑکا کیسے ہو گیا؟ جب قوم نے بہت زیادہ طعنہ زنی اور بدگوئی کی تو حضرت مریم خود تو خاموش رہیں۔ مگر اشارہ کیا کہ اس بچے سے تم لوگ سب کچھ پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیا؟ اور کیونکر؟ اور کس طرح گفتگو کریں؟ یہ تو ابھی بچہ ہے جو پالنے میں پڑا ہوا ہے۔ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی۔ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے کہ۔

حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی اور برکت والا بنایا میں جہاں بھی رہوں۔ اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک میں زندہ رہوں اور مجھے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا۔ اور رہے سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں۔ اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں۔

قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اٰتٰنِي الْكِتٰبَ  
وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا  
اَيْنَمَا كُنْتُ ۝ وَاَوْصٰنِي بِالصَّلٰوةِ  
وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ وَبَرًّا  
بِوَالِدَتِي ۝ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا  
شَقِيًّا ۝ وَالسَّلَامُ عَلٰى يَوْمٍ وُلِدْتُ  
وَيَوْمٍ اَمُوْتُ وَيَوْمٍ اُبْعَثُ حَيًّا  
(مریم رکوع ۲ پارہ ۱۶)

### درس ہدایت

یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پیدا ہوتے ہیں فصیح زبان میں ایسی جامع تقریر فرمائی۔ اس تقریر میں سب سے پہلے آپ نے اپنے کو خدا کا بندہ کہا۔ تاکہ کوئی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ سکے۔ کیونکہ لوگ آئندہ آپ پر تہمت لگانے والے تھے۔ اور یہ تہمت اللہ تعالیٰ پر لگتی تھی۔ اس لیے آپ کے منصب رسالت کا یہی تقاضا تھا کہ اپنی والدہ پر لگائی

جانے والی تہمت کو رفع کرنے سے پہلے اس تہمت کو دفع کریں جو اللہ تعالیٰ پر لگائی جانے والی تھی۔ اللہ اکبر! سچ ہے کہ خداوند قدوس جس کو نبوت کے شرف سے نوازتا ہے۔ یقیناً اس کی ولادت نہایت ہی پاک اور طیب و طاہر ہوئی ہے اور بچپن ہی سے اس کو نبوت کے اعلیٰ آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

(2) سورہ مریم کے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا ذکر میلاد شریف بیان فرمایا ہے اور آخر میں سلام کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد پڑھ کر آ کر میں صلوة و سلام پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی مقدس سنت ہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا مبارک عمل ہے۔

(3) حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذکور بالا تقریر سے معلوم ہوا کہ نماز زکوٰۃ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ایسے فرائض ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی فرض تھے۔

## (۴۲) حضرت ادریس علیہ السلام

آپ کا نام "اخنوخ" ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیث بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلعے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے علم نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر تیس صحیفے نازل فرمائے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کا لقب "ادریس" ہو گیا۔ اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام "ادریس" ہی ذکر کیا گیا ہے۔

آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھالیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے

فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔  
 ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور  
 آپ زندہ ہو گئے پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ۔ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔  
 چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ میں اس  
 دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ  
 نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ  
 دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ  
 اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں  
 جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ تو موت کا مزہ میں چکھ ہی  
 چکا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا  
 ہے تو میں گزر چکا۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند  
 قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت  
 سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے  
 ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا۔ اور  
 وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے۔ لہذا تم انہیں چھوڑ دو وہ جنت ہی میں رہیں  
 گے چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔  
 (خزائن العزمان ص ۴۴۷)

حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا  
 مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے کہ۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ  
 كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۖ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا  
 عَلِيًّا ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ  
 عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ  
 (مریم رکوع ۴۷)

اور کتاب میں حضرت ادریس کو یاد کرو۔  
 بیشک وہ صدیق تھے جو غیب کی خبریں دیتے  
 تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام (آسمان) پر  
 اٹھالیا۔ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا  
 ہے اولاد آدم کے نبیوں میں سے۔

## درس ہدایت

حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعہ سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا بڑا فضل و کرم اور انعام و اکرام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم العمل ہے۔ کہ خداوند قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و احترام رکھے اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار خدا کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ موجب رحمت و باعث خیر و برکت! واللہ تعالیٰ اعلم

## (۴۳) دریا کی موجوں سے ماں کی گود میں

فرعون کو نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی بربادی کا سبب ہوگا۔ اس لیے فرعون نے اپنی فوجوں کو یہ حکم دے دیا تھا۔ کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی مصیبت و آفت کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی ”آسیہ“ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لائیں۔ جس صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرہ پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیاں چمک رہی تھیں۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے۔ اور آسیہ نے فرعون سے کہا کہ۔

یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے اسکو  
قتل مت کرو۔ شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم  
اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ (انجام) سے بے  
خبر تھے۔

قَرَّةَ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ  
عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا  
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (القصص ع ۱)

اس پورے واقعہ کو قرآن مجید نے سورہ طہ میں اس طرح بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ

یہ ہے:

”اور جب ہم نے (اے موسیٰ) تیری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو الہام کرنا  
تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے کہ  
وہ اس کو اٹھالے جو میرا اور اس کا دشمن ہے اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی  
اور اس لئے کہ تو میری نگاہ کے سامنے پالا جائے۔“ (سورہ طہ رکوع ۲ پارہ ۱۶)

چونکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے تھے۔ اس لئے ان کو دودھ پلانے والی  
کسی عورت کی تلاش ہوئی مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ  
علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ”مریم“  
کو جستجوئے حال کے لئے فرعون کے محل میں بھیجا اور مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی  
عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں شاید کہ  
یہ اس کا دودھ پینے لگیں چنانچہ ”مریم“ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں  
لے کر گئیں اور انہوں نے جیسے ہی جوش محبت میں سینے سے چمٹا کر دودھ پلایا تو آپ دودھ  
پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ اس  
واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ قصص میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ:

اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا۔  
یقیناً قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی  
اگر ہم اس کے دل پر ڈھارس نہ بندھا  
دیتے۔ یہ اس لئے ہم نے کیا کہ اسے  
ہمارے وعدہ پر یقین رہے اور موسیٰ کی ماں

وَاصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِحًا ۖ إِنَّ  
كَادَتْ لِتُبَدِيَ بِهِ لَوْلَا أَنَّ رَبَّنَا  
عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝  
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ  
عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ  
فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ  
يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ۝  
فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا  
وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ  
حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝  
(القصص پارہ ۲۰ رکوع ۱۴)

نے ان کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے تو  
چلی جا تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان  
لوگوں کو اس کی خبر نہ تھی اور ہم نے سب  
دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں تو حضرت موسیٰ  
کی بہن بولی کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والے  
کو بتا دوں کہ تمہارے لئے اس بچے کو پال  
دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ تو ہم نے

اسے ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو اور وہ جان لے  
کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے!

### حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ”یوحانذ“ اور باپ کا نام ”عمران“ ہے اور  
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام ”مریم“ ہے مگر یاد رکھو کہ یہ وہ مریم نہیں ہیں جو حضرت  
عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ”مریم“ حضرت موسیٰ علیہ  
السلام کی بہن سے سینکڑوں برس بعد ہوئی ہیں۔ (صاوی ج ۳ ص ۲۵ و ص ۲۶)

### درس ہدایت

اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو دشمن سے وہ کام  
کرا لیتا ہے جو دوست بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھ لیجئے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب  
سے بڑا دشمن تھا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون ہی کے گھر میں ہوئی۔  
(۲) یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو کوئی بھی اس کو نہ ضائع  
کر سکتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے۔ غور کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح بہ حفاظت  
صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)



## (۴۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملہ میں پہلے تو اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ بلکہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگے گا۔ وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف؟ اور کیسی بہار ہے؟

اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر لہو و لعب میں مشغول رہ کر شام کو بت خانہ میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے مٹھائیوں اور کھانوں کو پرشاد کے طور پر رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلہ کی طرف چلے لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس لوٹ آئے اور قوم کے لوگ میلہ میں چلے گئے پھر جو میلہ میں نہیں گئے آپ نے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ:

تَا اللّٰهِ لَا كَيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ  
تَوَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ (الانبياء ع ۵)  
مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں ضرور ضرور تمہارے  
بتوں کے ساتھ برا سلوک کروں گا تمہارے  
چلے جانے کے بعد

چنانچہ اس کے بعد آپ کلہاڑی لے کر بت خانہ میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں اور دروازہ کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے۔ ان چھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبہ سے آپ جلال میں آگئے اور کلہاڑی سے مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آپ بت خانہ سے باہر چلے آئے۔ قوم کے لوگ جب میلہ سے واپس لوٹ کر بت پوجنے اور پرشاد کھانے کے لئے بت خانہ میں گھسے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ایک دم سب بوکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے کہ:

مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْهَيْتَا اِنَّهُ لَمِنَ  
الظّٰلِمِيْنَ (الانبياء رکوع)  
ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ سلوک  
کیا ہے؟ بیشک وہ ظالم ہے۔

(۵) تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو جس کا نام ”ابراہیم“ ہے اس کی زبان سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ۔ شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم! کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا کیونکہ کلہاڑی اس کے کاندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں ہی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو ان ہی سے پوچھ لو وہ خود بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا ہے؟ قوم نے سر جھکا کر کہا اے ابراہیم! ہم ان خداؤں سے کیا؟ اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا کہ:

تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو  
نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے تف  
ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا تم  
لوگ پوجتے ہو کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں  
سمجھتے؟

اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا  
يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ؕ اَفِ  
لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ  
اَفَلَا تَعْقِلُونَ ؕ

(الانبیاء رکوع ۵ پارہ ۱۷)

آپ کی اس حق گوئی کا نعرہ حق سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ شور مچایا اور چلا  
چلا کر بت پرستوں کو بلایا کہ:

اے لوگو! حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دو  
اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اگر تمہیں کچھ  
کرنا ہے تو کرو۔

حَرْقُوْهُ وَاَنْصِرُوْا اِلَيْهِمْ اِنْ  
كُنْتُمْ فَعٰلِيْنَ (الانبیاء رکوع ۵)

چنانچہ ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا الاؤ جلا یا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو  
رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جاسکتا تھا پھر آپ کو ننگے بدن کر کے  
ان ظلم و ستم کے مجسموں نے ایک گوبچن کے ذریعے اس آگ کے میں پھینک دیا اور اپنے اس  
خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے مگر حکم الحاکمین کا  
فرمان اس آگ کے لئے یہ صادر ہو گیا کہ:

يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَّ سَلَامًا عَلَيَّ  
 اِبْرَاهِيمُ ۝  
 ہم نے فرما دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور  
 سلامتی بن جا ابراہیم پر۔

چنانچہ نتیجہ یہ ہوا۔ جس کو قرآن نے اپنے قاہرانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ:

وَارَا دُؤَا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ  
 الْاٰخْسِرِيْنَ (الانبیاء ع ۵ پارہ ۱۷)  
 اور انہوں نے (حضرت ابراہیم) کا برا چاہا تو  
 ہم نے انہیں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے  
 والا بنا کام بنا دیا۔

آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر نکل آئے اور ظالم  
 لوگ کف افسوس مل کر رہ گئے۔

### حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل

روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو  
 آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض  
 کرنے لگیں کہ خداوند! تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں  
 کوئی اور انسان تیری توحید کا علمبردار اور تیرا پرستار نہیں۔ لہذا تو اجازت دے کہ ہم ان کی  
 امداد و نصرت کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں تو  
 اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سبھوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ  
 سب ان کی مدد کرو اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ  
 میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں۔ لہذا تم سب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس  
 کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس  
 آگ کو بجھا دوں پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست  
 آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں  
 کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے وہی جب  
 چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ (صاوی ج ۳ ص ۶۸)

کون سی دعا پڑھ کر آپ آگ میں گئے

ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ

نے اس وقت یہ دعا پڑھی ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ“ اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ! کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے لہذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف سولہ یا بیس برس کی تھی۔

آپ کتنی دیر تک آگ میں رہے؟

اس بارے میں کہ آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے تین اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ سات دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ چالیس دن رہے اور بعض کہتے ہیں کہ پچاس دن تک آپ آگ میں رہ گئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم (صاوی ص ۳۸ و جلالین وغیرہ)

درس ہدایت

اس واقعہ سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو باطل کی طاغوتی طاقتوں کے بالمقابل استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتے ہیں کہ:

آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا  
آگ کر سکتی ہے انداز کلتاں پیدا

**(۴۵) حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان!**

حضرت ایوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ حسن صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی بے شمار مویشی اور کھیت و باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزند ان اس کے نیچے دب کر مر گئے اور تمام جانور جس میں

سینکڑوں اونٹ اور ہزار ہا بکریاں تھیں سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجالاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا۔ جب اس نے چاہا لے لیا۔ میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام ”رحمت بنت افرائیم“ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں آپ کی خدمت کرتی تھیں۔ سالہا سال تک آپ کا یہی حال رہا آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے۔

فائدہ:- عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑھ کی بیماری ہو گئی تھی۔ چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑھ کے بارے میں بہت سے غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں سرتاپا بالکل غلط ہیں اور ہرگز ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑھ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس لئے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ کرتے رہیں تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا؟ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑھ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے پھر آپ نے بحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی۔

اے رب! مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو تمام  
 اِنِّیْ مَسْنِیَ الضَّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ  
 مہربانوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔  
 الرَّحِیْمِیْنَ (الانبیاء ع ۵ ص ۱۷)

جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب! اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل

کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں، پھر آپ چالیس قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرمادیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کے کثیر اولاد ہوئی پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال و مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔

اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئیں اس پر غصہ میں آ کر آپ نے ان کو ۱۰۰ سو درہ مارنے کی قسم کھالی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب! آپ ایک سینکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ:

ہم نے فرمایا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کا اور ہم اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور اپنی رحمت سے عطا فرمادیتے۔ عقلمندوں کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے اور ہم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو دے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ بیشک ہم نے اس

أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ  
بَارِدٌ وَ شَرَابٌ وَ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ  
وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَ ذِكْرًا  
لِّأُولَى الْأَلْبَابِ ۝ وَ خَذُ بِيَدِكَ  
صِغْتًا فَاصْرِبْ بِهِ وَ لَا تَحْنُتْ إِنَّا  
وَ جَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ  
أَوَّابٌ ۝ (ص رکوع ۴ پارہ ۲۳)

(ایوب) کو صابر پایا۔ وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے۔ بیشک وہ خدا کی طرف بہت رجوع لانے والا ہے۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرمادیا اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر ”اواب“ کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ دیا۔

## درس ہدایت

حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب و درجات میں اتنی اعلیٰ سر بلندی عطا فرمادیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا نیز اس واقعہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان و آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم کی رضا پر راضی رہنا اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے؟ واللہ تعالیٰ اعلم!

## (۴۶) حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی

حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا اور چالیس برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جن و انسان و شیاطین اور چرندوں پرندوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

اور حضرت سلیمان، حضرت داؤد کے جانشین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے بیشک یہ کھلا ہوا فضل خداوندی ہے۔

وَوَرِثَ سُلَيْمَنَ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَذَا لَهُوَ لَفَضْلُ الْمُبِينِ ۝ (النمل رکوع ۲ پارہ ۱۹)

اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا۔

اور سلیمان کے بس میں ہوا کردی اس کی صبح کی منزل ایک مہینہ کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینے کی راہ اور ہم نے اس کے لئے

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوها شَهْرًا وَرَوَّاحُها شَهْرًا ۚ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ

گھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لئے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگر دار دیگیں۔

يَدِيهِ بِأَذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ  
عَنْ أَمْرِنَا نَذْقُهُ مِنْ عَذَابِ  
السَّعِيرِ ۝ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ  
مَّحَارِبٍ وَتَمَاثِيلٍ وَجِفَانٍ  
كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ  
(سبارکوع ۲۴ پارہ ۲۲)

روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن وانس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں ”وادی نمل“ سے گزرے جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں تو چیونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی اس نے تمام چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ ورنہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چیونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیئے چنانچہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ:

یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام مع لشکر کے وادی نمل میں آئے تو ایک چیونٹی بولی کہ اے چیونٹیو! تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ کہ تمہیں حضرت سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالیں تو حضرت سلیمان اس بات سے مسکرا کر ہنس دیئے۔

حَتَّىٰ إِذَا اتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ  
قَالَتْ نَمْلَةٌ ۚ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا  
مَسْكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ  
وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝  
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا -  
(النمل رکوع ۲۴ پارہ ۱۹)

### درس ہدایت

اس قرآنی واقعہ سے چند اسباق ہدایت معلوم ہوئے۔

(۱) چیونٹی کی آواز کو تین میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام کی بصارت و سماعت کو عام انسانوں کی بصارت پر قیاس نہیں کر سکتے بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام



انسانوں کی طاقتوں سے بہت بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں۔

(۲) چیونٹی کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چیونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے کیونکہ چیونٹی نے ”وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ“ کہا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چیونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا کریں گے ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ افسوس کہ چیونٹیاں تو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے مگر رافضیوں کا گروہ ان چیونٹیوں سے بھی گزرا ثابت ہوا کہ ان ظالموں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ پر یہ تہمت لگائی کہ ان بزرگوں نے جان بوجھ کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اہل بیت پر ظلم کیا (معاذ اللہ)

(۳) یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کا ہنسنا تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ حضرات کبھی قہقہہ مار کر نہیں ہنستے۔

### لطیفہ

منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ محدث جو نہایت ہی بلند پایہ عالم اور جامع العلوم علامہ تھے۔ بالخصوص علم حدیث اور تفسیر میں تو اپنا مثل نہیں رکھتے تھے۔ کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے ایک عظیم الشان مجمع جمع ہو گیا۔ آپ نے تقریر فرماتے ہوئے حاضرین سے کئی بار یہ فرمایا کہ ”سَلُّوا عَمَّا سِئْتُمْ“ یعنی مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ حاضرین پر آپ کی علمی جلالت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ کہ سب لوگ دم بخود ساکت و خاموش بیٹھے رہے۔ مگر جب آپ نے بار بار لکاراتو حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی بہت کم عمر تھے خود تو کمال ادب سے کچھ نہ بولے مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ حضرت قتادہ سے یہ پوچھئے کہ وادی نمل میں جس چیونٹی کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے تھے۔ وہ چیونٹی زتھی یا مادہ! چنانچہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو حضرت قتادہ ایسے شپٹائے کہ بالکل لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے پھر لوگوں نے امام ابوحنیفہ سے دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ”چیونٹی مادہ تھی“ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اس کا ثبوت؟ امام ابوحنیفہ نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس چیونٹی کے

لے ”وَقَالَتْ نَمْلَةٌ“ مونث کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر یہ چیونٹی نہ ہوتی تو ”وَقَالَ نَمْلَةٌ“ مذکر کا صیغہ ذکر کیا گیا ہوتا۔ حضرت قتادہ نے اس دلیل کو تسلیم کر لیا اور امام ابوحنیفہ کی دانائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادم ہوئے۔

## (۴۷) حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہد ہد

یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرمان تھے لیکن آپ کا ہد ہد آپ کی فرماں برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہد ہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ ”بلقیس“ کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے۔ مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کے پجاری ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا۔ اس کو یہی ہد ہد لے کر گیا تھا چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان نے ہد ہد سے فرمایا کہ۔

تم میرا یہ خط لے جاؤ۔ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟

چنانچہ ہد ہد یہ خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد امراء و ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا۔ پھر خط کو پڑھ کر لرزہ بر اندام ہو گئی اور اپنے اراکین سے یہ کہا کہ۔

اے سردارو! میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی طرف سے ہے۔ اور بیشک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحیم ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو۔ اور تم مسلمان ہو کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ (النمل رکوع ۲۷ پارہ ۱۹)

خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقلمند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو

جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدایہ و تحائف ان کے پاس بھیج دوں اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان صرف بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے۔ بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کے اتباع کا حکم دیں گے۔ اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم پڑ جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے پانچ سو غلام پانچ سولونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے۔ اور ان لوگوں کے ساتھ پانچ سو سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک جزاؤ تاج مع ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدیہ سب دیکھ کر روانہ ہو گیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دیں۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا کہ۔

آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ اس سے بڑھ کر اور بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے تم واپس جاؤ۔ ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی اور ضرور ہم ان کو ان کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ پست ہو جائیں گے؟

اَتْمِدُّوْنَ بِمَالِ فَمَا اتْنِي اللهُ  
خَيْرٌ مِّمَّا اَتَكُم بَلْ اَنْتُمْ  
بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ۝ اَرْجِعْ اِلَيْهِمْ  
فَلَنَاتَيْنَهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلْ لَهُمْ بِهَا  
وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَذِلَّةً وَهُمْ  
صَاغِرُونَ (النمل رکوع ۳ پارہ ۱۹)

چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس لوٹ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا۔ تو بلقیس حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ اور حضرت سلیمان کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام خدا کے نبی برحق ہیں۔ اور ان کی سلطنت اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔

اس سلسلے میں ہدیہ نے جو کارنامے انجام دیئے۔ وہ بلاشبہ عجائبات عالم میں سے ہے۔ جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔

## (۲۸) تخت بلقیس کس طرح آیا؟

ملکہ سبا "بلقیس" کا تخت شاہی اسی گز لمبا اور چالیس گز چوڑا تھا اور سونے چاندی وغیرہ طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدایہ و تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آجائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا کہ۔

یَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي  
بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي  
مُسْلِمِينَ ۝ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ  
الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ  
مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِي  
أَمِينٌ. (النمل ۳ پ ۱۹)

اے درباریو! تم میں کون ہے کہ بلقیس کا تخت  
میرے پاس لے آئے۔ قبل اس کے کہ وہ  
سب مطیع ہو کر میرے حضور حاضر ہوں۔ تو  
ایک سرکش جن بولا کہ میں وہ تخت لا دوں گا۔  
قبل اس کے کہ آپ اجلاس برخواست کریں۔  
اور میں اس پر قوت والا اور امانت دار ہوں۔

جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے  
بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آجائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت "آصف بن  
برخیا" جو اسم اعظم جانتے تھے۔ اور ایک باکرامت ولی تھے۔ انہوں نے حضرت سلیمان  
سے عرض کیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ  
أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ  
طَرْفُكَ (النمل ۳۷ پارہ ۱۹)

انہوں نے کہا جن کے پاس کتاب کا علم تھا  
کہ میں اسے آپ کے حضور میں حاضر کر  
دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔

چنانچہ حضرت آصف بن برخیا نے روحانی طاقت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے  
بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا۔ اور وہ تخت زمین کے نیچے  
نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت  
کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ۔

یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تاکہ وہ مجھے  
آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور  
جو شکر کرے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر کرتا  
ہے۔ اور جو ناشکری کرے۔ تو میرا رب بے  
پرواہ اور بڑی خوبیوں والا ہے۔

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي  
ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ  
فَأِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ  
فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۝  
(النمل رکوع ۳ پارہ ۱۹)

### درس ہدایت:

اس قرآنی واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بڑی بڑی روحانی طاقت  
وقوت عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لیجئے حضرت آصف بن برخیا نے پلک جھپکنے بھر کی مدت میں تخت  
بلقیس کو ملک سبا سے دربار سلیمان میں حاضر کر دیا۔ اور خود اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں اسی  
طرح بہت سے اولیاء کرام نے سینکڑوں میل کی دوری سے آدمیوں اور جانوروں کو لمحہ بھر  
میں بلا لیا ہے۔ یہ سب اولیاء کی اس روحانی طاقت کا کرشمہ ہے جو خداوند قدوس اپنے  
ولیوں کو عطا فرماتا ہے اس لیے خبردار۔ خبردار۔ کبھی ہرگز ہرگز اولیاء کرام کو اپنے جیسا نہ خیال  
کرنا اور نہ ان کے اعضاء کی طاقتوں و عام انسانوں کی طاقتوں پر قیاس کرنا۔ کہاں عوام؟  
اور کہاں اولیاء؟ اولیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھ لینا یہ گمراہی کا سرچشمہ ہے۔ حضرت مولانا رومی  
علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف میں اسی مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ  
تحریر فرمایا ہے کہ۔

جملہ عالم زیں سبب گمراہ شد کم سے زہدال حق آگاہ شد  
یعنی تمام دنیا اس وجہ سے گمراہ ہوگئی کہ خدا کے اولیاء سے بہت کم لوگ آگاہ ہوئے۔

اولیاء را ہنچو خود پند اشد ہمسری یا انبیاء برداشتد

لوگوں نے اولیاء کو اپنے جیسا سمجھ لیا اور انبیاء کے ساتھ برابری کر بیٹھے۔

این ندانستد ایشان از می ہست فرقی در میان بے انتہا

ان لوگوں نے اپنے اندھے پن سے یہ نہیں جانا کہ عوام اور اولیاء کے درمیان بے

انتہا فرق ہے۔

بہر حال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولیاء کرام کو ہرگز ہرگز عام انسانوں کی طرح نہیں سمجھنا

چاہیے۔ بلکہ یہ عقیدہ رکھ کر اولیاء کرام کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے کہ ان لوگوں پر خداوند کریم کا خاص فضل عظیم ہے اور یہ لوگ بے پناہ روحانی طاقتوں کے بادشاہ بلکہ شہنشاہ ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے حکم سے بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں ٹال سکتے ہیں۔ اور ان کی قبروں کا بھی ادب رکھنا لازم ہے کہ اولیاء کی قبروں پر فیوض و برکات خداوندی کی بارش ہوتی رہتی ہے اور جو عقیدت و محبت سے ان کی قبروں کی زیارت کرتا ہے۔ وہ ضرور ان بزرگوں کے فیوض و برکات سے فیضیاب ہوا کرتا ہے۔ اس زمانے میں فرقہ و ہابیہ اولیاء کرام کی بے ادبی کرتے رہتے ہیں۔ میں اپنے سنی بھائیوں کو یہ نصیحت و وصیت کرتا ہوں کہ ان گمراہوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ اور ان لوگوں کے ظاہری سادہ لباسوں اور وضو نمازوں سے فریب نہ کھائیں کہ ان لوگوں کے دل بہت گندے ہیں اور یہ لوگ نور ایمان کی تجلیوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ (معاذ اللہ منہم)

## (۴۹) حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثل وفات

ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا۔ ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگایا۔ اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی! میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے۔ تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں۔ اور ان سبھوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاشی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے۔ اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لئے باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی دو دو ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے ہیں۔ غرض ایک

سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ یہاں تک کہ بحکم الہی دیمکوں نے آپ کی عصا کو کھالیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرماتا ہے کہ۔

پھر جب ہم نے ان (حضرت سلیمان) پر موت کا حکم بھیجا۔ تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان زمین پر آ گئے۔ تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے!

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ  
عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ  
مِنْ سَاتِهِ فَلَمَّا خَرَ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَن  
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا  
فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝

(سبأ رکوع ۲۴ پ ۲۲)

### درس ہدایت

اس قرآنی واقعہ سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے مقدس بدن وفات کے بعد سڑتے گلتے نہیں ہیں۔ کیونکہ آپ نے ابھی ابھی پڑھ لیا کہ ایک سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ اور ان کے جسم مبارک میں کسی قسم کا کوئی تغیر رونما نہیں ہوا۔ یہی حال تمام انبیاء علیہم السلام کا ان کی قبروں میں ہے کہ ان کے بدن کو مٹی کھا نہیں سکتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ۔

بیشک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ  
أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ  
يَرْزُقُ (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۲۱ باب الجمعة)

اور حاشیہ مشکوٰۃ میں تحریر ہے کہ ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور امام بیہقی نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام مختلف اوقات میں متعدد مقامات پر تشریف لے جائیں یہ جائز و درست

ہے (حاشیہ مشکوٰۃ ۱۲)

اسی لیے اہلسنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی مقدس قبروں میں حیات جسمانی کے لوازم کے ساتھ زندہ ہیں وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ اسی لیے یہ گستاخ فرقہ انبیاء کرام کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہہ کر ان مقدس قبروں کی توہین اور ان کو منہدم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ حد ہوگئی کہ عالم السلام کی انتہائی بے چینی کے باوجود گنبد خضریٰ کو مسمار کر دینے کی اسکیمیں برابر حکومت سعودیہ میں بنتی رہتی ہیں۔ مگر خداوند کریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ اب تک وہ اس پلان کو بروئے کار نہیں لاسکے ہیں۔ اور نہ انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ ان کا یہ شیطانی پلان پورا ہو سکے گا! کیونکہ۔

جس کا حامی ہو خدا اس کو گھٹا سکتا ہے کون

جس کا حافظ ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون

(۲) حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف ۵۳ سال کی ہوئی۔ ۱۳ برس کی عمر میں آپ کو بادشاہی ملی۔ اور چالیس برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے آپ کا مزار اقدس بیت المقدس میں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۵۰) قارون کا انجام

قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا ”یصہر“ کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا۔ اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو ”منور“ کہا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں ”تورات“ کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار و بااخلاق انسان تھا۔ اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے!

لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اسی کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا۔ اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے ہزار ہواں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص



و بخل کا بھوت سوار ہو گیا۔ اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے۔ قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت! اس اللہ کی قسم! جس نے بنی اسرائیل کے لیے پہاڑ کو پھاڑ دیا۔ اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی! مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے۔ اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ! قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین! تو اس کو پکڑ لے۔ تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا۔ اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا۔ مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا۔ یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے کہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گئے۔ (صاوی ج ۳ ص ۱۷۷)

## قارون کا خزانہ

اس کو قرآن کی زبان سے سنئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بہ مشکل اٹھا سکتی تھی قرآن میں ہے۔

بیشک قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ پھر اس نے ان پر ظلم کیا۔ اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے تھے جنکی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ (القصص ۸۷ پارہ ۲۰)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی۔ وہ یہ ہے۔ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ؟ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی کہ۔

جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کر مت چل۔ بیشک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول۔ اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے اور زمین میں فساد مت تلاش کر۔

إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۝ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ (القصص ۸۷ پارہ ۲۰)

قارون نے اپنے مال کے کھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا۔ اور خوب بن سنور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو قرآن کی زبان سے سنئے اور خدا کی اس قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھراتے رہئے۔ اللہ اکبر!

## قارون زمین میں دھنس گیا

فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ۗ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ۝  
(القصص رکوع ۸ پارہ ۲)

تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور وہ کوئی بدلہ نہ لے سکا۔

### درس ہدایت:

یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے۔ تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور ہرگز ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھے۔ اور ہرگز ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء و صالحین کی ایذا رسانی و بدگوئی نہ کرے کہ ان مقبولان بارگاہ الہی کی دعا اور بدعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے۔ جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

## (۵۱) رومی غالب ہو کر پھر مغلوب ہوں گے

فارس اور روم کی دونوں سلطنتوں میں جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اور چونکہ اہل فارس مجوسی تھے۔ اس لیے عرب کے مشرکین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے۔ اور رومی چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے مسلمانوں کو ان کا فتح یاب ہونا اچھا لگتا تھا۔ خسرو پرویز بادشاہ فارس اور قیصر روم دونوں بادشاہوں کی فوجیں سرزمین شام کے قریب معرکہ آرا ہوئیں اور گھمسان کی جنگ کے بعد اہل فارس غالب ہوئے مسلمانوں کو یہ خبر بڑی گراں گزری۔ اور کفار مکہ اس خبر سے مسرور ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب اور رومی نصاریٰ بھی اہل کتاب اور اہل فارس بھی آتش پرست اور ہم بھی بت پرست ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر غالب ہو گئے۔ اگر ہماری تمہاری جنگ ہوئی تو اسی طرح ہم بھی تم پر غالب ہوں گے۔ اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں غیب کی خبر دی گئی ہے کہ۔

رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں۔ اور  
اپنی مغلوبی کے بعد وہ عنقریب غالب ہوں  
گے چند برسوں میں۔

آلَمَ ۝ غَلِبَتِ الرُّومَ ۝ فِي أَدْنَى  
الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ  
سَيَغْلِبُونَ ۝ فِي بضع سنين ۝

(الروم رکوع اپارہ ۲۱)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کو سن کر کفار مکہ میں یہ اعلان کرا  
دیا کہ خدا کی قسم رومی اہل فارس پر غلبہ پائیں گے۔ لہذا اے اہل مکہ! تم اس وقت کے نتیجہ  
جنگ سے خوشی نہ مناؤ۔ چونکہ بظاہر رومیوں کے فتح یاب ہونے کے اسباب دور دور تک نظر  
نہ آتے تھے اس لیے ”ابی بن خلف“ آپ کے بالمقابل کھڑا ہو گیا۔ اور آپ کے اور اس  
کے درمیان سو سواونٹ کی شرط لگ گئی کہ اگر نو سال کے اندر رومی غالب نہ آئے تو حضرت  
ابو بکر صدیق ایک سواونٹ دیں گے اور اگر رومی غالب آ جائیں تو ابی بن خلف ایک سو  
اونٹ دے گا۔ اس وقت تک جو اسلام میں حرام نہیں ہوا تھا۔ خدا کی شان کہ سات ہی برس  
میں قرآن کی اس غیبی خبر کی صداقت کا ظہور ہو گیا۔ اور خالص صلح حدیبیہ کے دن ۶ ہجری  
میں رومی اہل فارس پر غالب ہو گئے اور رومیوں نے ”مدائن“ میں گھوڑے باندھے۔ اور  
عراق میں ”رومیہ“ نامی شہر بسایا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط کے سو  
اونٹ ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کر لیے کیونکہ وہ اس کے درمیان میں مر چکا تھا۔  
حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ  
شرط کے اونٹوں کو جو انہوں نے ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کئے ہیں سب صدقہ کر  
دیں! اور اپنی ذات پر کچھ بھی صرف نہ کریں۔ (مدارک و خازن و خزائن العرفان)

درس ہدایت

فارس و روم کی جنگ میں رومی اس درجہ شکست کھا چکے تھے کہ ان کی عسکری طاقت ہی  
فنا ہو گئی تھی۔ اور بظاہر ان کے فتح یاب ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ مگر سات ہی برس  
میں رومیوں کو ایسی فتح حاصل ہو گئی کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ  
تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ غیبی خبر آپ کی صحت نبوت اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی روشن  
دلیل ہے۔ سبحان اللہ! سچ ہے۔

ہزار فلسفیوں کی چٹاں چیمیں بدلی  
خدا کی بات بدلی نہ تھی نہیں بدلی

## (۵۲) غزوہ احزاب کی آندھی

”غزوہ احزاب“ ۳ھ یا ۵ھ میں پیش آیا۔ اس جنگ کا دوسرا نام ”غزوہ خندق“ بھی ہے۔ جب ”بنو نضیر“ کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تو یہودیوں کے سرداروں نے مکہ جا کر کفار مکہ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے چنانچہ ان یہودیوں نے کثیر تعداد میں ہتھیار اور رقم دے کر کفار مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے پر ابھار دیا اور ابوسفیان نے مشرکین و یہودیوں کے بہت سے قبائل کو جمع کر کے ایک عظیم فوج کے ساتھ مدینہ پر دھاوا بول کر حملہ کر دیا۔ مکہ سے قبیلہ ”خزاعہ“ کے چند لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کی ان تیاریوں کی اطلاع دے دی تو آپ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے مدینہ کے گرد ایک خندق کھدوانی شروع کر دی۔ اس خندق کو کھودنے میں مسلمانوں کے ساتھ خود رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کام کیا۔ مسلمان خندق کھود کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ مشرکین ایک لشکر جرار لے کر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ پر ہلہ بول دیا اور تین طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ امنڈ پڑا کہ شہر مدینہ کی فضاؤں میں ہر طرف گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کی معرکہ آرائی کا نقشہ قرآن کی زبان سے سنئے!

جب کافر تم پر حملہ آور ہوئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے اور جب کہ ٹھٹھک کر رہ گئیں نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آگئے اور تم اللہ پر (امید و یاس) کے طرح طرح کے گمان کرنے لگے یہ وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کا امتحان ہوا اور خوب سختی سے وہ جھنجھوڑ دیئے گئے۔

اِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ  
اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ  
وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ  
وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَ ا هٰنَالِكَ  
اَبْتَلٰى الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَلْزُلُوْا زِلْزَالًا  
شَدِيْدًا (الاحزاب رکوع ۲ پارہ ۲۱)

اس لڑائی میں منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے وہ کفار کے ان

لشکروں کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے اور ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا اور وہ جنگ سے جان چرا کر اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہنے کی اجازت طلب کرنے لگے لیکن اسلام کے پیچھے جان نثار مہاجرین و انصار اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ کوہ "سلع" اور کوہ "احد" کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی اولوالعزمیوں اور جاں نثاریوں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں۔ ان فداکاروں کی ایمانی جرات و اسلامی شجاعت کی تصویر صفحات قرآن پر بصورت تحریر دیکھئے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ:

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ  
قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ  
إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا  
اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر  
دیکھے۔ تو بول پڑے کہ یہ وہ ہے جو ہمیں  
وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ  
تعالیٰ علیہ وسلم نے اور سچ فرمایا اللہ اور اس  
کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر  
راضی ہونا۔

کفار نے جب مدینہ کے گرد خندق کو حائل دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو  
ایسی تدبیر ہے کہ جس سے رب کے لوگ اب تک ناواقف تھے۔ بہر حال کافروں نے خندق  
کے کنارے سے مسلمانوں پر تیر اندازی اور سنگباری شروع کر دی۔ کہیں کہیں سے کافروں  
نے خندق کو پار بھی کر لیا اور جم کر لڑائی بھی ہوئی۔ مسلمان کافروں کے اس محاصرہ سے گو  
پریشان تھے۔ ان کے عزم و استقلال میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا وہ اپنے اپنے مورچوں پر  
جم کر دفاعی جنگ لڑتے رہے۔ اچانک ایک دم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی  
کہ ناگہاں مشرق کی جانب سے ایک ایسی طوفان خیز اور ہلاکت انگیز شدید آندھی آئی جو قہر  
قہار و غضب جبار بن کر لشکر کفار پر خدا کی مار بن گئی، دیکھیں، چولہوں سے الٹ پلٹ ہو کر ادھر  
ادھر لڑھک گئیں۔ خیمے اکھڑا کھڑا کر اڑ گئے اور ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا اور شدید  
سردی کی لہروں نے کافروں کو جھنجھور ڈالا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیج دی جن کے  
رعب و دبدبہ سے کفار کے دل لرز گئے اور ان پر ایسی دہشت و وحشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ  
فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ رہا چنانچہ لشکر کفار کے سپہ سالار ابوسفیان نے  
ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ راشن ختم ہو چکا اور موسم نہایت خراب ہے

اور یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ لہذا اب مدینہ کا محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوچ کا نقارہ بجا دیا اور بہت سا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور دوسرے قبائل بھی تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور پندرہ یا چوبیس روز کے بعد مدینہ کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ (مدارج النبوة ج ۲ ص ۲۷۲ اور رقانی ج ۲ ص ۱۱۲ ص ۱۱۸)

غزوة احزاب کی یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس نے قرآن میں اس

طرح فرمایا ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَةً  
اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ  
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ  
تَرَوْهَا (احزاب ع ۳ پ ۲۱)

اے ایمان والو! اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر کچھ لشکر آئے۔ تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تم کو نظر نہ آئے۔

### درس ہدایت

اس واقعہ سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب کفار کا مقابلہ جنگ میں ہو تو مسلمانوں کو کسی حال میں بھی ہرگز ہرگز مایوس نہ ہونا چاہئے اور یہ یقین رکھ کر مقابلہ پر ڈٹے رہنا چاہئے کہ ضرور ضرور نصرت خداوندی اور امداد غیبی مسلمانوں کی مدد کرے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ مسلمان ثابت قدم رہیں اور صبر و استقلال کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہیں۔ چنانچہ جنگ بدر و جنگ احد و جنگ احزاب وغیرہ سینکڑوں کفر و اسلام کی لڑائیوں میں یہ منظر نظر آیا کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی جب مسلمان ثابت قدم رہے تو غیب سے نصرت خداوندی اور امداد غیبی نے اس طرح جلوہ دکھایا کہ دم زدن میں جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گئی اور کفار باوجود اپنی کثرت و شوکت کے شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

### (۵۳) قوم سبا کا سیلاب

”سبا“ عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے مورث اعلیٰ سبا بن یسجب بن یصر بن محطان کے نام سے مشہور ہے اس قوم کی بستی یمن میں شہر ”ضنعا“ سے چھ میل کی دوری پر واقع

تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں پھرنے مکھی نہ پشونہ کھٹل نہ سانپ نہ بچھو۔ موسم نہایت معتدل نہ گرمی نہ سردی یہاں کے باغات میں اس قدر کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لے کر گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ غرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت کے لئے یکے بعد دیگرے تیرہ نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا اور اس قوم کا سردار جس کا نام ”حماد“ تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور علانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا اور خدا کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے جب حماد اور اس کی قوم کا طغیان و عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل آگ گئے اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لئے ترس گئی۔

### سیلاب کس طرح آیا؟

قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے تین بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیئے تھے۔ ایک چوہے نے خدا کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا



کے اس ہلاکت آفرین سیلاب کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا کہ:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِهُمْ آيَةٌ ۖ  
 جَنَّتِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا  
 مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ  
 بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ وَرَبَّ "غَفُورٌ" ۝  
 فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ  
 الْعَرَمِ ۖ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ  
 ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ ۖ وَشَجِي  
 مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ۝ ذَلِكْ جَزَايُنَّهُمْ  
 بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا  
 الْكَافِرِينَ ۝ (السا رکوع ۲ پارہ ۲۲)

بیشک قوم سبا کے لئے ان کی آبادی میں نشانی  
 تھی۔ وہ باغ داہنے اور بائیں۔ اپنے رب کا  
 رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ شہر  
 اور بخشنے والا رب تو انہوں نے (ایمان سے)  
 منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زبردست سیلاب  
 بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض دو باغ  
 انہیں بدل دے۔ جن میں بھلکا میوہ اور جھاؤ  
 اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ ہم نے انہیں یہ  
 بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا میں اور ہم  
 ناشکرے ہی کو سزا دیتے ہیں۔

### درس ہدایت

قوم سبا کی یہ ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب  
 سے ہوئی۔ ان کی بد اعمالیوں اور خدا کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب  
 بہت بڑھ گئیں تو خداوند قہار و جبار کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا  
 اور ان کو تباہ و برباد کر گیا۔ سچ ہے نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے۔ لہذا ہر نعمت  
 پانے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی و گناہ سے ہمیشہ کنارہ  
 کشی اختیار کرے ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے کیونکہ جو قوم سرکشی اور بد اعمالی کو  
 اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد  
 اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویرانہ بن جاتی ہیں۔ (نعوذ باللہ منہ)

### (۵۴) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تین مبلغین

”الظاکیہ“ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا۔ جس کی فصیلیں سنگین دیواروں سے بنی  
 ہوئی تھیں اور پورا شہر پانچ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اور شہر کی آبادی کا رقبہ بارہ میل تک پھیلا

ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے دو مبلغوں کو تبلیغ دین کے لئے اس شہر میں بھیجا۔ ایک کا نام ”صادق“ اور دوسرے کا نام ”مصدق“ تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی جس کا نام ”حبیب نجار“ تھا۔ سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ اور کہاں سے آئے ہیں؟ اور مقصد کیا ہے؟ تو ان دونوں صاحبان نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اور اس بستی والوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے آئے ہیں تو حبیب نجار نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں۔ ہم لوگ مریضوں اور مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو خدا کے حکم سے شفاء دیتے ہیں۔ یہ ان دونوں کی کرامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ سن کر حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک لڑکا مدتوں سے بیمار ہے۔ کیا آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے؟ ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں اس کو ہمارے پاس لاؤ چنانچہ ان دونوں نے اس مریض لڑکے پر اپنا ہاتھ پھرا دیا اور وہ فوراً ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی اور بہت سے مریض جمع ہو گئے اور سب شفا یاب بھی ہو گئے۔

اس شہر کا بادشاہ ”انطیخا“ نامی ایک بت پرست تھا۔ وہ ان دونوں کی زبان سے توحید کی دعوت سن کر مارے غصہ کے آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے دونوں مبلغوں کو گرفتار کر کے سو سو درے لگا کر جیل خانہ میں قید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت ”شمعون“ کو انطاکیہ بھیجا۔ آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے دو آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل خانہ میں قید کر دیا ہے۔ کم سے کم آپ ان دونوں کی پوری بات تو سن لیتے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو جیل خانہ سے بلوا کر گفتگو شروع کی تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لئے یہاں آئے ہیں کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے بتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی تو ان دونوں صاحبوں نے ایک ایسے مادرزاد اندھے کو جس کے سر میں آنکھیں تھیں ہی نہیں ہاتھ پھرا دیا تو اس کی پیشانی میں آنکھوں کے دو سوراخ بن گئے پھر ان دونوں صاحبوں نے مٹی کے دو غلو لے بنا کر ان سوراخوں میں رکھ کر دعا کر دی تو یہ دونوں غلو لے آنکھیں بن کر

روشن ہو گئے اور مادر زاد آنکھیارا بن گیا۔ حضرت شمعون نے فرمایا کہ اے بادشاہ! کیا تمہارے بتوں میں بھی یہ قدرت ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں تو حضرت شمعون نے فرمایا کہ پھر تم اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو اسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک دہقان کا لڑکا ہے اور وہ کئی روز سے مرا پڑا ہے اور میں نے اس کے باپ کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا ہے۔ بادشاہ ان تینوں صاحبان کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس گیا اور ان تینوں صاحبان نے دعا مانگی تو خدا کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے کہا کہ میں بت پرست تھا۔ تو میں مرنے کے بعد جہنم کی دادیوں میں داخل کیا گیا۔ لہذا میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ان کے فرستادہ ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اور مردہ کی تقریر سن کر سب کے سب حیران رہ گئے۔ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کے لئے پر زور تقریر کر کے آمادہ کر لیا۔ یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت قبول کر لی اور سب صاحب ایمان ہو گئے مگر چند منحوس لوگ جو بتوں کی محبت میں عقل و ہوش کھو چکے تھے وہ ایمان نہیں لائے۔ بلکہ حبیب نجار کو قتل کر دیا تو ان مردودوں پر عذاب آیا اور لوگ عذاب الہی سے ہلاک کر دیئے گئے۔

(صاوی ج ۳ ص ۲۶۵)

اس واقعہ کو قرآن مجید نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ:

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ	(صادق و مصداق) کو بھیجا۔ تو لوگوں نے ان
إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۝ إِذْ أَرْسَلْنَا	دونوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے تیسرے (شمعون)
إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا	کو ان دونوں کی مدد میں بھیجا تو ان تینوں نے
بِثَالِبٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ	کہا کہ بیشک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں تو
۝ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا	وہ لوگ بولے کہ تم تو بس ہمارے ہی جیسے

وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۝ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۝ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ۝ قَالُوا إِنَّا نَطَّيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ ۖ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنَّ دُكْرَتُمْ لَبَلٌ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۝

(یسین رکوع ۲ پارہ ۲۲)

آدمی ہو اور رحمن نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے تم لوگ تو نرے جھوٹے ہی ہو۔ ان تینوں نے کہا کہ ہمارا خدا جانتا ہے کہ بیشک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو بس کھلی ہوئی تبلیغ ہے۔ وہ لوگ بولے کہ ہم تمہیں منحوس جانتے ہیں۔ اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو ضرور ہم تم لوگوں کو سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت مار پڑے گی تو تینوں مبلغوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے کیا اس بات پر بدلتے ہو کہ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے؟ یقیناً تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو اور شہر کے کنارے سے ایک مرد

(حبیب نجار) دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے میری قوم! تم ان فرستادوں کی پیروی کرو۔ جو تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں!

### درس ہدایت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں مبلغین یعنی صادق و مصداق و شمعون کی سرگزشت اور تبلیغ دین کی راہ میں ان حضرات کی دشواریاں اور قید و بند کے مصائب اور ہوش ربا دھمکیوں کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ تبلیغ دین کرنے والوں کی بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر جب آدمی اس راہ میں مستقل مزاج بن کر ثابت قدم رہتا ہے اور صبر و تحمل کے ساتھ اس دینی کام میں ڈٹا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی کامیابی کا سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ مقلب القلوب اور ہادی ہے۔ وہ ایک لمحہ میں منکرین کے دلوں کو بدل دیتا ہے اور دلوں کی گمراہی دور فرما کر ہدایت کا نور بخش دیتا ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

## (۵۵) پھولا باغ منٹوں میں تاراج

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں ”صنعاء“ شہر سے دو کوس کی دوری پر ایک باغ تھا۔ جس کا نام ”صدران“ تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں۔ یا ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء و مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ باغ کا مالک مر گیا۔ تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہوئے۔ مگر یہ تینوں بہت بخیل ہوئے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ پا جائیں گے۔ اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں۔ تاکہ فقراء و مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا کہ ناگہاں رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لئے روانہ ہو گئے اور راستہ میں چپکے چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ مل جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کہیں اور جگہ چلے آئے ہیں۔ مگر ان میں ایک کا جو بہ نسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا۔ اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے لہذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو۔ تو ان سمجھوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ سُبْحَانَ رَبَّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے۔ ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء مساکین کا حق مار لیا۔ پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ اور سب ہائے رے ہماری تباہی کہہ کہہ کر صدق دل سے توبہ و استغفار کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے کہ۔

عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا  
 اِنَّا اِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ۝  
 عنقریب ہمارا رب ہم لوگوں کو اس سے بہتر باغ  
 اس کے بدلے میں عطا فرمائے گا۔ ہم اپنے  
 رب ہی سے توبہ قبول کرنے کے خواستگار ہیں۔  
 (ن والقلم رکوع ۱ پارہ ۲۹)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے  
 توبہ کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی۔ اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے  
 ایک دوسرا باغ عطا فرمادیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس  
 باغ کا نام ”حیوان“ تھا اور اس میں ایک ایک انگور اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ ایک  
 خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا ابو خالد یمانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تھا۔ تو  
 میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر بڑے تھے۔

(صاوی ج ۴ ص ۱۹۸)

### درس ہدایت

اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت اور مال کی  
 فراوانی ہے۔ اور بخیلی و بدنیتی کا ثمرہ مال کے ہلاک و بربادی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ  
 سچی توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ زائل شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرماتا دیا کرتا  
 ہے۔ سچ ہے۔ ذَلِكْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

### (۵۶) دربار داؤد علیہ السلام میں ایک عجیب مقدمہ

حضرت داؤد علیہ السلام کی ننانوے بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسری  
 عورت کو نکاح کا پیغام دیا جس کو ایک مسلمان نے پہلے سے پیغام دے رکھا تھا۔ لیکن آپ کا  
 پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے اولیاء دوسرے کی طرف بھلا کب اور کیسے توجہ کر سکتے تھے؟  
 آپ سے نکاح ہو گیا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز تھی۔ نہ اس زمانے کے رسم و رواج کے  
 خلاف تھی۔ لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی شان بہت ہی ارفع و اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ  
 کام آپ کے منصب عالی کے مناسب نہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ کو  
 اس پر متنبہ اور آگاہ کر دیا جائے۔

چنانچہ اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ فرشتے مدعی اور مدعا علیہ بن کو آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے۔ اور بجائے دروازہ سے داخل ہونے کے دیوار پھاند کر مسجد میں آئے۔ آپ ان لوگوں کو دیوار پھاندتے دیکھ کر کچھ گھبرا گئے تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈریں نہیں۔ ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ لہذا آپ ٹھیک ٹھیک ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ اور ہمیں سیدھی راہ چلائیے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ میرا یہ بھائی اس کے پاس ننانوے دنیاں ہے۔ اور میرے پاس ایک ہی دن ہے اب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک دن بھی میرے حوالہ کر دے اور اس بات کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً یہ فیصلہ فرما دیا کہ بیشک یہ زیادتی ہے کہ وہ تیری دن ہے تو اپنی دنیاں میں ملا لینے کو کہتا ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر ساجھے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ بجز ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہوں۔ اور ایسوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ مقدمہ کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مقدمہ کی پیشی درحقیقت یہ میرا امتحان تھا۔ چنانچہ فوراً ہی آپ سجدہ میں گر پڑے۔ اور خدا سے معافی مانگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ۔

تو ہم نے (حضرت داؤد) کو معاف کر دیا۔ اور بیشک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانا ہے۔ اے داؤد! بیشک ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے تو لوگوں میں ٹھیک فیصلہ کیجئے اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے۔ ورنہ وہ آپ کو راہ سے بہکا دے گی۔

فَغْفِرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا  
لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ۝ يٰدَاوُدُ إِنَّا  
جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ  
فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا  
تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ  
سَبِيلِ اللَّهِ ۗ (ص ۲۴ پ ۲۳)

### درس ہدایت

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی شان بہت ہی عظیم الشان ہے۔ اس لیے بہت ہی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خداوند قدوس کی طرف سے ان حضرات کو آگاہی دی جاتی ہے۔ اور یہ نفوس قدسیہ بھی بارگاہ خداوندی میں اس قدر مطیع اور متواضع ہوتے ہیں کہ

نوراً ہی دربار خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر عفو تقصیر کی استدعا کرنے لگتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقْرَبِينَ یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطاؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ کیوں نہ ہو جن کے رتبے ہیں سوا۔ ان کو سوا مشکل ہے۔

## (۵۷) انشاء اللہ چھوڑنے کا نقصان

حضرت سلیمان علیہ السلام کی ننانوے بیویاں تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں رات بھر اپنی ننانوے بیویوں کے پاس دورہ کروں گا۔ اور سب کے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ تو میرے یہ سب لڑکے اللہ کی راہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کریں گے۔ مگر یہ فرماتے وقت آپ نے ”انشاء اللہ“ نہیں کہا (غالباً آپ اس وقت کسی ایسے شغل میں تھے کہ اس کا خیال نہ رہا) اس ”انشاء اللہ“ کو چھوڑ دینے کا یہ اثر ہوا کہ صرف ایک عورت حاملہ ہوئی۔ اور اس کے بھی ایک ناقص انخلقت (کچا بچہ) ہوا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ”انشاء اللہ“ کہہ دیا ہوتا تو ان سب عورتوں کے لڑکے پیدا ہوتے۔ اور وہ سب خدا کی راہ میں جہاد کرتے۔ (بخاری پارہ ۱۳ کتاب الانبیاء)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو اجمالاً بہت مختصر طریقے پر اس طرح بیان فرمایا ہے کہ۔

اور بے شک ہم نے حضرت سلیمان کا امتحان لیا۔ اور انکی کرسی پر ایک بے جان بدن (کچا بچہ) ڈال دیا۔ پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور عرض کی کہ اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ بیشک تو ہی بہت زیادہ دینے والا ہے۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا  
عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ  
أَنَابَ ۝ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي  
وَهَبْ لِي مَلَكاً لَا يُنْفِي  
لَا أَحَدٌ مِنِّي بَعْدِي إِنَّكَ  
أَنْتَ الْوَهَّابُ (ص ۳۷)

پارہ ۲۲

درس ہدایت

اس قرآن واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو لازم ہے کہ آئندہ کے لیے جو کام جو



بھی کرنے کو کہے تو ”انشاء اللہ تعالیٰ“ ضرور کہہ دے۔ اس مقدس جملہ کی برکت سے بڑی امید ہے کہ وہ کام ہو جائے گا اور ”انشاء اللہ تعالیٰ“ چھوڑ دینے کا انجام سراسر نقصان اور ناکامی و محرومی ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو خداوند قدوس کے پیارے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بے مثل بادشاہ بھی ہیں۔ مگر انہوں نے لاشعوری طور پر ”انشاء اللہ تعالیٰ“ کہنا چھوڑ دیا تو ان کا مقصد جو اعلیٰ درجے کی عبادت تھی پورا نہیں ہوا۔ اور وہ اس بات پر نہایت متاسف اور رنجیدہ ہو کر خدا کی طرف رجوع ہوئے وہ اپنی مغفرت کی دعا مانگنے لگے پھر بھلا ہم تم گنہگاروں کا کیا ٹھکانا ہے؟ کہ اگر ہم تم انشاء اللہ تعالیٰ کہنا چھوڑیں گے تو بھلا کس طرح ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے؟ لہذا ”انشاء اللہ تعالیٰ“ کہنا ضرور یاد رکھئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول مقبول حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ آئندہ کے لیے جو کام بھی کرنے کو کہیے تو ضرور ”انشاء اللہ تعالیٰ“ کہہ لیجئے!

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ۔

اور اے پیغمبر! ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں  
 کل یہ کر دوں گا مگر یہ کہہ اللہ چاہے اور اپنے  
 رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ۔

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ اِنِّي فَاعِلٌ  
 ذٰلِكَ غَدًا " اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ  
 وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ

(کہف ع ۴۷ پ ۱۵)

## (۵۸) اصحاب الاخدود کے مظالم

”اصحاب الاخدود“ کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے؟ اور ان کا کیا واقعہ تھا۔ اس بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اور ایک جادوگر اس کے دربار میں بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ لہذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو۔ تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا۔ لیکن راستہ میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا۔ تو اس کی باتیں

لڑکے کو بہت پسند آگئیں۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا اور ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا اور مہیب جانور کھڑا انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب؟ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ! اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول و محبوب ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے مقتول فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو پتھر سے مار دیا۔ تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا۔ اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔

لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے! خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے۔ لہذا اب تو عنقریب امتحان میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا۔ اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادر ذاد اندھے اور کوڑھی شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ تو بادشاہ کا ایک بہت مقرب ہم نشین جو اندھا ہو گیا تھا۔ اس لڑکے کے پاس بہت سے ہدایا اور تحائف لے کر حاضر ہوا۔ اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ تو لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لایا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی تو فوراً ہی وہ انکھیاں ہو گیا اور بادشاہ کے دربار میں گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آگئی؟ تو مقرب ہم نشین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرمادی۔ بادشاہ نے غضب ناک ہو کر کہا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا ہے؟ تو اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس کو اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدہ کو چھوڑ دو۔ مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اس عقیدہ پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولہ ہو گیا۔ اور اس نے راہب کے سر پر آ رہ چلوا کر اس کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آ رہ چلوا دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ

کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑھکا دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا۔ اور بادشاہ کے سپاہی زلزلہ کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ۔ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی۔ اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھ کو شہید کرنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ مجھ کو سولی میں لٹکا کر اور یہ پڑھ کر مجھے تیر مار کہ میں شہید ہو جاؤں۔

چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصہ میں بوکھلا گیا۔ اور اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ستہترے مومنین کو اس نے آگ میں ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لئے ہوئے آئی۔ اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی۔ تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا کہ اے میری ماں! صبر کر۔ تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا۔ اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھنک دیا۔

بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کو آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے۔ اور قہقہے لگا رہے تھے کہ ایک دم الہی قہر نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اور وہ اس طرح کہ خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے سب ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے اور باقی تمام دوسرے مومنین کو

اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالم کے شر سے بچا لیا۔ (تفسیر صاوی ج ۴ ص ۲۵۷ و ص ۲۵۸)

اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا کہ۔

قَتِيلَ أَصْحَابِ الْأَخْذُودِ ۝ النَّارِ  
ذَاتِ الْوُقُودِ ۝ اِذْهُمْ عَلَيْهَا  
قُوعُودٌ ۝ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ  
بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝  
(البروج پ ۳۰)

خندق والو پر لعنت ہو۔ اس بھڑکتی آگ  
والوں پر جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے  
تھے۔ اور وہ خود گواہ ہیں کہ جو کچھ مسلمانوں  
کے ساتھ کر رہے تھے۔

### درس ہدایت

اس واقعہ سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے  
اور بوقت امتحان مومنوں کو بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا یہی اس امتحان کی کامیابی  
ہے۔

(۲) یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا کی راہ میں پڑنے  
والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی بھی اس میں تذبذب نہیں پیدا ہوتا بلکہ مومن خواہ  
پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے نیچے پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں  
جلایا جائے۔ ہر حال میں بہر صورت وہ اپنے ایمان پر استقامت و استقلال کے ساتھ پہاڑ  
کی طرح قائم رہتا ہے۔ اور اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوتا ہے۔ یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے کہ  
جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوش بختیوں کی معراج ہو جاتی ہے۔ اور وہ خدا و رسول کی  
بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کی  
سر بلندیوں کے مداح اور ثنا خواں بن جاتے ہیں۔

## (۵۹) چار قابل عبرت عورتیں!

### واہلہ

یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف  
حاصل ہوا۔ اور برسوں یہ اللہ کے نبی کی صحبت سے سرفراز رہی مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت  
ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی  
کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی۔ اور جہنم میں داخل ہوئی۔

یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈہ کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنوں اور پاگل ہیں۔ لہذا ان کی کوئی بات نہ مانو!

### واعلہ

یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی۔ مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار ہوا تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی۔ بلکہ عمر بھر منافق رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے "واعلہ" بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرمادیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے۔ لیکن واعلہ چونکہ منافق تھی اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ "یا قوم ماہ" ہائے رے میری قوم! یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔

### آسیہ

حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرعون کی بیوی ہیں۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا۔ لیکن حضرت آسیہ نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا۔ اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کئے۔ بہت زیادہ زد و کوب کے بعد چومیخا کر دیا۔ یعنی چار کھونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھونک کر چاروں کھونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں اور بھاری پتھر سینہ پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا۔ اور دانہ پانی بند کر دیا۔ لیکن ان مصائب و شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی

رہیں۔ اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئیں اور ابن کيسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں۔

### مریم

حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لئے ان کی قوم نے طعن اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائیں۔ مگر یہ صابر رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مداح و ثناء کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید سے سورہ تحریم میں فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت (واہلہ) اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت (واعلہ) یہ دونوں ہمارے دو مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں۔ پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دعا کی۔ تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے۔ اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی (آسیہ) جب انہوں نے عرض کی اے میرے رب! میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا۔ اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے۔ اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی۔ اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ اور فرمان برداروں میں سے ہوئی! (التحریم رکوع ۲ پارہ ۲۸)

### درس ہدایت

واہلہ اور واعلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئیں۔ اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت "آسیہ" ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں۔ اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فرعون کے گھر کے سب آرام و راحت کو ٹھکرا دیا۔ اور بے پناہ تکلیفوں اور ایذاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر

قائم رہیں۔ بلاشبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں!

## (۶۰) حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تین روزے

حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ تو حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما و حضرت فضہ رضی اللہ عنہا نے ان شاہزادوں کی صحت کے لیے تین روزوں کی منت مانی اللہ تعالیٰ نے دونوں شاہزادوں کو شفاء دے دی۔ جب نذر کے روزوں کو ادا کرنے کا وقت آیا تو سب نے روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے تین صاع جو لائے۔ ایک ایک صاع تینوں دن پکایا۔ لیکن جب افطار کا وقت آیا اور تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں تو ایک دن مسکین ایک دن یتیم اور ایک دن قیدی دروازے پر آ گئے۔ اور روٹیوں کا سوال کیا۔ تو تینوں دن سب روٹیاں ان سائلوں کو دے دی گئیں۔ اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی خادمہ تھیں۔ (خزائن العرفان ۸۴۳) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کی اس سرگزشت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ۔

اور (اہل بیت) کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں۔ تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ  
مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ إِنَّمَا  
نُطْعِمُكُمْ لِرِجَالِكُمُ اللَّهُ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ  
جُزَاءً وَلَا شُكْرًا ۝  
(الدھر رکوع ۱ پ ۲۹)

### درس ہدایت

سبحان اللہ اس واقعہ سے اہل بیت نبوت کی سخاوت کا عجیب و غریب اور عدیم المثال حال معلوم ہوتا ہے۔ مسلسل تین روزے اور سحری و افطار میں صرف پانی پی کر روزے رکھنا اور خود بھوکے رہ کر روٹیاں سائلوں کو دے دینا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ۔

بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے  
کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے

## (۶۱) شداد کی جنت

یہ آپ ”قوم عاد کی آندھی“ کے عنوان میں پڑھ چکے ہیں کہ قوم عاد کا مورث اعلیٰ عاد بن عوص بن ارم بن نوح ہے۔ اس عاد کے بیٹوں میں ”شداد“ بھی ہے۔ یہ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا ہے۔ اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا مطیع و فرماں بردار بنا لیا تھا۔ اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر براہ سرکشی دنیا میں جنت بنانی چاہی۔ اور اس ارادہ سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کئے گئے۔ اور زبرجد اور یاقوت کے ستون اور اس کی عمارتوں میں نصب کئے گئے۔ اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں۔ قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لئے لگائے گئے۔ الغرض اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامان اس شہر میں جمع کر دیئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل کا فاصلہ باقی رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ اور وہ اپنی بنوائی ہوئی جنت کو دیکھ بھی نہ سکا۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ اپنے گم شدہ اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے صحرائے عدن سے گزر کر اس شہر میں پہنچے۔ اور اس کی تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا مگر وہاں کوئی رہنے بسنے والا انسان نہیں ملا۔ یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی۔ تو انہوں نے عبداللہ بن قلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ”کعب احبار“ کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا لیکن یہ



سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے۔ اور اس قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی باقی نہیں رہا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا۔ اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں عبد اللہ بن قلابہ آگئے۔ تو کعب احبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ بخدا وہ شخص جو شہاد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا وہ یہی شخص ہے۔ (خزائن العرفان ص ۸۶۴)

قوم عاد اور دوسری قوموں کا حال بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ۔

کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ وہ حد سے زیادہ طول والے ”عاد ارم“ کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ اور قوم ثمود جنھوں نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراشا۔ اور فرعون جو کہ چومینا کی سزا دیا کرتا تھا۔ انہی لوگوں نے شہروں میں سرکشی کی۔ پھر انہوں نے شہروں میں بہت زیادہ فساد پھیلایا۔ تو ان لوگوں پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔

الْمُ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝  
إِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ  
مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ۝ وَثَمُودَ الَّذِينَ  
جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝ وَفِرْعَوْنَ  
ذِي الْأَوْتَادِ ۝ الَّذِينَ طَغَوْا فِي  
الْبِلَادِ ۝ فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝  
فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ  
عَذَابٍ ۝ (الفجر پارہ ۳۰)

### درس ہدایت

اللہ تعالیٰ کو بندوں کی سرکشی اور تکبر و غرور بیکرد ناپسند ہے اس لیے خداوند قدوس کا دستور ہے کہ ہر سرکش اور متکبر قوم جس نے زمین میں اپنی سرکشی اور ظلم و عدوان سے فساد پھیلایا۔ اس قوم کو قہر الہی نے کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر ہلاک و برباد کر دیا۔ شہاد اور قوم عاد کے دوسرے افراد سب اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے خدا کے مبغوض ٹھہرے۔ اور جب ان لوگوں کا تمرد اور ظلم و عدوان اس درجہ بڑھ گیا کہ روئے زمین کا ذرہ ذرہ ان کے گناہوں اور بد اعمالیوں سے بلبلا اٹھا۔ تو خداوند قہار و جبار کے عذابوں نے اس سب سرکشوں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر کے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ لہذا ان قوموں کے عروج و زوال اور ان لوگوں کے عذاب الہی سے پامال ہونے کی داستانوں سے

عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ کیونکہ قرآن کریم میں ان اقوام کے انجام کے ذکر کا مقصد ہی یہ ہے کہ اہل قرآن ان کی داستان سن کر عبرت پکڑیں۔ اور خوف الہی سے ہر دم لرزہ بر اندام رہیں۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کریں اور ان کا ترجمہ بھی پڑھا کریں اور ان اقوام کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں۔ اور ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہیں اور ہر قسم کی بد اعتقادیوں اور بد اعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں اور اعمال صالحہ کی کوشش کرتے رہیں اور خبردار خبردار مال و دولت کے غرور اور گھمنڈ میں سرکشی و تکبر نہ کریں۔ بلکہ ہمیشہ دل میں خوف خدا رکھ کر تواضع و انکسار کو اپنی عادت بنائیں اور جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرتے رہیں۔

## (۶۲) اصحابِ فیل و لشکرِ ابابیل

یمن و حبشہ کا بادشاہ ”ابرہہ“ تھا۔ اس نے شہر ”صنعا“ میں ایک گرجا گھر بنایا تھا۔ اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ کے صنعا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاق گزری۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعا کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پاخانہ کر دیا۔ اور اس کے دور دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا۔ اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھالی۔ اور اس ارادہ سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا پیکر ہاتھی تھا۔ جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جس میں عبدالمطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبدالمطلب جو ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی رعب دار اور نہایت ہی جسیم و باشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو

تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں تو کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا۔ صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں۔ اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورہ پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لئے خوب رو رو کر دعا مانگی۔ اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح تڑکے اپنے لشکروں کو لیکر کعبہ مقدسہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا۔ اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا۔ لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا۔ مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس تین کنکریاں تھیں دو پنچوں میں اور ایک چونچ میں۔ ابا بیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور سے سنگباری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ مگر کنکریوں تو چھوٹی چھوٹی سی تھیں لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے فیل سواروں کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا اس سال کو اہل عرب ”عام الفیل“ (ہاتھی والا سال) کہنے لگے۔ اور اس واقعہ سے پچاس روز کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ (خزائن العرفان و سیرۃ المصطفیٰ وغیرہ)

اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورہ نازل فرمائی جس کا نام ہی ”سورہ الفیل“ ہے یعنی۔

اے محبوب! کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کر دیا۔ کیا ان کی خفیہ تدبیر کو تباہی میں نہ ڈال دیا۔ اور ان پر پرندوں کے لشکروں کو بھیج دیا کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں۔ تو انہیں ایسا کر ڈالا۔ جیسے کھائی ہوئی کھیتی کی پتی۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ  
بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ  
كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝ وَأَرْسَلَ  
عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝ تَرْمِيهِمْ  
بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ  
كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝ (الفیل پارہ ۳۰)

درس ہدایت:

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند قدوس نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے۔ کہ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے۔ نہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے۔ کیونکہ خداوند کریم ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے (واللہ تعالیٰ اعلم)

## (۶۳) فتح مکہ کی پیشین گوئی

ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے یار غار صدیق جان نثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ ”کہ اے مکہ! خدا کی قسم! تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا“

اس وقت کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کو اس بے سرو سامانی کے عالم میں خیر باد کہنے والا صرف آٹھ ہی برس بعد ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی مکہ میں نزول اجلال فرمائے گا۔ اور کعبتہ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائے گا۔

لیکن ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدہ کو توڑ ڈالا۔ اور صلح نامہ سے غداری کر کے ”عہد شکنی“ کے مرتکب ہو گئے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حلیف بنو خزاعہ کو مکہ والوں نے بیدردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بے چارے بنو خزاعہ اس ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا کر

حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے تو ان درندہ صفت انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا۔ اور حرم کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ اس حملہ میں بنو خزاعہ کے تیس ۲۳ آدمی قتل ہو گئے۔ اس طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدہ کو توڑ ڈالا۔ اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔

چنانچہ ۱۰ رمضان ۸ ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ سے دس ہزار کا لشکر پر انوار ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام روزہ دار تھے۔ لیکن جب آپ مقام ”کدید“ میں پہنچے تو پانی مانگا۔ اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دیکھا کہ آپ نے پانی نوش فرمایا۔ اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔

(بخاری ج ۲ ص ۶۱۳ و زرقانی ج ۲ ص ۳۰۰ و سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۴۰۰)

غرض فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمتہ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام ”حجون“ (جنتہ المعلیٰ) کے پاس گاڑا جائے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بلائی حصہ یعنی ”کدا“ کی طرف سے مکہ میں داخل ہوں۔ (بخاری ج ۲ ص ۲۱۳)

تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان شاہی جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے ہیں کہ۔

جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے!

جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے!

جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔!

اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ابوسفیان ایک فخر پسند آدمی ہے اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ۔

”جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے!“  
 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ  
 اپنی اونٹنی ”قصواء“ پر سوار تھے اور آپ ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ اور  
 بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر ”مغفر“ تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق  
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آپ کے  
 چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں میں دو با ہوا لشکر تھا۔ جس کے درمیان کوکعبہ  
 نبوی تھا۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت کی شان تواضع کا یہ عالم  
 تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے  
 ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع  
 خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنے عجز و نیاز مندی کا اظہار  
 کرنے کے لیے تھی۔ (زرقانی ج ۲ ص ۳۲۰ و ص ۳۲۱)

### بیت اللہ میں داخلہ

پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد  
 حرام کی طرف روانہ ہوئے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ جی کعبہ کے  
 کلید بردار بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا۔ اور کعبہ کا  
 طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ (بخاری ج ۲ ص ۶۱۴)

کعبہ کے اندرون حصار تین سو ساٹھ بتوں کی قطار تھی۔ آپ خود بہ نفس نفیس ایک  
 چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کی نوک سے ٹھونکے مار مار کر گراتے جاتے تھے۔  
 اور ”جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ“ کی آیت تلاوت فرماتے تھے یعنی حق آ گیا اور باطل  
 مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ (بخاری ج ۲ ص ۶۱۴ فتح مکہ)

پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم فرمایا جب  
 تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا۔ تو آپ اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال  
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ جی کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور  
 تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی اور دو رکعت نماز بھی پڑھی۔

(بخاری ج ۱ ص ۲۱۸ و بخاری ج ۲ ص ۶۱۴)

کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ( خذُوهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لَا يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ ) یعنی لو یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی۔ یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ (زرقاتی ج ۲ ص ۲۲۹)

### شہنشاہ دو عالم کا دربار عام

اس کے بعد حرم الہی میں آپ نے سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کے عوام و خواص کا ایک زبردست اثر دھام تھا۔ اس دربار میں آپ نے خطبہ دیا اور پھر اہل مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ بولو۔ تم کو معلوم ہے؟ کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔

اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے تمام مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر سب یک زبان ہو کر بولے کہ ”آخ“ ”کَرِيمٌ“ ”أَبْنُ آخِ كَرِيمٍ“ یعنی آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کا فاتح مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ۔

لَا تَشْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ فَادْهَبُوا  
أَنْتُمْ الطُّلَقَاءُ  
آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ جاؤ! تم سب آزاد ہو۔

بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رحمت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشکبار ہو گئیں اور کفار کی زبانوں پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ کے نعروں سے حرم کعبہ کے درودیوار پر بارش انوار ہونے لگی۔ مجرموں کی نظر میں ناگہاں ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سماں ہی بدل گیا۔ فضا ہی پلٹ گئی۔ اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ۔

جہاں تاریک تھا، ظلمت کدہ تھا سخت کالا تھا  
کوئی پردے سے نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا

### فتح مکہ کی تاریخ

اس میں بڑا اختلاف ہے کہ مکہ مکرمہ کون سی تاریخ میں فتح ہوا؟ امام بیہقی نے ۱۳

رمضان، امام مسلم نے ۱۶ رمضان، امام احمد نے ۱۸ رمضان بتایا۔ مگر محمد بن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ ۲۰ رمضان ۸ ہجری کو مکہ فتح ہوا۔  
(واللہ تعالیٰ اعلم) (زُرْقَانِي ج ۲ ص ۲۹۹)

فتح مکہ کی پیشین گوئیاں اور بشارتیں قرآن کریم کی چند آیتوں میں مذکور ہیں۔ ان میں سے سورہ نصر بھی ہے۔ چنانچہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ۔

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ  
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا  
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا  
(سورة نصر پارہ ۳۰)

جب اللہ کی مدد اور فتح (مکہ) آجائے اور اے محبوب! آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں۔ اور اس سے بخشش طلب کریں۔ بیشک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے!

### درس ہدایت

فتح مکہ کے واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضور رحمتہ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر عفو و درگزر اور رحم و کرم کا جو اعلان و اظہار فرمایا۔ تاریخ عالم میں کسی فاتح کی زندگی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی!

غور فرمائیے کہ اشرف قریش کے ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھر کی بارش کر چکے تھے۔ وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بارہا آپ پر قاتلانہ حملے کئے تھے۔ وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید اور آپ کے چہرہ انور کو لہولہان کر ڈالا تھا۔ وہ اوباش بھی تھے جو برسہا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ وہ سفاک اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ وہ جفاکار و خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ کے درود یوار ہل

Najia



چکے تھے۔ وہ ستمگار بھی تھے جنہوں نے حضور الصلوٰۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ اور ان کی ناک کان کاٹنے والے ان کی آنکھیں پھوڑنے والے ان کا جگر چبانے والے بھی مجمع میں موجود تھے۔ وہ بے رحم بھی تھے جنہوں نے شمع نبوت کے جاں نثار پر وانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زیاد بن وشنہ رضی اللہ عنہم کو رسیوں سے باندھ باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ریتوں پر لٹایا تھا۔ کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کونلوں پر سلایا تھا۔ کس کو سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا تھا۔ یہ تمام جو رو جفا اور ظلم و ستمگاری کے پیکر جن کے جسم کے رو نگٹے رو نگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے شرمناک مظالم اور خوفناک جرموں کے پہاڑین چکے تھے۔ آج یہ سب کے سب دس بارہ ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے۔ اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کوؤں کو کھلا دی جائیں گی۔ اور انصار و مہاجرین کی غضب ناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں نہلا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی۔ اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے تہس نہس کر دیں گی۔ مگر ان سب مجرمین کو رحمت عالم نے یہ کہہ کر معاف فرما دیا کہ انتقام تو کیسا؟ بدلاتو کہاں کا؟ آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں۔ اے آسمان بول، اے زمین بتا، اے چاند و سورج تم بولو، کیا تم نے روئے زمین پر ایسا فاتح اور ایسا رحم دل شہنشاہ کبھی دیکھا ہے؟ یا کبھی سنا ہے؟ سن لو تمہارے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا اور کوئی فاتح نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہر کمال میں بے مثل و بے مثال ہیں!

مسلمانو! یہ ہے ہمارے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ۔ لہذا ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے پیارے رسول کے اسوہ حسنہ اور سیرت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے دشمنوں سے بدلہ اور انتقام لینے کا جذبہ اپنے دل سے نکال کر اپنے دشمنوں کو درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی کوشش کریں۔ کیوں کہ لوگوں کی تقصیرات اور

خطاؤں کو معاف کر دینا یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یہی امت کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ جیسا کہ آپ گزشتہ صفحات میں یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ ”صَلِّ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَاحْسِنُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ كَ“ یعنی جو تم سے تعلق کاٹے تم اس سے میل ملاپ رکھو اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کرو۔ اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرو۔ اور قرآن مجید میں بھی عفو تقصیر اور دشمنوں سے درگزر کر دینے والوں کو بڑے بڑے درجات و مراتب بیان کئے گئے ہیں ارشادِ باری ہے کہ ”وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ“ یعنی لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ اور بڑے درجات والے ہیں۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

نہم امین



## (۶۴) جادو کا علاج

روایت ہے کہ لبید بن اعصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا جس کا اثر حضور کے جسم مبارک پر نمودار ہوا۔ لیکن آپ کے قلب اور عقل و اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہیں ہو سکا۔ چند روز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے۔ اور جادو کا کچھ سامان ہے وہ فلاں کنوئیں میں ایک پتھر کے نیچے دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنوئیں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا۔ تو اس کے نیچے سے کھجور کے گانے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے۔ اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈورایا گمان کا چلہ جس میں گیارہ گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اور ایک موم کا پتلا جس میں گیارہ سوئیاں چھبی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور یہ سب سامان حضور کی خدمت میں لایا گیا۔

اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں سورتیں ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ“ اور ”قُلْ أَعُوذُ

بِرَبِّ النَّاسِ“ نازل ہوئیں۔ ان دونوں سورتوں میں گیارہ آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بالکل شفا یاب ہو گئے (تفسیر خزائن العرفان) اور جادو کا سارا سامان زیر زمین دفن کر دیا گیا۔

درس ہدایت:

تعویذات اور عملیات جس میں کوئی لفظ کفر یا شرک کا نہ ہو جائز ہیں اسی طرح گندے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین اسی پر ہیں۔ اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے اور بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع فرما کر سورہ قل هو اللہ وسورہ قل اعوذ برب الفلق وسورہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے ہاتھوں کو پھرایا کرتے تھے۔ جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے۔ یہ عمل تین مرتبہ فرماتے!

خلاصہ یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں سورتیں جن و شیاطین اور نظر بد و آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں اور گلے میں پہنائیں۔ اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک ماریں اور مریض کو کھلائیں پلائیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہر مرض خصوصاً جادو ٹونا دفع ہو جائے گا۔ اور مریض شفا یاب ہو جائے گا۔

اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام سورتوں کے خصوصی خواص ہیں۔ جن کو ہم نے اپنی کتاب ”جنتی زیور“ میں تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیا ہے۔ اور ان اعمال کی ہر سنی مسلمان پابند شریعت کو ہم نے اجازت بھی دے دی ہے۔ لہذا سنی مسلمان کو چاہئے کہ وہ ان اعمال قرآنی کے فوائد و منافع سے خود بھی فیضیاب ہوں۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ”خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ“ یعنی بہترین آدمی وہ

ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

### ترجمہ سورۃ الفلق

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝  
شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ  
إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّثَاتِ  
فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ  
إِذَا حَسَدَ ۝ (الفلق ۳۰)

اے محبوب! تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو  
صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی سب مخلوق کے  
شر سے۔ اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے  
جب وہ ڈوبے اور ان عورتوں کے شر سے جو  
گرہوں میں پھونکتی ہیں۔ اور حسد کرنے والے  
کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔

### ترجمہ سورۃ الناس

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝  
النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ  
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي  
يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنْ  
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝ (الناس پارہ ۳۰)

اے محبوب! تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو  
سب لوگوں کا رب سب لوگوں کا بادشاہ سب  
لوگوں کا خدا ہے۔ اس کے شر سے جو دل میں  
برے خیالات ڈال کر دبا رہے۔ وہ  
(شیاطین) جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے  
ڈالتے ہیں۔ کچھ جن ہیں اور کچھ انسان ہیں۔

## (۶۵) حضرت خضر کی بتائی ہوئی دعاء

حضرت علامہ محمد بن سماک بہت جلیل القدر محدث اور باکرامت ولی تھے۔ ایک مرتبہ  
یہ بہت سخت بیمار ہو گئے تو ان کے متوسلین ان کا قارورہ لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس  
چلے۔ راستے میں ان لوگوں کو ایک بہت ہی خوش پوشاک بزرگ ملے جن کے بدن سے  
بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ  
حضرت محمد بن سماک بہت سخت علیل ہیں یہ ان کا قارورہ ہے جس کو ہم فلاں طبیب کے پاس  
لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ان بزرگ نے فرمایا کہ سبحان اللہ۔ ایک اللہ کے ولی کے لیے  
تم لوگ ایک اللہ کے دشمن سے مدد طلب کر رہے ہو؟ قارورہ پھینک کر واپس جاؤ۔ اور محمد بن

سماک سے کہہ دو کہ مقام درد پر **وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ** پڑھ کر دم کریں۔ یہ فرما کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ اور لوگوں نے واپس آ کر حضرت محمد بن سماک سے ذکر کیا۔ تو آپ نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر آیت کے ان دونوں جملوں کو پڑھا تو فوراً ہی آرام ہو گیا۔ پھر حضرت محمد بن سماک نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ بزرگ جنہوں نے تم لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا تمہیں یہ خبر ہے کہ وہ کون بزرگ تھے؟ لوگوں نے کہا کہ جی نہیں۔ ہم لوگوں نے انہیں نہیں پہچانا۔ تو حضرت محمد بن سماک نے فرمایا کہ وہ بزرگ حضرت خضر علی نبینا وعلیہ السلام تھے۔ (مدارک التنزیل ج ۲ ص ۳۲۰)

قرآن مجید کی آیت کا اتنا سا ٹکڑا ہر مرض کی مکمل دوا اور مجرب علاج ہے۔ مرض کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھ دیا جائے تو بیماری دور ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا پابند شریعت اور صدق مقال و رزق حلال پر کار بند ہو۔ بلاشبہ یہ آیت شفاء امراض کے لیے قرآن مجید کے عجائب میں سے ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ.

## تلاوت کی اہمیت و آداب

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پانچ طریقوں پر نازل ہوا۔ حلال و حرام و محکم و متشابہ اور امثال۔ تو تم لوگ حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو اور محکم پر عمل کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ اور مثلوں (گزشتہ امتوں کے قصوں اور مثالوں سے عبرت حاصل کرو!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَّلَ  
الْقُرْآنُ عَلٰى خَمْسَةِ اَوْجِهٍ حَلَالٌ  
وَحَرَامٌ وَمُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ  
وَامْثَالٌ وَاَعْمَلُوا بِالْمُحْكَمِ  
وَامِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ وَاَعْتَبِرُوا  
بِالْاَمْثَالِ (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۳)

قرآن عظیم کے مذکورہ بالا پانچوں مضامین پر مطلع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو بغور اور بار بار سمجھ کر پڑھا جائے۔ اسی لیے تلاوت قرآن مجید کا اس قدر زیادہ ثواب ہے کہ ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں یعنی مثلاً کسی نے صرف الم پڑھا

اور اس کی تلاوت مقبول ہوگئی تو اس کو تیس نیکیاں ملیں گی کیونکہ اس نے قرآن کے تین حروف کو پڑھا ہے۔

### تلاوت کے چند آداب:

(۱) مسواک کر کے صحیح طریقے سے وضو کر لے اور قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے اور اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ پڑھ کر الفاظ و معانی میں غور و فکر کرتے ہوئے دل کو پوری طرح متوجہ کر کے خضوع و خشوع اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو۔ اور نہ بہت بلند آواز سے پڑھے اور نہ بہت پست آواز کرے۔ بلکہ درمیانی آواز سے پڑھے۔

(۲) بہتر یہ ہے کہ دیکھ کر تلاوت کرے کیونکہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور دو عبادتوں میں ثواب بھی دو گنا ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی اس کے لیے دو ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے زبانی پڑھا اس کے لیے ایک ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی۔ (کنز العمال ج ۲ ص ۷۷۷)

(۳) تین دن سے کم میں قرآن کریم نہ ختم کرے بلکہ کم از کم تین دن یا ساتھ دن یا چالیس دن میں قرآن کریم ختم کرے تاکہ معنی و مطالب کو سمجھ کر تلاوت کرے۔

(۴) ترتیل کے ساتھ اطمینان سے اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرے ارشاد ربانی ہے۔  
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً۔ یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھو۔ اس میں کئی فائدے ہیں اولاً تو اس سے قرآن مجید کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور ثانیاً قرآن کریم کے عجائب و غرائب کو سوچنا اور معانی کو سمجھنا ہی تلاوت کا مقصود اعظم ہے اور یہ ترتیل کے بغیر دشوار ہے۔

(۵) بوقت تلاوت ہر لفظ کے معانی پر نظر رکھے اور وعد و وعید کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ہر خطاب میں اپنے کو مخاطب تصور کر لے اور امر و نہی اور قصص و حکایات میں اپنے آپ کو مرجع خطاب سمجھے اور احکام پر عمل پیرا ہونے اور ممنوعات سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کر لے۔

(۶) دوران تلاوت جس جگہ جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر آئے یا حفظ و امان اور سلامتی ایمان یا کسی بھی پسندیدہ چیز کا ذکر آئے تو ٹھہر کر دعا کرے اور جس جگہ جہنم اور اس

کے عذابوں کا ذکر آئے ان جیسی کسی بھی باعث خوف چیز کا تذکرہ آئے تو ٹھہر کر ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے اور خوف الہی سے رو پڑے۔ اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت بنالے۔

(۷) رات کے وقت تلاوت کی کثرت کرے کیونکہ اس وقت ذہن پر سکون اور دل مطمئن ہوتا ہے تلاوت کے لیے سب سے افضل وقت سال بھر میں رمضان شریف کے آخری دس ایام اور ذوالحجہ کے ابتدائی دس دن ہیں۔ اس کے بعد جمعہ پھر دو شنبہ پھر پنجشنبہ اور رات کو تلاوت کا بہترین وقت مغرب اور عشاء کے درمیان ہے اور اس کے بعد نصف شب کے بعد اور دن میں سب سے عمدہ صبح کا وقت ہے۔

(۸) خوش الحانی اور تجوید کے ساتھ حروف کی صحیح ادائیگی اور اوقات کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرے مگر اس کا لحاظ رہے کہ خوش الحانی کے لیے قواعد موسیقی اور گانے کے لہجوں کا ہرگز ہرگز استعمال نہ کرے۔

(۹) تلاوت کے وقت قرآن کریم کی عظمت پر نظر رکھے اور آیت کریمہ لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ یعنی اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے دیکھتے کہ وہ جھک کر اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا۔ آیت کے اس مضمون کو بوقت تلاوت اپنے ذہن میں حاضر رکھے اور خوف الہی سے پھر پور ہو کر نہایت عاجزی کے ساتھ تلاوت کرے۔

(۱۰) جو آیتیں اپنے حال کے مطابق ہوں۔ ان کو بار بار پڑھنا چاہیے اور قرآن عظیم پڑھتے وقت یہ خیال جمائے کہ گویا خداوند تعالیٰ کے حضور میں پڑھ رہا ہے جب اس منزل پہ پہنچ جائے تو یہ تصور لیا جائے کہ گویا رب کریم مجھ ہی سے خطاب فرما رہا ہے اور اس ترقی کی انتہا یہ ہے کہ یہ تصور پیدا ہو جائے کہ قرآن عظیم پڑھنے والا گویا اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات و افعال کو اس کے کلام میں دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ بلند مرتبہ صدیقین کے لیے مخصوص ہے ہر کسی و ناکس کو یہ حاصل نہیں ہوتا۔

(۱۱) جب تنہائی میں ہو تو درمیانی آواز سے تلاوت کرنا بہتر ہے لیکن اگر بلند آواز سے تلاوت کرنے میں ریاکاری کا خوف ہو یا کسی نمازی کی نماز میں خلل کا اندیشہ ہو یا کچھ لوگ گفتگو میں مصروف ہیں۔ اور ان کے تلاوت نہ سننے کا گمان ہو تو ان صورتوں میں قرآن

مجید کو آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ ایسے ہی مواقع کے لیے حدیثوں میں وارد ہوا ہے۔ کہ ”پوشیدہ عمل“ ظاہری عمل سے سترگنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔

بہر حال قرآن مجید کی تلاوت کے وقت آداب کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تاکہ دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں۔ اور ہرگز ہرگز آداب سے غفلت نہ ہونے پائے کہ یہ غفلت برکات دارین سے بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔

اللهم اجعلنا من الصديقين ولا تجعلنا من الغافلين امين بجاہ  
سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔



اَنَا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ

بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی راہ دکھاتا ہے

# غرائب القرآن

تالیف

شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ صاحب اعظمی

ملنے کا پتہ

شبیر برادریز

40 - بی اردو بازار لاہور فون 7246006

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ  
وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ

غرائب القرآن	_____	نام کتاب
علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی	_____	مصنف
۱۱۰۰	_____	تعداد
اشتیاق اے مشتاق پرنٹرز لاہور	_____	طباعت
words maker Lhr.	_____	کمپوزنگ
یکم محرم الحرام ۱۴۲۲ھ	_____	اشاعت
شبیر برادرز اردو بازار لاہور	_____	ناشر
60 روپے	_____	قیمت
60		

ملنے کا پتہ

شبیر برادرز

40 - بی اردو بازار لاہور فون 7246006

## فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۹	حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت	۷	تخلیق آدم علیہ السلام
"	حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل	۸	حضرت حوا
۵۱	منافقوں کی ایک سازش	۱۱	خلافت آدم علیہ السلام
۵۲	حضرت الیاس علیہ السلام	۱۷	علوم آدم علیہ السلام کی فہرست
۵۳	حضرت الیاس علیہ السلام کے معجزات	۱۹	ابلیس کیا تھا؟ اور کیا ہو گیا؟
"	حضرت الیاس اور قرآن	۲۲	بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب
۵۶	جنگ بدر کی بارش	۲۴	صفا و مروہ
۵۹	جنگ حنین	۲۶	ستر آدمی مرکز زندہ ہو گئے
۶۱	غار ثور	۲۸	ایک تاریخی مناظرہ
۶۳	مسجد خضار جلادی گئی	"	نمرود کون تھا
۶۶	فرعون کا ایمان مقبول نہیں ہوا؟	۳۲	انسانوں میں ہمیشہ دشمنی رہے گی
۶۹	نوح علیہ السلام کی کشتی	۳۳	آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟
۷۱	طوفان برپا کرنے والا تنور	۳۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری
۷۲	جودی پہاڑ	۳۹	مرتدین سے جہاد کرنیوالے
۷۳	نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا	۴۰	زمانہ رسالت کے تین مرتد قبائل
۷۵	طوفان کیوں کر ختم ہوا؟	"	خلافت صدیق اکبر کے سات مرتد قبائل
۷۷	ایک گستاخ پر بجلی گر پڑی	۴۱	دویر فاروقی کا ایک مرتد قبیلہ
۷۹	پانچ دشمنان رسول	۴۲	کافروں کی مایوسی
۸۱	تمام سواریوں کا ذکر قرآن میں	۴۳	اسلام اور سادھو کی زندگی
۸۲	اونٹ	۴۷	دو بڑے اور ایک چھوٹا دشمن
۸۳	گھوڑا	۴۸	انبیاء علیہم السلام کے قاتل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱۸	ابو جہل کی گردن کا طوق	۸۳	خچر
۱۲۰	حاملانِ عرش کی دعا	۸۴	گدھا
۱۲۱	صاحبِ اولاد اور بانجھ	۸۵	شہد کی مکھی
۱۲۳	بیٹیاں	۸۷	کھوسٹ عمر والا
۱۲۴	فاسق کی خبر پر اعتماد مت کرو!	۸۹	بے وقوف بڑھیا
۱۲۶	ملائکہ مہمان بن کر آئے	۹۰	حضور گاؤں کی بربادی
۱۲۸	چاند دو ٹکڑے ہو گیا!	۹۱	حضرت ذوالکفل علیہ السلام
۱۳۰	کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ	۹۳	نہریں اٹھالی جائیں گی
۱۳۲	لوہا آسمان سے اتر رہا ہے	۹۴	مخلیقِ انسانی کے مراحل
۱۳۳	صحابہ کرام کی سخاوت	۹۵	مبارک درخت
۱۳۶	یہودیوں کی جلا وطنی	۹۶	اصحابِ الرس کون ہیں؟
۱۳۸	ایک عجیب وظیفہ	۹۹	اصحابِ ایکہ کی ہلاکت
۱۳۹	حکایتِ عجیبہ	۱۰۱	ایک ضروری توضیح
۱۴۱	پانچ مشہور اور پرانے بت	"	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت
۱۴۲	ابو جہل اور خدا کے سپاہی	۱۰۳	مکڑی کا گھر
۱۴۶	شبِ قدر	۱۰۴	مکڑی
۱۴۷	مومنوں کو ملائکہ کی سلامی	"	حضرت لقمان حکیم
"	شبِ قدر کون سی رات ہے	۱۰۶	حکمت کیا ہے؟
۱۴۸	شبِ قدر کی نماز اور دعائیں	"	امانت کیا ہے؟
"	زمین بات چیت کرے گی	۱۰۸	جن اور جانور فرمانبردار
۱۵۰	مجاہدین کے گھوڑوں کی عظمت	۱۱۱	ہوا پر حکومت
۱۵۱	قریش کے دو سفیر	۱۱۲	تانے کے چشمے
۱۵۳	کفر و اسلام میں مفاہمت غیر ممکن	۱۱۴	حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے
۱۵۴	اللہ تعالیٰ کی چند صفتیں	۱۱۵	پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح
۱۵۵	علوم و معارف کا ختم ہونی والا خزانہ	۱۱۷	فرشتوں کے بال و پر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مَبْسُلاً وَمَحْمِداً وَمُصَلِّیاً

## تعارف

بجہ تعالیٰ ”عجائب القرآن“ طبع ہو جانے کے بعد جو ۶۵ عنوانوں پر قرآنی عجائبات کا بہترین گلدستہ ہے۔ اب قرآن مجید کے مزید چند عجائبات اور تعجب خیز و حیرت انگیز واقعات کا مجموعہ جو ستر عنوانوں پر مشتمل ہے۔ نیز ان عنوانات سے تعلق رکھنے والی آیتوں کا ترجمہ و تفسیر و شان نزول و نکات و درس ہدایت ”غرائب القرآن“ کے نام سے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

”عجائب القرآن“ اور ”غرائب القرآن“ یہ دونوں کتابیں قرآن مجید کے مضامین پر ایام علالت میں میری محنتوں کا ثمر ہیں۔ مولیٰ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل میری ان دینی تصنیفات کو قبولیت دارین کی کرامتوں سے سرفراز فرمائے اور میرے لئے نیز میرے والدین و اساتذہ و تلامذہ و مریدین کے لئے زاد آخرت و ذریعہ مغفرت بنائے اور میرے نواسہ عزیز القدر مولانا فیض الحق صاحب کو فیضان علم و عمل و برکات دارین کی دولتوں سے مالا مال فرمائے کہ وہ اس کتاب کی تدوین و تہذیب میں میرے شریک کار بنے رہے۔ ﴿آمین﴾

ناظرین کرام سے ملتجیانہ گزارش ہے کہ وہ میری کھل صحت و عافیت کے لئے دعائیں کرتے رہیں تاکہ میں صحت یاب ہو کر آخری حیات تک درس حدیث شریف و مواعظ و تصنیفات کا کام جاری رکھ سکوں۔

وما ذالک علی اللہ بعزیز ☆ وهو حسبی ونعم الوکیل  
وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد والہ وصحبہ اجمعین

عبدالمصطفیٰ الاعظمی عفی عنہ

گھوسی ۲۳ - رمضان ۱۴۰۲ھ

## حمد

تیرے در پر اے کریم ذوالجلال کر رہا ہوں ہاتھ پھیلائے سوال  
 سر ہے اور سجدہ ترا اے بے نیاز بندہ عاجز کو کر دے سرفراز  
 قادر و قیوم اے عاجز نواز ہم غریبوں کا ہے تو ہی کار ساز  
 چشم و دل کو دے وہ نور ذوالجلال ہر طرف آئے نظر تیرا جمال  
 از طفیل مصطفیٰ و مرتضیٰ  
 مجھ کو اب ہے تجھ سے تیری التجا

## نعت

فخر کون و مکاں پیشوائے انام آپ کی ذات والا پہ لاکھوں سلام  
 افضل العالمین واجب الاحترام آپ کی ذات والا پہ لاکھوں سلام  
 جن و انس و ملک آپ کے سب غلام آپ کی ذات والا پہ لاکھوں سلام  
 مصلح زندگی آپ کا ہر پیام آپ کی ذات والا پہ لاکھوں سلام  
 آپ کا دو جہاں سے ہے بالا مقام  
 آپ کی ذات والا پہ لاکھوں سلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مَسْلَمًا وَّ مُحَمَّدًا وَّ مَصْلِیًّا

## (۱) تخلیق آدم علیہ السلام

حضرت آدم علیہ السلام کے نہ ماں ہیں نہ باپ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کے مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آگئی جس میں ساٹھ رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں۔ یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد وغیرہ رنگوں والی اور نرم و سخت شیریں و تلخ، نمکین و پھسکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ (خازن ج ۱، ص ۳۶ و جمل ج ۱ ص ۳۹)

پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھنے کا حکم فرمایا چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی پھر ایک مدت تک یہ گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتھنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے ”الحمد لله“ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”یرحمک اللہ“ یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اے ابو محمد (آدم) میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لئے بنایا ہے پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ (خازن ج ۱ ص ۳۶)

ترمذی اور ابوداؤد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی اسی لئے آپ کی اولاد یعنی

انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہو گئے۔

(خازن ج ۱ ص ۴۶)

حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابوالبشر اور آپ کا لقب "خليفة الله" ہے اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے نو سو ساٹھ برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد ایک لاکھ ہو چکی تھی جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ (خازن ج ۱ ص ۴۷ و صاوی ج ۱ ص ۲۰)

قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ

ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ☆  
ان مثل عیسیٰ (علیہ السلام) کا حال آدم (علیہ السلام) کی طرح ہے کہ انہیں مٹی سے بنایا۔ پھر فرما دیا کہ ہو جاؤ تو فوراً ہو گیا۔

دوسری آیت میں اس طرح فرمایا کہ

انا خلقنہم من طین لازب  
بیشک ہم نے انسانوں کو چپکتی مٹی سے بنایا۔

﴿الصافات ع ۱﴾

کہیں یہ فرمایا کہ

ولقد خلقنا الانسان من صلصال من  
جواصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔

حضرت حوا

جب حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرما دیا اور آپ گہری نیند سو گئے تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں سب سے چھوٹی پسلی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن سے جدا کر دیا اور اس ہڈی کی جگہ گوشت پیدا فرما دیا پھر اسی پسلی کی ہڈی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ اسی لئے ہر مرد کے دائیں طرف اٹھارہ پسلیاں ہیں اور بائیں طرف ایک کم یعنی سترہ پسلیاں ہیں۔

پسلی کے جدا ہونے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی بلکہ آپ کو



احساس بھی نہیں ہوا کہ میری ایک پسلی جدا ہوگئی ہے جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو؟ اور کس لئے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لئے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خداوند قدوس کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کرتے رہیں۔

(صاوی ج ۱ ص ۲۲)

قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے بارے میں ارشاد فرمایا مثلاً۔  
 وخلق منها زوجها و بث منهما  
 رجالا كثيرا و نساء  
 اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور  
 عورتوں کو پیدا فرمایا۔

### درس ہدایت

حضرت آدم و حوا علیہما السلام کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر آبدار کے انبار پوشیدہ ہیں جن میں سے چند یہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس بیان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ خلاق عالم جل جلالہ نے انسانوں کو چار طریقوں سے پیدا فرمایا ہے۔

اول۔ یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج یعنی ہم نے انسان کو مرد و عورت کے ملے جلے نطفہ سے پیدا فرمایا ہے۔

دوئم۔ یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت حوا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا دیا۔

سوئم۔ یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوئے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

ہیں جو پاک دامن کنواری نبی نبی مریم کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔  
 چہارم - یہ کہ بغیر عورت و مرد کے بھی ایک انسان کو خداوند قدوس نے پیدا فرما دیا اور  
 وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنا دیا۔  
 ان واقعات سے مندرجہ ذیل اسباق کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔

(۱) خداوند قدوس ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی  
 طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جس طرح  
 چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے چنانچہ مذکورہ بالا چار طریقوں سے اس نے انسانوں کو پیدا  
 فرما دیا جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم الشان خلاقیت کا نشان اعظم ہے۔

سبحان اللہ! خداوند قدوس کی شان خالقیت کی عظمت کا کیا کہنا؟ جس خلاق عالم نے  
 عرس و کرسی اور لوح و قلم اور زمین و آسمان کو "کن" فرما کر موجود فرما دیا اس کی قدرت کاملہ  
 اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسانی کی بھلا حقیقت و حیثیت ہی کیا ہے؟ لیکن اس میں کوئی  
 شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قادر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی  
 مثال نہیں کیونکہ وجود انسان عالم خلق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک جامع مرقع ہے۔  
 اللہ اکبر! کیا خوب ارشاد فرمایا مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ۔

اتحسب انک جرم صغیر

وفیک انطری العالم الاکبر

یعنی اے انسان! کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے؟ حالانکہ تیری  
 عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمٹا ہوا ہے۔

(۲) ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا  
 عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ  
 اگر ہم عورتیں نہ ہوتیں تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورت  
 و مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا  
 نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چاروں طریقوں سے انسانوں کو پیدا فرما کر عورتوں اور  
 مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو! ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا کو تنہا مرد یعنی  
 حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا لہذا اے عورتو! تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر

عورتیں نہ ہوتیں تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیہ فرمادی کہ اے مردو! تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی دیکھ لو! ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرمادیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند فرمادیا کہ اے عورتو اور مردو! تم کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو! حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہیں نہ ماں بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرمادیا۔

سبحان اللہ! سچ فرمایا اللہ جل جلالہ نے کہ اللہ خالق کل شئی و هو الواحد القہار ☆ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ ایک ہے جو بہت ہی غلبے والا ہے وہ جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرمادیتا ہے اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طور طریقوں کی بندشوں کے محتاج نہیں ہیں وہ فعال لما یرید ہے۔ یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کی شان یفعل اللہ ما یشاء ویفعل اللہ ما یرید ہے۔ یعنی جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے نہ کوئی اس کی مشیت و ارادہ میں دخل انداز ہو سکتا ہے نہ کسی کو اس کے کسی کام میں چوں و چرا کی مجال ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۲) خلافت آدم علیہ السلام

حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ”خلیفہ اللہ“ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں میں جو مکالمہ ہوا وہ بہت ہی تعجب خیز ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی فکر انگیز و عبرت آموز بھی ہے جو حسب ذیل ہے۔

”اللہ تعالیٰ“ اے فرشتو! میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گا۔

”ملائکہ“ اے باری تعالیٰ! کیا تو زمین میں ایسے شخص کو اپنی خلافت و نیابت کے شرف سے

سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گری سے خون ریزی کا بازار گرم کرے گا؟

اے خداوند تعالیٰ! اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حق دار تو ہم ملائکہ کی جماعت ہے کیونکہ ہم ملائکہ نہ زمین میں فساد پھیلائیں گے نہ خون ریزی کریں گے بلکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری سبوحیت کا اعلان اور تیری قدوسیت اور پاکی کا بیان کرتے رہتے ہیں اور تیری تسبیح و تقدیس سے ہر لحظہ دہر آن رطب اللسان رہتے ہیں اس لئے ہم فرشتوں کی جماعت ہی میں سے کسی کے سر پر اپنی خلافت و نیابت کا تاج رکھ کر اس کو "مخليفة الله" کے معزز لقب سے سربلند فرما۔

"اللہ تعالیٰ" اے فرشتو! آدم (علیہ السلام) کے خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں تم گروہ ملائکہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو نہیں جانتے۔

فرشتے باری تعالیٰ کے اس ارشاد کو سن کر اگرچہ خاموش ہو گئے مگر انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ اللہ تعالیٰ خواہ کسی کو بھی اپنا خلیفہ بنا دے مگر وہ فضل و کمال میں ہم فرشتوں سے بڑھ کر نہ ہوگا کیونکہ ہم ملائکہ فضیلت کی جس منزل پر ہیں وہاں تک کسی مخلوق کی بھی رسائی نہ ہو سکے گی۔ اس لئے فضیلت کے تاجدار بہر حال ہم فرشتوں کی جماعت ہی رہے گی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم ان کو عطا فرما دیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا حسب ذیل مکالمہ ہوا۔

"اللہ تعالیٰ" اے فرشتو! اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی تو تم تمام ان چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے پیش نظر کر دیا ہے۔

"ملائکہ" اے اللہ تعالیٰ! تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا ہے اس کے سوا ہمیں اور کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے ہم بالیقین یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ بلاشبہ علم و حکمت کا خالق و مالک تو صرف تو ہی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے آدم (علیہ السلام) تم ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دو تو حضرت آدم علیہ

السلام نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتا دیا جس کو سن کر فرشتے متعجب و محو حیرت ہو گئے۔

”اللہ تعالیٰ“ اے فرشتو! کیا میں نے تم سے یہ نہیں فرما دیا تھا کہ میں آسمان و زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں اور تم جو علانیہ یہ کہتے تھے کہ آدم (علیہ السلام) فساد برپا کریں گے اس کو بھی میں جانتا ہوں اور تم جو خیالات اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے کہ کوئی مخلوق تم سے بڑھ کر افضل نہیں پیدا ہوگی میں تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ان خیالات کو بھی جانتا ہوں۔

پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فضل کمال کے اظہار و اعلان کے لئے اور فرشتوں سے ان کی عظمت و فضیلت کا اعتراف کرانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو چنانچہ سب فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ سے انکار کر دیا اور تکبر کیا تو کافر ہو کر مردود بارگاہ ہو گیا۔

اس پورے مضمون کو قرآن مجید نے اپنے معجزانہ طرز بیان میں اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ

واذ قال ربك للملكة انى  
جاعل فى الارض خليفه ء قالوا  
اتجعل فيها من يفسد فيها  
ويسفك الدماء ونحن  
نسبح بحمدك ونقدس لك  
قال انى اعلم ما لا تعلمون ☆  
وعلم ادم الاسماء كلها ثم  
عرضهم على الملكة فقال  
انبؤنى باسماء هولاء ان كنتم  
صديقين ☆ قالوا سبحنك لا علم  
لنا الا ما علمتنا انك انت  
العليم الحكيم ☆ قال يادم

اور یاد کرو جب کہ تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ خداوند! کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تیری حمد کی تسبیح پڑھتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں تم کو ان باتوں کا علم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم (علیہ السلام) کو تمام چیزوں کا نام بتا دیا۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا کہ اے فرشتو! اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ! تو

انہم باسمائہم فلما انبہم  
 باسمائہم قال الم اقل لکم انی  
 اعلم غیب السموت والارض  
 واعلم ما تبون وما کتم  
 تکتون ☆ واذ قلنا للملئکة  
 اسجدوا لادم فسجدوا الا  
 ابلیس ؕ ابی واستکبر وکان من  
 الکفرین۔ ﴿بقرہ رکوع ۴﴾

فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ! تو تمام عیوب و  
 نقائص سے پاک ہے ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے  
 جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے بلاشبہ علم و حکمت والا تو  
 صرف تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم  
 تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو تو  
 حضرت آدم (علیہ السلام) نے ان فرشتوں کو ان  
 چیزوں کا نام بتا دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے  
 فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سبوں سے یہ نہیں  
 فرما دیا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں اور یاد کرو جب  
 ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم (علیہ السلام) کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر  
 ابلیس نے انکار اور تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا۔

ان آیات کریمہ سے مندرجہ ذیل ہدایت کے اسباق ملتے ہیں۔

### درس ہدایت

(۱) اللہ تعالیٰ کی شان فعال لما یرید ہے۔ یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے نہ کوئی  
 اس کے ارادہ میں دخل انداز ہو سکتا ہے نہ کسی کی مجال ہے کہ اس کے کسی کام میں چون و چرا  
 کر سکے مگر اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و خلافت کے بارے میں خداوند  
 قدوس نے ملائکہ کی جماعت سے مشورہ فرمایا۔ اس میں یہ ہدایت کا سبق ہے کہ باری تعالیٰ  
 جو سب سے زیادہ علم و قدرت والا ہے اور فاعل مختار ہے جب وہ اپنے ملائکہ سے مشورہ  
 فرماتا ہے تو بندے جن کا علم اور اقتدار و اختیار بہت ہی کم ہے تو انہیں بھی چاہئے کہ وہ جب  
 کسی کام کا ارادہ کریں تو اپنے مخلص دوستوں اور صاحبان عقل ہمدردوں سے اپنے کام کے  
 بارے میں مشورہ کر لیا کریں کہ یہ اللہ عزوجل کی سنت اور اس کا مقدس دستور ہے۔

(۲) فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ فسادی اور  
 خون ریز ہیں لہذا ان کو خلافت الہیہ سے سرفراز کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو  
 خلافت کا شرف بخشا جائے کیونکہ ہم ملائکہ خدا کی تسبیح و تقدیس اور اس کی حمد و ثنا کو اپنا شعار

سیدنا

زندگی بنائے ہوئے ہیں لہذا ہم ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ خلافت کے مستحق اور حقدار ہیں۔

فرشتوں نے اپنی یہ رائے اس بناء پر دی تھی کہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھ لیا کہ پیدا ہونے والے خلیفہ میں تین قوتیں باری تعالیٰ ودیعت فرمائے گا ایک قوت شہویہ دوسری قوت غصبیہ تیسری قوت عقلیہ اور چونکہ قوت شہویہ اور قوت غصبیہ ان دونوں سے لوٹ مار اور قتل و غارت وغیرہ قسم قسم کے فسادات رونما ہوں گے اس لئے فرشتوں نے باری تعالیٰ کے جواب میں یہ عرض کیا کہ اے خداوند تعالیٰ! کیا تو ایسی مخلوق کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں قسم قسم کے فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گری سے زمین میں خون ریزی کا طوفان لائے گا اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تو ہم فرشتوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے کیونکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح پڑھتے ہیں اور تیری تقدیس اور پاکی کا چرچا کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر فرشتوں کو خاموش کر دیا کہ میں جس مخلوق کو خلیفہ بنا رہا ہوں اس میں جو جو مصلحتیں اور جیسی جیسی حکمتیں ہیں ان کو بس میں ہی جانتا ہوں تم فرشتوں کو ان حکمتوں اور مصلحتوں کا علم نہیں ہے۔

وہ مصلحتیں اور حکمتیں کیا تھیں؟ اس کا پورا پورا علم تو صرف علام الغیوب ہی کو ہے مگر ظاہر طور پر ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں قوت شہویہ و قوت غصبیہ کو فساد و خون ریزی کا منبع اور سرچشمہ سمجھ کر ان کو خلافت کا اہل نہیں سمجھا مگر فرشتوں کی نظر اس پر نہیں پڑی کہ حضرت آدم علیہ السلام میں قوت شہویہ اور قوت غصبیہ کے ساتھ ساتھ قوت عقلیہ بھی ہے اور قوت عقلیہ کی یہ شان ہے کہ اگر وہ غالب ہو کر قوت شہویہ اور قوت غصبیہ کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنا لے تو قوت شہویہ و قوت غصبیہ بجائے فساد و خون ریزی کے ہر خیر و خوبی کا منبع اور ہر قسم کی صلاح و فلاح کا سرچشمہ بن جایا کرتی ہیں یہ نکتہ فرشتوں کی نگاہ سے اوجھل رہ گیا۔ اسی لئے باری تعالیٰ نے فرشتوں کے جواب میں فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے اور فرشتے یہ سن کر خاموش ہو گئے۔

اس سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ چونکہ بندے خداوند قدوس کے افعال اور اس کے کاموں کی مصلحتوں اور حکمتوں سے کما حقہ واقف نہیں ہیں اس لئے بندوں پر لازم ہے

کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر تنقید و تبصرہ سے اپنی زبان کو روکے رہیں اور اپنی کم عقلی و کوتاہ فہمی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ ایمان رکھیں اور زبان سے اعلان کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا اور جیسا بھی کیا بہر حال وہی حق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے کاموں کی حکمتوں اور مصلحتوں کو خوب جانتا ہے جن کا ہم بندوں کو علم نہیں ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں اور ان کی حکمتوں کا علم بذریعہ الہام ایک لمحہ میں عطا فرما دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کا حصول کتابوں کے سبقاً سبقاً پڑھنے ہی پر موقوف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر اپنا فضل فرما دے اس کو بغیر سبق پڑھنے اور بغیر کسی کتاب کے بذریعہ الہام چند لمحوں میں علم حاصل کرا دیتا ہے اور بغیر تحصیل علم کے اس کا سینہ علم و عرفان کا خزینہ بن جایا کرتا ہے چنانچہ بہت سے اولیائے کرام کے بارے میں معتبر روایات سے ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی کسی مدرسہ میں قدم نہیں رکھا نہ کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا نہ کبھی کسی کتاب کو ہاتھ لگایا مگر شیخ کامل کی باطنی توجہ اور فضل ربانی کی بدولت چند منٹوں بلکہ چند سیکنڈوں میں الہام کے ذریعے وہ تمام علوم و معارف کے جامع الکمالات بن گئے اور ان بزرگوں کے علمی تبحر اور عالمانہ مہارت کا یہ عالم ہو گیا کہ بڑے بڑے درسگاہی مولوی جو علوم و معارف کے پہاڑ شمار کئے جاتے تھے ان بزرگوں کے سامنے طفل مکتب نظر آنے لگے۔

(۴) ان واقعات سے معلوم ہوا کہ خدا کی نیابت اور خلافت کا دار و مدار کثرت عبادت اور تسبیح و تقدیس نہیں ہے بلکہ اس کا دار و مدار علوم و معارف کی کثرت پر ہے چنانچہ حضرت ملائکہ علیہم السلام باوجود کثرت عبادت اور تسبیح و تقدیس "مخلیفۃ اللہ" کے لقب سے سرفراز نہیں کئے گئے اور حضرت آدم علیہ السلام علوم و معارف کی کثرت کی بناء پر خلافت کے شرف سے ممتاز بنا دیئے گئے جس پر قرآن مجید کی آیات کریمہ شاہد عدل ہیں۔

(۵) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علوم کی کثرت کو عبادت کی کثرت پر فضیلت حاصل ہے اور ایک عالم کا درجہ ایک عابد سے بہت زیادہ بلند تر ہے چنانچہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال اور بلند درجات کے اظہار و اعلان کے لئے اور ملائکہ سے اس کا اعتراف کرانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو سجدہ کریں چنانچہ تمام ملائکہ نے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے



حضرت آدم کو سجدہ کر لیا اور وہ اس کی بدولت تقرب الی اللہ اور محبوبیت خداوندی کی منزل بلند پر فائز ہو گئے اور ابلیس چونکہ اپنے تکبر کی منحوسیت میں گرفتار ہو کر اس سجدہ سے انکار کر بیٹھا تو وہ مردود بارگاہ الہی ہو کر ذلت و نکبت کے ایسے عمیق غار میں گر پڑا کہ قیامت تک وہ اس غار سے نہیں سکتا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ دونوں جہاں کی لعنتوں کا حقدار بن گیا اور قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو کر دائمی عذاب نار کا سزاوار بن گیا۔

(۶) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے علم کو جانچنے اور علم کی قلت و کثرت کا اندازہ لگانے کے لئے امتحان کا طریقہ جو آجکل رائج ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ ہے کہ خداوند عالم نے فرشتوں کے علم کو کم اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو زائد ظاہر کرنے کے لئے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا تو فرشتے اس امتحان میں ناکام رہ گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔

(۷) ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاک کا پتلا کہہ کر ان کی تحقیر کی اور اپنے کو آتش مخلوق کہہ کر اپنی بڑائی اور تکبر کا اظہار کیا اور سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کیا درحقیقت شیطان کے اس انکار کا باعث اس کا تکبر تھا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر وہ بری شے ہے کہ بڑے سے بڑے بلند مراتب و درجات والے کو ذلت کے عذاب میں گرفتار کر دیتی ہے بلکہ بعض اوقات تکبر کفر تک پہنچا دیتا ہے اور تکبر کے ساتھ ساتھ جب محبوبان بارگاہ الہی کی توہین اور تحقیر کا بھی جذبہ ہو تو پھر تو اس کی شناخت و خباثت اور بے پناہ منحوسیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا اور اس کے ابلیس لعین ہونے میں کوئی شک و شبہ کیا ہی نہیں جاسکتا اس سے ان لوگوں کو عبرت آموز سبق لینا چاہئے جو بزرگان دین کی توہین کر کے اپنی عبادتوں پر اظہار تکبر کرتے رہتے ہیں کہ وہ اس دور میں ابلیس کہلانے کے مستحق نہیں تو پھر کیا ہیں۔  
واللہ تعالیٰ اعلم۔

### (۳) علوم آدم علیہ السلام کی ایک فہرست

حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اور کس قدر علوم عطا فرمائے؟ اور کن کن چیزوں کے علوم و معارف کو عالم الغیب والشہادۃ نے ایک لمحہ کے اندر ان کے سینہ

اقدس میں بذریعہ الہام جمع فرمادیا جن کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام علوم و معارف کی اتنی بلند ترین منزل پر فائز ہو گئے کہ فرشتوں کی مقدس جماعت آپ کے علمی وقار و عرفانی عظمت و اقتدار کے روبرو سر بسجود ہو گئی ان علوم کی ایک فہرست آپ قطب زمانہ حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ کی شہرہ آفاق تفسیر روح البیان شریف میں پڑھئے جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ

”اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام تمام زبانوں میں سکھا دیا اور ان کو تمام ملائکہ کے نام اور تمام اولاد آدم کے نام اور تمام حیوانات و نباتات و جمادات کے نام اور ہر چیز کی صنعتوں کے نام اور تمام شہروں اور تمام بستیوں کے نام اور تمام پرندوں اور درختوں کے نام اور جو آئندہ عالم وجود میں آنے والے ہیں سب کے نام اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام اور تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام اور جنت کی تمام نعمتوں کے نام اور ہر چیزوں اور سامانوں کے نام یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سات لاکھ زبانیں سکھائیں ہیں۔

(روح البیان ج ۱ ص ۱۰۰)

ان علوم مذکورہ بالا کی فہرست کو قرآن مجید نے اپنے معجزانہ جوامع الکلم کے انداز بیان میں صرف ایک جملہ کے اندر بیان فرمادیا ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ و علم آدم الاسماء کلھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام بتا دیا۔

### درس ہدایت

حضرت آدم علیہ السلام کے خزان علم کی ہی عظیم فہرست دیکھ کر سوچئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علوم و معارف کی یہ منزل ہے پھر حضور سید آدم و سرور اولاد آدم خلیفۃ اللہ الاعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم عالیہ کی کثرت و وسعت اور ان کی رفعت و عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ واللہ حضرت آدم علیہ السلام کے علوم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے اتنی بھی نسبت نہیں ہو سکتی جتنی کہ ایک قطرہ کو سمندر سے اور ایک ذرہ کو تمام روئے زمین سے نسبت ہے اللہ اکبر! اور کہاں

فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر  
بس قسم کھائیے امی ! تری دانائی کی

اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی ال سیدنا محمد وبارک وسلم

## (۴) ابلیس کیا تھا؟ اور کیا ہو گیا؟

ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس چالیس ہزار برس تک جنت کا خزانچی رہا اور اسی ہزار برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور بیس ہزار برس تک ملائکہ کو وعظ سناتا رہا اور تیس ہزار برس تک مقررین کا سردار رہا اور ایک ہزار برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اور چودہ ہزار برس تک عرش کا طواف کرتا رہا اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں دلی اور پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمہ سے بے خبر تھا۔ (صاوی ج ۱ و جمل ج ۱ ص ۱۴)

لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہاں میں ملعون فرما دیا اور اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نارکار کا سزاوار بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا کہ

قال ما منعک الا تسجد اذ (اللہ) نے فرمایا کہ اے ابلیس! کس چیز نے تجھے امر تک ء قال انا خیر منه ج روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا خلقتی من نار وخلقته من طین تھا۔ وہ بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے

☆ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصغرين ☆ قال انظرنى الى يوم يبعثون ☆ قال انك من المنظرين ☆ قال فما اغويتنى لاقعدن لهم صراطك المستقيم ☆ ثم لا تينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين ☆ قال اخرج منها مذبذورا لمن تبعك منهم لاملن جهنم منكم اجمعين ☆

☆ ﴿الاعراف ركوع ۲﴾

☆ مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر غور کرے۔ نکل جا تو ذلت والوں میں سے ہے ابلیس بولا کہ تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ وہ بولا کہ خداوند قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر تیرے بندوں کی تاک میں بیٹھوں گا۔ پھر ضرور ان کے آگے ان کے پیچھے اور ان کے دائیں ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا (اور بہکاؤں گا) تو اے اللہ! تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ (اے شیطان) تو یہاں سے نکل جا تو مردود ہے تو راندہ ہوا ہے جو میرے بندوں میں سے تیرے کہے پر چلے گا۔ میں ضرور تم سمجھوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔

### درس ہدایت

قرآن مجید کے اس عجیب واقعہ میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ و تابندہ تجلیاں ہیں۔ اسی لئے اس واقعہ کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے سات مقامات میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی سورۃ بقرہ سورۃ اعراف سورۃ حجر سورۃ بنی اسرائیل سورۃ کہف سورۃ طہ سورۃ ص میں اس دل ہلا دینے والے واقعہ کا تذکرہ مذکور ہے جس سے مندرجہ ذیل حقائق کا درس ہدایت ملتا ہے۔

(۱) اس سے ایک بہت بڑا درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہئے اور کسی گھنکار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہئے کیونکہ انجام کیا ہوگا؟ اور خاتمہ کیسا ہوگا۔ عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے اور

نجات و فلاح کا دار و مدار درحقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو تو وہ جہنمی ہوگا اور بڑے سے بڑا گنہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا دیکھ لو کہ ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا اور کیسے کیسے مراتب درجات کے شرف سے سرفراز تھا مگر انجام کیا ہوا؟ کہ اس کی ساری عبادتیں غارت و اکارت ہو گئیں اور وہ دونوں جہاں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور بلندی درجات پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا مگر وہ اپنے انجام اور خاتمہ سے بالکل بے خبر تھا۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخوائیم۔ یعنی اعمال کا اعتبار خاتموں پر ہے۔

(مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۰ باب الایمان بالقدر)

خداوند کریم ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمہ سے محفوظ رکھے۔ (آمین) واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) اس سے بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل متقی ہو یا گنہگار ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے دغدغوں سے بچتا رہنا چاہئے کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کر دیا ہے کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسہ ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بھکاتا رہوں اور بہت سے بندوں کو خدا کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔

(۳) شیطان نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں چار جانبوں سے انسانوں پر حملہ آور ہونے اور وسوسہ ڈالنے کا اعلان کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان دو جانبوں سے شیطان انسانوں پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا نہ اوپر اور نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ ڈال سکے گا لہذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی پائے تو یہ ابلیس کا وسوسہ نہیں ہے بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہوا اور خداوند قدوس کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

## (۵) بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب

جب میدان ”تیه“ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ ”من و سلویٰ“ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاریوں جیسی خسیس اور گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان تیه سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک ٹوک اپنی پسند کی اور من بھاتی غذائیں کھاؤ۔ مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ! تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکشی اور شرارتوں کے عادی اور خدا کی نافرمانیوں کے خوگر تھے۔ بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رگ شرارت بھڑک اٹھی اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کر داخل ہونے کے اپنے سرینوں پر گھسٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور حطۃ (معافی کی دعائیں مانگتے ہیں) کے بدلے حبتہ فی شعرة (ایک دانہ ہے ایک بال بال میں) کہتے ہوئے اور مذاق و تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے۔ فرمان ربانی کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں پر فہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہو گیا کہ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری وبائی شکل میں پھیل گئی اور گھنٹہ بھر میں ستر ہزار بنی اسرائیل درد و کرب سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ (صاوی ج ۱ ص ۳۱ و جلا لیلین)

### طاعون

ایک مہلک وبائی بیماری ہے جس کو ڈاکٹر ”پلیگ“ کہتے ہیں۔ اس بیماری میں گردن اور بغلوں اور کنج ران میں آم کی گٹھلی کے برابر گلٹیاں نکل آتی ہیں جن میں بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور دردناک جلن سے شعلہ کی طرح جلنے لگتی ہیں اور مریض شدت درد اور شدید بے چینی و بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد مر جاتا ہے اور جس بستی میں یہ وباء پھیل جاتی ہے

اس بستی کی اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے اور ہر طرف ویرانی اور خوف و ہراس کا دور دورہ پھیل جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد

فرمایا کہ

واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا  
منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب  
سجدا وقلوا حطة نغفر لكم خطيكم  
ط وسنزيد المحسنين ☆ فبدل  
الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم  
فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من  
السماء بما كانوا يفسقون. ☆  
﴿بقرہ رکوع ۶﴾

اور جب ہم نے فرمایا کہ تم اس بستی (بیت  
المقدس) میں جاؤ پھر اس میں جہاں چاہو  
بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازہ میں جھکتے  
ہوئے داخل ہو اور یہ کہو کہ ہمارے گناہ  
معاف ہوں تو ہم تمہاری خطا میں بخش دیں  
گے تو ظالموں نے وہ بات بدل دی جو ان  
سے کہی گئی تھی تو ہم نے ان پر آسمان سے  
عذاب (طاعون) اتار دیا ان کے فسق اور  
بے حکمی کا بدلہ دینے کے لیے۔

### درسِ ہدایت

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ خداوند قدوس کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ  
تمسخر و مذاق کرنے کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے کہ آخرت کا عذاب تو  
اپنی جگہ برقرار ہی ہے دنیا ہی میں قہر الہی بصورت عذاب نازل ہو جاتا ہے جس سے لوگ  
ہلاک ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ معاذ اللہ عنہ۔

### فائدہ

طاعون بنی اسرائیل کے حق میں عذاب تھا مگر اس خیر الامم یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ  
علیہ وسلم کی امت کے حق میں یہ بیماری رحمت ہے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ  
طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ (صاوی ج ۱ ص ۳۲)

مسئلہ یہ ہے کہ جس بستی میں طاعون کی وباء پھیلی ہو وہاں جانا نہیں چاہئے اور اگر  
اپنی بستی میں طاعون آجائے تو بستی چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگنا نہیں چاہئے بلکہ طاعون کی وباء

میں اپنی بستی کے اندر خدا پر توکل کر کے صبر کے ساتھ رہنا چاہئے اگر اس بیماری میں مر گیا تو شہید ہوگا اور طاعون کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھاگنے والے پر اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جتنا کہ جہاد کے دن میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں پر گناہ ہوتا ہے اس لئے ہرگز ہرگز بھاگنا نہیں چاہئے بلکہ اس بیماری میں صبر کے ساتھ اپنی بستی ہی میں مقیم رہنا چاہئے کہ اس پر خداوند تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم!)

### (۶) صفا و مروہ

یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی میں ہیں اور آج کل تو بلند عمارتوں اور اونچی سڑکوں اور یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی کچھ بلندی رکھتی ہیں۔ انہیں دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اسی لئے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھیں اور حجاج کرام ان دونوں پہاڑیاں پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔

مگر زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام ”اساف“ تھا اور ایک عورت جس کا نام ”نائلہ“ تھا۔ ان دونوں خبیثوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کاری کر لی تو ان دونوں پر یہ قہر الہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے۔ پھر زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبہ سے اٹھا کر صفا و مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے لگے۔

پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان ’اساف و نائلہ‘ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا و مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج و گناہ نہیں بلکہ حج و عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا و مروہ کا طواف ضروری ہے۔ (صاویح ص ۶۵)

فتح مکہ کے دن حضور سید اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے



”اساف و ناکلہ“ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ

ان الصفا والمروة من شعائر الله ۛ  
 فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح  
 عليه ان يطوف بهما ۛ ومن تطوع  
 خيراً فان الله شاكر عليم ﴿البقرہ  
 رکوع ۱۹﴾

بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کے  
 نشانوں میں سے ہیں تو جو اس گھر کا حج یا  
 عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں  
 کا طواف کرے اور جو کوئی اپنی طرف سے  
 اچھی بات کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا  
 اور سب کی خبر رکھنے والا ہے

### درکِ ہدایت

صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ نے دوڑ کر پانی تلاش کیا تو ایک نبی  
 یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں  
 حضرت بی بی ہاجرہ کے قدم ان پہاڑیوں پر پڑ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کو یہ یہ عزت  
 و عظمت مل گئی کہ حضرت بی بی ہاجرہ کی ایک مقدس یادگار بن جانے کا ان دونوں پہاڑیوں کو  
 اعزاز شرف مل گیا اور یہ دونوں پہاڑیوں حج و عمرہ کرنے والوں کے لئے طواف و سعی کا ایک  
 مقبول و محرم مقام بن گئیں۔ اس سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں اور اللہ والیوں  
 سے اگر کسی جگہ کو کوئی خاص تعلق حاصل ہو جائے تو وہ جگہ بہت معزز و معظم بن جاتی ہے اور  
 ہر مسلمان کے لئے وہ جگہ قابل تعظیم و لائق احترام ہو جاتی ہے ورنہ مکہ معظمہ میں بہت سی  
 پہاڑیاں اور چھوٹے بڑے بہت سے پہاڑ ہیں مگر صفا و مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو  
 تقدس و عظمت حاصل ہے وہ کسی دوسرے پہاڑ کو حاصل نہیں اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا  
 ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں پہاڑیاں ایک اللہ والی ہی کی ایک مبارک جد و جہد کی یادگار ہیں۔

اسی پر گنبد خضراء اور اولیاء اللہ کے روضوں اور ان حضرات کی عبادت گاہوں اور  
 دوسرے مقدس مقامات کو قیاس کر لینا چاہئے کہ یہ سب خاصان خدا کی نسبت و تعلق کی وجہ  
 سے معزز و معظم اور قابل تقدس و لائق تعظیم و احترام ہیں اور ان سب جگہوں کی تعظیم و توقیر

خداوند قدوس کی خوشنودی کا باعث اور ان سب مقامات کی بے ادبی و تحقیر و قہر قہار و غضب جبار کا سبب ہے لہذا ان لوگوں کو جو گنبد خضراء اور مقابر اولیاء اللہ کی بے ادبی کرتے اور ان کو منہدم اور مسمار کرنے کا پلان بناتے رہتے ہیں ان حقائق کے ستاروں سے ہدایت کی روشنی حاصل کرنی چاہئے اور اپنی نحوستوں اور بد بختیوں سے تائب ہو کر صراطِ مستقیم کی راہ پر ثابت قدم ہو جانا چاہئے۔ خداوند قدوس اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل میں سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور صراطِ مستقیم کی شاہراہ پر چلائے۔ آمین۔

### (۷) ستر آدمی مر کر زندہ ہو گئے!

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چالیس دن کے لئے تشریف لے گئے تو سامری منافق نے چاندی سونے کے زیورات پگھلا کر ایک بچھڑے کی مورت بنا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں تلے کی مٹی اس مورت کے منہ میں ڈال دی تو وہ زندہ ہو کر بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل! حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کیلئے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے اور بچھڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچھڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا اور وہ اس بچھڑے کو پوجنے لگے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو بچھڑا پوجتے دیکھ کر بے حد ناراض ہوئے پھر غضب و جلال میں آ کر اس بچھڑے کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی ہے وہ لوگ بچھڑا پوجنے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ ستر ہزار بچھڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچھڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچھڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے اچھے ستر آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت و استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ

اے بنی اسرائیل! میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے لہذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو

اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ ستر آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ ستر آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو آپ خدا کا دیدار کرائیے ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت بہت سمجھایا مگر یہ شریر و سرکش لوگ اپنے مطالبہ پر اڑے رہ گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ ستر آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے۔ (صاوی ج ۱ ص ۳۰)

واذ قلتم یموسیٰ لن نومن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصعقۃ وانتم تنظرون ☆ ثم بعثکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون ☆  
﴿البقرہ رکوع ۶﴾

اور جب تم (بنی اسرائیل) نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے یہاں تک کہ تم علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں تو تم کو ایک کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے پھر مرجانے کے بعد تم لوگوں کو ہم نے زندہ کیا کہ تم ہمارا احسان مانو۔

### درسِ ہدایت

(۱) اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے پیغمبر کی بات نہ مان کر اپنی ضد پر اڑے رہنا بڑی ہی خطرناک بات ہے پھر ان ستر آدمیوں کا مر کر زندہ ہو جانا یہ خداوند قدوس کی قدرت کاملہ کا اظہار و اعلان ہے تاکہ لوگ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔

(۲) اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا قانون یہ

تھا کہ گناہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے۔ پھر قوم کے نیک لوگ ان کے لئے طلب معذرت اور دعا مغفرت کریں تب ان شرک کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی تھی مگر ہمارے حضور سید الانبیاء و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چونکہ آسان شریعت ہے اس لئے اس کے قانون میں توبہ قبول ہونے کے یہی کافی ہے کہ گناہ کرنے والا اگرچہ کفر و شرک کا گناہ کر لیا ہو سچے دل سے اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہو کر معافی طلب کرے اور اپنے دل میں یہ عہد و عزم کرے کہ پھر وہ یہ گناہ نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور اس کے گناہ کو معاف فرمادے گا توبہ قبول ہونے کے لئے گناہ کرنے والوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔

سبحان اللہ! یہ حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا طفیل ہے کہ وہ اپنی امت پر رؤف و رحیم اور بے حد مہربان ہیں تو ان کے طفیل اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب کی امت پر بہت زیادہ رحیم و کریم بلکہ ارحم الراحمین ہے۔

اللہم صل علی سیدنا محمد و علی ال سیدنا محمد و بارک و سلم۔

## (۸) ایک تاریخی مناظرہ

یہ نمرود اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مناظرہ ہے جس کی روئداد قرآن مجید میں مذکور ہے۔

### نمرود کون تھا

نمرود بڑے طنطنے کا بادشاہ تھا سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ ولد الزنا اور حرامی تھا۔ اس کی ماں نے زنا کر لیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا تھا کیونکہ نمرود کی ماں کا شوہر نامرد تھا اس لئے نمرود کی ماں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت اقبال مند ہوا اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف چار ہی شخصوں کو ملی جن میں سے دو مومن تھے اور دو کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تو صاحبان ایمان تھے اور نمرود بخت نصر یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت

بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف ان ہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لئے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو۔ جی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علی الاعلان فرما دیا کہ تو جھوڑا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک لہ ہے یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوادیا مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علی الاعان نمرود کو جھوٹا کہہ کہہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ (صادی ج ۱ ص ۱۰۹ و جمل ج ۱ ص ۲۱۰)

”نمرود“ اے ابراہیم! (علیہ السلام) بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟

”حضرت ابراہیم“ اے نمرود! میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے اور مارتا ہے! ”نمرود“ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں چنانچہ اس وقت اس نے دو قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت گھامڑ آدمی ہے جو ”جلانے اور مارنے“ کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لئے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا

کہ۔

”حضرت ابراہیم“ اے نمرود! میرا رب وہی ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اگر خدا ہے تو ایک دن سورج کو پچھتم سے نکال دے!

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا وعظ علی الاعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرہ کی روئیداد ان لفظوں میں بیان فرمائی ہے کہ

الم ترالی الذی حاج ابراہم فی ربہ ان اتہ اللہ الملک م اذقال ابراہم ربی الذی یحی ویمت قال انا احی و امیت ط قال ابرہم فان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب فبہت الذی کفرط واللہ لایہدی القوم الظلمین۔

(اے محبوب) کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم (علیہ السلام) سے ان کے رب کے بارے میں اس گھمنڈ پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ وہ بولا کہ میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سورج کو پورب سے لاتا ہے تو اس کو پچھتم سے لے آ تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔

﴿البقرہ رکوع ۳۵﴾

### درس ہدایت

اس واقعہ سے چند اسباق کی روشنی ملتی ہے کہ (۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند تعالیٰ کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لغزش نہیں ہوئی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے پھر اس بے رحم نے آپ پر دانہ پانی بند کر دیا۔ اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرہ کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تا کہ شاہی رعب و داب دکھا کر حضرت ابراہیم علیہ

السلام کو مرعوب کر دے لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرہ کا چیلنج قبول فرمایا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والا ہی تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک پچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوہ حسنہ سے علماء حق کو سبق لینا چاہئے کہ باطل پرستوں کے مقابلہ میں ہر قسم کے خوف و ہراس اور تکالیف سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک ڈٹے رہنا چاہئے اور یہ ایمان و یقین رکھنا چاہئے کہ ضرور ضرور نصرت خداوندی ہماری امداد و سبگیری فرمائے گی اور بالآخر باطل پرستوں کے مقابلہ میں ہم ہی فتح مند ہوں گے اور باطل پرست یقیناً خائب و خاسر ہو کر ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔

(۲) یہ ایمان و عقیدہ مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہم حق پرستوں کو غیب سے روزی کا سامان دے گا کیونکہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینا بند کر دیا اور ملک بھر مجیس ان کو کہیں ایک دانہ بھی نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے ریت اور مٹی کو ان کے لئے آنا بنا دیا اور اسلام کے اس عقیدہ کی حقانیت کا سورج چمک اٹھا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً روزی دینے والا اللہ ہی ہے جو بڑی مضبوط طاقت و قدرت والا ہے۔

بہر حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز فکر و عمل اور آپ کا یہ اسوہ تمام حق پرست عالموں کے لئے چراغ راہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے ضرور ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے یہ وہ تابندہ حقیقت ہے جو آفتاب عالم تاب سے بھی زیادہ تابناک اور روشن ہے۔ سبحان اللہ کس قدر حقیقت افروز ہے یہ شعر کہ

آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا

آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا

## (۹) انسانوں میں ہمیشہ دشمنی رہے گی

حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام نہایت ہی آرام اور چین کے ساتھ جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جنت کا جو پھل بھی چاہو بے روک ٹوک سیر ہو کر تم دونوں کھا سکتے ہو مگر صرف ایک درخت کا پھل کھانے کی ممانعت تھی کہ اس کے قریب مت جانا۔ وہ درخت گیہوں تھا یا انگور تھا چنانچہ دونوں اس درخت سے مدت دراز تک بچتے رہے لیکن ان دونوں کا دشمن ابلیس برابر تک میں لگا رہا۔ آخر اس نے ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے۔ وہ ”شجرة الخلد“ ہے یعنی جو اس درخت کا پھل کھالے گا وہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا پہلے حضرت حوا اس شیطانی وسوسہ کا شکار ہو گئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا اور وہ ناگہاں غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل کھا گئے۔

آپ نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھ لیا کہ لا تقربا هذه الجشرة کی نہی تزیہی ہے اور واقعی ہرگز ہرگز نہی تحریمی نہیں تھی ورنہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے ہرگز ہرگز اس درخت کا پھل نہ کھاتے کیونکہ نبی تو ہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے بہر حال حضرت آدم علیہ السلام سے اس سلسلے میں اجتہادی خطا سرزد ہو گئی اور اجتہادی خطا معصیت نہیں ہوتی۔

(خزائن العرفان ص ۱۲)

لیکن حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دربار الہی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے درجات پر فائز تھے اس لئے اجتہادی خطا پر بھی مورد عتاب ہو گئے فوراً ہی بہشتی لباس دونوں کے بدن سے گر پڑے اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے اور خداوند قدوس کا حکم ہو گیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر پڑو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو خاص باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد میں بعض بعض کا دشمن ہوگا کہ ہمیشہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی دوسری یہ کہ عمر بھر تم دونوں کو زمین میں ٹھہرنا ہے پھر اس کے بعد ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعہ کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ۔



فازلہما الشیطن عنہا فاخرجہما مما  
کانا فیہ ج وقلنا اہبطوا بعضکم  
لبعض عدو ج ولکم فی الارض  
مستقرومتاع الی حین۔ ﴿البقرۃ رکوع  
۴۲﴾

تو شیطان نے ان دونوں (آدم و حوا) کو  
جنت سے لغزش دی اور جہاں رہتے تھے  
وہاں سے ان دونوں کو الگ کر دیا اور ہم نے  
فرما دیا کہ نیچے اترو۔ آپس میں ایک تمہارا  
دوسرے کا دشمن ہوگا اور تمہیں ایک وقت تک  
زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔

### درسِ ہدایت

اس ارشادِ ربانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو انسانوں میں مختلف وجوہات کی بناء پر عدا  
وتیں اور دشمنیاں چل رہی ہیں یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ لاکھ کوشش کرو کہ دنیا میں لوگوں  
کے درمیان عداوت اور دشمنی کا خاتمہ ہو جائے مگر چونکہ یہ حکم خداوندی کے باعث ہے اس  
لئے یہ عداوتیں کبھی ہرگز ختم نہ ہوں گی۔ کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا۔ کبھی  
مزدور اور سرمایہ دار میں دشمنی رہے گی۔ کبھی امیر و غریب کی عداوت زور پکڑے گی۔ کبھی  
مذہبی و لسانی دشمنی رنگ لائے گی کبھی تہذیب و تمدن کے باہمی ٹکراؤ کی دشمنی ابھرے گی۔  
کبھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کی عداوت رنگ دکھائے گی الغرض دنیا میں انسانوں کی  
آپس میں عداوت و دشمنی کا بازار ہمیشہ گرم ہی رہے گا۔ اس لئے لوگوں کو اس سے رنجیدہ  
اور کبیدہ خاطر ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ اس عداوت اور دشمنی کو ختم کرنے کی  
تدابیروں پر غور و خوض کر کے پریشان خاطر ہونے سے کوئی فائدہ ہے کیونکہ جس طرح  
اندھیرے اور اجالے کی دشمنی آگ اور پانی کی دشمنی گرمی اور سردی کی دشمنی کبھی ختم نہیں  
ہو سکتی۔ ٹھیک اسی طرح انسانوں میں آپس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ عز و جل نے  
حضرت آدم و حواء کے زمین پر آنے سے پہلے ہی یہ فرما دیا ہے کہ بعضکم بعض عدو  
یعنی ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوگا تو یہ عداوت و دشمنی خلقی اور فطری ہے جو حکم الہی  
اور اس کی مشیت سے ہے تو پھر بھلا کون ہے جو اس عداوت کا دنیا سے خاتمہ کرا سکتا ہے۔  
واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۱۰) آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟

حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد تین سو برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے۔ روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کئے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف الہی سے زمین پر گرے اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ (صاوی ج ۱ ص ۴۳) بعض روایات میں ہے کہ آپ نے یہ پڑھ کر دعا مانگی کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یعنی اے اللہ! میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت ہی بلند مرتبہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو بخش دے۔ (جمل ج ۱ ص ۴۳)

اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخسیرین پڑھا یعنی اے رب پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گھانا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ (جلالین)

لیکن حاکم و طبرانی و ابونعیم و بیہقی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب الہی ہوا تو آپ توبہ کی فکر میں حیران تھے ناگہاں اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر مکتوب فرمایا ہے لہذا آپ نے اپنی دعائیں ربنا ظلمنا انفسنا کے ساتھ یہ عرض کیا کہ اسئلک بحق محمد ان تغفر لی اور ابن منذر کی روایت میں یہ کلمات بھی ہیں کہ اللہم انی اسئلک بجاہ محمد عبدک و

کرامتہ علیک ان تغفر لی خطیبتی یعنی اے اللہ! تیرے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبہ کے طفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بخش دے۔

یہ دعا کرتے ہی حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمادی اور توبہ مقبول ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ (خزائن العرفان ص ۱۲)

فتلقى ادم من ربه كلمت فتاب  
عليه و انه هو التواب رحيم.  
﴿البقرہ رکوع ۴﴾  
پھر سیکھ لئے آدم نے اپنے رب سے کچھ  
کلمات تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول  
فرمائی۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے  
والا مہربان ہے۔

### درک ہدایت

اس واقعہ سے چند اسباق پر روشنی پڑتی ہے جو یہ ہیں۔

(۱) اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ الہی کے وسیلہ سے بحق فلاں و بجاہ فلاں کہہ کر دعا

مانگنی جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔

(۲) حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ دسویں محرم کو قبول ہوئی۔ جنت سے نکلتے وقت دوسری

نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے بھلا دی گئی تھی اور بجائے اس کے سریانی

زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی تھی مگر توبہ قبول ہونے کے بعد پھر عربی زبان

بھی آپ کو عطا کر دی گئی۔ (خزائن العرفان ص ۱۲)

(۳) چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی تھی اور اجتہادی خطا معصیت نہیں ہے۔

اس لئے جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی یا ظالم کہے گا وہ نبی کی توہین کے

سبب سے کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولیٰ ہے وہ اپنے بندہ خاص حضرت آدم

علیہ السلام کو جو چاہے فرمائے۔ اس میں ان کی عزت ہے دوسرے کی کیا مجال کہ

خلاف ادب کوئی لفظ زبان پر لائے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے

کلمات کو دلیل بنائے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کے ادب و اطاعت کا

حکم فرمایا ہے لہذا ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء کرام کا ادب و احترام لازم جانیں اور ہرگز ہرگز ان حضرات کی شان میں کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جس میں ادب کی کمی کا کوئی شائبہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۱۱) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ ”حواری“ جو آپ پر ایمان لا کر اور اپنے اپنے اسلام کا اعلان کر کے اپنے تن من دھن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت و حمایت کے لئے ہر وقت اور ہر دم کمر بستہ رہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ اور ان لوگوں کو ”حواری“ کا لقب کیوں؟ اور کس معنی کے لحاظ سے دیا گیا؟

تو اس کے بارے میں صاحب تفسیر جمل نے فرمایا کہ ”حواری“ کا لفظ ”حور“ سے مشتق ہے جس کے معنی سفیدی کے ہیں چونکہ ان لوگوں کے کپڑے نہایت اور صاف تھے اور ان کے قلوب اور نیتیں بھی صفائی ستھرائی میں بہت بلند مقام رکھتی تھیں۔ اس بناء ان لوگوں کو حوری کہنے لگے اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ چونکہ یہ لوگ رزق حلال طلب کرنے کے لئے دھوبی کا پیشہ اختیار کر کے کپڑوں کی دھلائی کرتے تھے اس لئے یہ لوگ حواری کہلائے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سب لوگ شاہی خاندان سے تھے اور بہت ہی صاف اور سفید کپڑے پہنتے تھے اس لئے لوگ حواری کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں آپ کھانا کھایا کرتے تھے اور وہ پیالہ کبھی کھانے سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ کسی نے بادشاہ کو اس کی اطلاع دیدی تو اس نے آپ کو دربار میں طلب کر کے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں وہ بادشاہ آپ کی ذات اور آپ کے معجزات سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لایا اور سلطنت کا تخت و تاج چھوڑ کر اپنے تمام اقارب کے ساتھ آپ کی خدمت میں رہنے لگا چونکہ یہ شاہی خاندان بہت ہی سفید تھا اس لئے یہ سب حواری کے لقب سے مشہور ہو گئے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سفید پوش مچھیروں کی ایک جماعت تھی جو مچھیروں کا شکار کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم لوگ مچھیروں کا شکار کرتے ہو اگر تم لوگ میری پیروی کرنے پر کمر بستہ ہو جاؤ تو تم لوگ آدمیوں کا شکار کر کے

ان کو حیاتِ جاودانی سے سرفراز کرنے لگو گے ان لوگوں نے آپ سے معجزہ طلب کیا تو اس وقت شمعون نامی مچھلی کے شکاری نے دریا میں جال ڈال رکھا تھا مگر ساری رات گزر جانے کے باوجود ایک مچھلی بھی جال میں نہیں آئی تو آپ نے فرمایا کہ اب تم جال دریا میں ڈالو چنانچہ جیسے ہی اس نے جال کو دریا میں ڈالا لمحہ بھر میں اتنی مچھلیاں جال میں پھنس گئیں کہ جال کو کشتی چلانے والے نہیں اٹھا سکے چنانچہ دو کشتیوں کی مدد سے جال اٹھایا گیا اور دونوں کشتیاں مچھلیوں سے بھر گئیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر دونوں کشتی والے جن کی تعداد بارہ تھی سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان ہی لوگوں کا لقب حواری ہے اور بعض علماء کا قول ہے کہ بارہ آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان لوگوں کے ایمان کامل اور حسن نیت کی بناء پر ان لوگوں کو یہ کرامت مل گئی کہ جب بھی ان لوگوں کو بھوک لگتی تو یہ لوگ کہتے کہ یا روح اللہ! ہم کو بھوک لگی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہاتھ مار دیتے تو زمین سے دو روٹیاں نکل کر ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جایا کرتی تھیں اور جب یہ لوگ پیاس سے فریاد کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہاتھ مار دیتے اور نہایت شیریں اور ٹھنڈا پانی ان لوگوں کو مل جایا کرتا تھا اسی طرح یہ لوگ کھاتے پیتے تھے کہ اے روح اللہ! ہم مومنوں میں سب سے افضل کون گے تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کر کے کھائے یہ سن کر ان بارہ حضرات نے رزقِ حلال کے لئے دھوبی کا پیشہ اختیار کر لیا چونکہ یہ لوگ کپڑوں کو دھو کر سفید کرتے تھے اس لئے حواری کے لقب سے پکارے جانے لگے۔

اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک رنگریز کے یہاں ملازم رکھوا دیا تھا ایک دن رنگریز مختلف کپڑوں کو نشان لگا کر چند رنگوں کا رنگنے کے لئے آپ کے سپرد کر کے کہیں باہر چلا گیا آپ نے ان سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کے برتن میں ڈال کر رنگ دیا۔ رنگریز نے گھبرا کر کہا کہ آپ نے سب کپڑوں کو ایک رنگ کر دیا حالانکہ میں نے نشان لگا کر مختلف رنگوں کا رنگنے کے لئے کہہ دیا تھا آپ نے فرمایا کہ اے کپڑو! تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہی رنگوں کے ہو جاؤ جن رنگوں کا یہ چاہتا تھا چنانچہ ایک ہی برتن میں سے لال، سبز، پیلا، جن جن کپڑوں کو رنگریز جس جس رنگ کا چاہتا تھا وہ کپڑا اسی رنگ کا ہو کر نکلنے لگا آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر تمام حاضرین جو سفید پوش تھے اور جن کی تعداد

بارہ تھی سب ایمان لائے یہی لوگ ”حواری“ کہلانے لگے۔

حضرت امام قتال علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ان بارہ حواریوں میں کچھ لوگ بادشاہ ہوں اور کچھ چھیرے ہوں اور کچھ دھوبی ہوں اور کچھ رنگریز ہوں چونکہ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص جاں نثار تھے اور ان لوگوں کے قلوب اور نیتیں صاف تھیں اس بناء پر ان بارہ پاکبازوں اور نیک نفسوں کو ”حواری“ کا معزز لقب عطا کیا گیا کیونکہ ”حواری“ کے معنی مخلص دوست کے ہیں۔ (جمل ج ۱ ص ۲۷۹ و خازن ج ۱ ص ۳۵۴)

بہر حال قرآن مجید میں حواریوں کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ

فلما احس عیسیٰ منهم الکفر  
قال من انصاری الی اللہ ؕ قال  
الحواریون نحن انصار اللہ ؕ ج امننا  
باللہ و اشہد بانا مسلمون۔

تو جب حضرت عیسیٰ نے ان (یہودیوں) سے  
کفر پایا تو فرمایا۔ کون اللہ کی راہ میں میرے  
مددگار ہوتے ہیں؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم  
ہیں دین خدا کے مددگار ہم اللہ پر ایمان لائے  
اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں

﴿آل عمران رکوع ۵﴾

دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ

واذا وحیت الی الحوارین ان  
امنوا بی و برسولی قالوا امننا  
واشہد باننا مسلمون

اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا  
کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ  
بولے کہ ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ  
ہم مسلمان ہیں۔

﴿المائدہ رکوع ۱۵﴾

### درس ہدایت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اگرچہ تعداد میں صرف بارہ تھے مگر یہودیوں کے مقابلہ میں آپ کی نصرت و حمایت میں جس پامردی اور عزم و استقلال کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اس سے ہر مسلمان کو دین کے معاملہ میں ثابت قدمی کا سبق ملتا ہے۔

اس قسم کے مخلص احباب اور مخصوص جان نثار اصحاب اللہ تعالیٰ ہر نبی کو عطا فرماتا ہے چنانچہ جنگ خندق کے دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوئے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ (مشکوٰۃ ج ۲ ص ۵۶۵)

اور حضرت قتادہ کا بیان ہے کہ قریش میں بارہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حواری ہیں جن کے نام نامی یہ ہیں۔

(۱) حضرت ابوبکر (۲) حضرت عمر (۳) حضرت عثمان (۴) حضرت علی

(۵) حضرت حمزہ (۶) حضرت جعفر (۷) حضرت ابو عبیدہ بن الجراح

(۸) حضرت عثمان بن مظعون (۹) حضرت عبدالرحمن بن عوف

(۱۰) حضرت سعد بن ابی وقاص (۱۱) حضرت طلحہ بن عبید اللہ (۱۲) حضرت زبیر بن

العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ ان مخلص جاں نثاروں نے ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

نصرت و حمایت کا بے مثال ریکارڈ قائم کر دیا۔ (معالم التنزیل بغوی ج ۱ ص ۳۵۳)

## (۱۲) مرتدین سے جہاد کرنے والے

حضور اقدس صلی اللہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں چند آدمی اور وفات اقدس کے بعد بہت لوگ اسلام سے مرتد ہونے والے تھے جن سے اسلام کی بقا کو شدید خطرہ لاحق ہونے والا تھا لیکن قرآن مجید نے برسوں پہلے یہ غیب کی خبر دی اور پیشین گوئی فرمادی کہ اس بھیانک اور خطرناک وقت پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا جو اسلام کی محافظت کرے گی اور وہ ایسی چھ صفتوں کی جامع ہوگی جو تمام دینی اور آخروی فضائل و کمالات کا سرچشمہ ہیں اور یہی چھ صفات ان محافظین اسلام کی علامات اور ان کی پہچان کا نشان ہوں گی اور وہ چھ صفات یہ ہیں۔

(۱) وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے۔ (۲) وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے

(۳) وہ مومنین پر بہت مہربان ہوں گے (۴) وہ کافروں کے لئے بہت سخت

ہوں گے (۵) وہ خدا کی راہ میں جہاد کریں گے (۶) وہ کسی ملامت کرنے

والے کی ملامت سے خائف نہیں ہوں گے۔

صاحب تفسیر جمل نے کشاف کے حوالہ سے تحریر فرمایا ہے کہ عرب کے گیارہ قبیلے اسلام قبول کر لینے کے بعد آگے پیچھے اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو گئے۔ تین قبائل تو خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی موجودگی میں اور سات قبیلے حضرت امیر المومنین ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور ایک قبیلہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ

ہونے کے بعد مگر یہ گیارہ قبائل اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود اسلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے بلکہ مجاہدین اسلام کے سرفروشانہ جہادوں کی بدولت یہ سب مرتدین تہس نہس ہو کر فنا کے گھاٹ اتر گئے اور پرچم اسلام برابر بلند سے بلند تر ہوتا ہی چلا گیا اور قرآن مجید کا وعدہ اور غیب کی خبر بالکل سچ اور صحیح ثابت ہو کر رہی۔

### زمانہ رسالت کے تین مرتد قبائل

- (۱) قبیلہ بنی مذحج جس کا رئیس ”اسود غنسی“ تھا جو ”ذوالحمار“ کے لقب سے مشہور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور یمن کے سرداروں کو فرمان بھیجا کہ مرتدین سے جہاد کریں چنانچہ فیروز ویلیسی کے ہاتھ سے اسود غنسی قتل ہوا اور اس کی جماعت بکھر گئی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بستر علالت پر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اسود غنسی قتل ہو گیا اس کے دوسرے ہی دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔
- (۲) قبیلہ بنو حنیفہ جس کا سردار ”مسیمتہ الکذاب“ تھا جس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جہاد فرمایا اور لڑائی کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مسیمتہ الکذاب مقتول ہوا اور اس کا گروہ کچھ قتل ہو گیا اور کچھ دوبارہ دامن اسلام میں آ گئے۔
- (۳) قبیلہ بنو اسد جس کا امیر طلحہ بن خویلد تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلہ کے لئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور جنگ کے بعد طلحہ بن خویلد شکست کھا کر ملک شام بھاگ گیا مگر پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور آخری دم تک اسلام پر ثابت قدم رہا اور اس کی فوج کچھ کٹ گئی کچھ تائب ہو کر پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے۔

### خلافت صدیق اکبر کے ساتھ مرتد قبائل

- (۱) قبیلہ فزارہ جس کا سردار عیینہ بن حصن فزاری تھا۔ (۲) قبیلہ غطفان جس کا سردار قرہ بن سلمہ قشیری تھا۔ (۳) قبیلہ بنو سلیم جس کا سرغنہ فجاءۃ بن یالیل تھا۔ (۴) قبیلہ بنی یربوع جس کا سربراہ مالک بن بریدہ تھا۔ (۵) قبیلہ بنو تمیم جن کی امیر سجاح بنت منذر ایک عورت تھی جس نے مسیمتہ الکذاب سے شادی کر لی تھی (۶) قبیلہ کندہ جو اشعث بن قیس کے پیروکار تھے۔ (۷) قبیلہ بنو بکر جو خطمی بن یزید کے تابعدار تھے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر



صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مرتد ہونے والے ساتوں قبیلوں سے مہینوں تک بڑی خون ریز جنگ فرمائی چنانچہ کچھ ان میں سے مقتول ہو گئے اور کچھ توبہ کر کے پھر دامن اسلام میں آ گئے۔

### دورِ فاروقی کا مرتد قبیلہ

امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں صرف ایک ہی قبیلہ مرتد ہوا اور یہ قبیلہ غستان تھا جس کی سرداری جبلہ بن اسہم کر رہا تھا مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرچم کے نیچے صحابہ کرام نے جہاد کر کے اس گروہ کا قلع قمع کر دیا اور پھر اس کے بعد کوئی قبیلہ بھی مرتد ہونے کے لئے سر نہیں اٹھا سکا۔

اس طرح مرتد ہونے والے ان گیارہ قبیلوں کا سارا فتنہ و فساد مجاہدین اسلام کے جہادوں کی بدولت ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔ (جمل ج ۱ ص ۵۰۲)

ان مرتدین سے لڑنے والے اور ان شریروں کا قلع قمع کرنے والے صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں برسوں پہلے قرآن مجید نے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ

يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لا اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ☆

اے ایمان والو! تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گزا تو عنقریب اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا ہوگا وہ مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے وہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کے کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ وسعت والا علم ہے۔

﴿المائدہ رکوع ۸﴾

### درسِ ہدایت

ان آیات سے حسب ذیل انوارِ ہدایت کی تجلیاں نمودار ہوتی ہیں۔

(۱) مرتدین کے فتنوں اور شورشوں سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ مرتدوں کے مقابلہ کے لئے ہر دور میں ایک ایسی جماعت کو پیدا فرمادے گا جو تمام

مرتدین کی فتنہ پردازیوں کو ختم کر کے اسلام کا بول بولا کرتی رہے گی جن کی چھ نشانیاں ہوں گی۔

(۲) ان آیات بینات سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہوں نے مرتدین کے گیارہ قبائل کی شورشوں کو ختم کر کے پرچم اسلام کو بلند سے بلند تر کر دیا۔ یہ صحابہ کرام مندرجہ ذیل چھ عظیم صفات کے شرف سے سرفراز تھے۔ یعنی (۱) صحابہ کرام اللہ کے محبوب ہیں۔ (۲) وہ اللہ تعالیٰ کے محب ہیں (۳) وہ مسلمانوں کے لئے رحم دل ہیں۔ (۴) وہ کافروں کے حق میں بہت سخت ہیں (۵) وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں (۶) وہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کا اندیشہ و خوف نہیں رکھتے ہیں۔

پھر آیت کے آخر میں خداوند قدوس نے ان صحابہ کرام کے مراتب و درجات کی عظمت و سر بلندی پر اپنے فضل و انعام کی مہر ثبت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بڑی وسعت والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے فضل کا حقدار ہے۔

اللہ اکبر۔ سبحان اللہ! کیا کہنا ہے صحابہ کرام کی عظمتوں کی بلندی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے فضل و کمال کا اعلان فرمایا اور خداوند قدوس نے ان لوگوں کے جامع الکملات ہونے کا قرآن مجید میں خطبہ پڑھا۔

### (۱۳) کافروں کی مایوسی

ہجرت کے بعد گو برابر اسلام ترقی کرتا رہا اور ہر محاذ پر کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کو فتوحات بھی حاصل ہوتی رہیں اور کفار اپنی چالوں میں ناکام و نامراد بھی ہوتے رہے مگر پھر بھی کفار برابر اسلام کی تیغ کنی میں مصروف ہی رہے اور یہ آس لگائے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی دن ضرور اسلام مٹ جائے گا اور پھر عرب میں بت پرستی کا چرچا ہو کر رہے گا۔ کفار اپنی اسی مذموم امید کی بناء پر برابر اپنی اسلام دشمن سیکیموں میں لگے رہے اور طرح طرح کے فتنے برپا کرتے رہے۔

مگر ۱۰ھ حجۃ الوداع کے موقع پر جب کافروں نے مسلمانوں کا عظیم مجمع میدان

عرفات میں دیکھا اور ان ہزاروں مسلمانوں کے اسلامی جوش اور رسول کے ساتھ ان کے والہانہ جذبات عقیدت کا نظارہ دیکھ لیا تو کفار کے حوصلوں اور ان کی مذموم امیدوں پر اوس پڑ گئی اور وہ اسلام کی تباہی و بربادی سے بالکل ہی مایوس ہو گئے چنانچہ اس واقعہ کی عکاسی کرتے ہوئے خاص میدان عرفات میں بعد عصر یہ آیات نازل ہوئیں۔

اليوم ينس الذين كفروا من دينكم  
فلا تخشوهم واخشون ۞ اليوم  
اكملت لكم دينكم واتممت  
عليكم نعمتي ورضيت لكم  
الاسلام ديناً ۞ (المائدہ ركوع ۱)

آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی  
آس ٹوٹ گئی تو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے  
ڈرو آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم  
پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے  
اسلام کو دین پسند کیا۔

روایت ہے کہ ایک یہودی نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر ایسی نازل ہوئی ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو عید کا دن بنا لیتے تو آپ نے فرمایا کہ کونسی آیت تو اس نے کہا کہ اليوم اکملت لكم دينكم والى آيت تو آپ نے فرمایا کہ جس دن اور جس جگہ اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ہم اس کو اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفات کا میدان تھا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عصر کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

آپ کا مطلب یہ تھا کہ اس آیت کے نزول کے دن تو ہماری دو دو عیدیں تھیں ایک تو عرفہ کا دن یہ بھی ہماری عید کا دن ہے دوسرے جمعہ کا دن یہ بھی ہماری عید ہی کا دن ہے اس لئے اب الگ سے ہم کو عید منانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے (جمل ج ۱ ص ۴۶۲)

یہ بھی روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ اے عمر! تم روتے کیوں ہو؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارا دین روز بروز بڑھتا جا رہا ہے لیکن اب جب کہ یہ دین کامل ہو گیا تو یہ قاعدہ ہے کہ ”ہر کمالے رازوال“ کہ جو چیز اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے وہ گھٹنا شروع ہوتی ہے۔ پھر اس آیت سے وفات نبوی کی طرف بھی اشارہ مل رہا ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دین کو کامل کرنے ہی کے لئے دنیا میں

تشریف لائے تھے تو جب دین کامل ہو چکا تو ظاہر ہے کہ حضور اب اس دنیا میں رہنا پسند نہیں فرمائیں گے۔ (جمل ج ۱ ص ۴۶۲)

### درس ہدایت

(۱) اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات پر مہر لگا دی کہ اب کافروں کی کوئی جدوجہد اور کوشش بھی اسلام کو ختم نہیں کر سکتی کیونکہ کفار کی امید و آس پر ناامیدی و یاس کے بادل چھا گئے ہیں کیونکہ ان کا اسلام کو مٹا دینے کا خواب اب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔

(۲) اس آیت نے اعلان کر دیا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام میں فلاں فلاں مسائل ناقص رہ گئے ہیں یا اسلام میں کچھ ترمیم اور اضافہ کی ضرورت ہے تو وہ شخص کذاب اور جھوٹا ہے اور درحقیقت وہ قرآن کی تکذیب کرنے والا ملحد اور اسلام سے خارج ہے۔ دین اسلام بلاشبہ یقیناً کامل و مکمل ہو چکا ہے اس پر ایمان رکھنا ضروریات دین میں سے ہے۔

### (۱۴) اسلام اور سادہ ہو کی زندگی

علمائے تفسیر کا بیان ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا اور قیامت کی ہولناکیوں کا اس انداز میں بیان فرمایا کہ سامعین متاثر ہو کر زار و قطار رونے لگے اور لوگوں کے دل دہل گئے اور لوگ اس قدر خوف و ہراس سے لرزہ بر اندام ہو گئے کہ دس جلیل القدر صحابہ کرام حضرت عثمان بن مظعون جمحی کے مکان پر جمع ہوئے جن میں حضرت ابو بکر صدیق و حضرت علی و حضرت عبداللہ بن مسعود و حضرت عبداللہ بن عمر و حضرت ابو ذر غفاری و حضرت سالم و حضرت مقدار و حضرت سلمان فارسی و حضرت معقل بن مقرن و حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین تھے اور ان حضرات نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ بنایا کہ اب آج سے ہم لوگ سادہ ہو بن کر زندگی بسر کریں گے، ٹاٹ وغیرہ کے موٹے کپڑے پہنیں گے اور روزانہ دن بھر روزے رکھ کر ساری رات عبادت کریں گے بستر پر نہیں سوئیں گے اور اپنی عورتوں سے الگ رہیں گے اور گوشت چربی اور گھی وغیرہ کوئی مرغن غذا نہیں کھائیں گے نہ کوئی خوشب لگائیں گے اور سادہ ہو بن کر روئے زمین میں گشت

کرتے پھیریں گے۔

جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے اس منصوبہ کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے ایسی خبر معلوم ہوئی ہے تم بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! حضور کو جو اطلاع ملی ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اس منصوبہ سے بجز نیکی اور خیر طلب کرنے کے ہمرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال نبوت پر قدرے جلال کا ظہور ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ میں جو دین لیکر آیا ہوں اس میں ان باتوں کا حکم نہیں ہے سنو تمہارے اوپر تمہاری جانوں کا بھی حق ہے لہذا کچھ دنوں روزہ رکھو اور کچھ دنوں میں کھاؤ پیو اور رات کے کچھ حصے میں جاگ کر عبادت کرو اور کچھ حصے میں سو رہا کرو۔ دیکھو میں اللہ کا رسول ہو کر کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں اور گوشت چربی گھی بھی کھاتا ہوں۔ اچھے کپڑے بھی پہنتا ہوں اور اپنی بیویوں سے بھی تعلق رکھتا ہوں اور خوشبو بھی استعمال کرتا ہوں یہ میری سنت ہے اور جو مسلمان میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرے طریقے پر اور میرے فرماں برداروں میں سے نہیں ہے اس کے بعد صحابہ کرام کا ایک مجمع جمع فرما کر آپ نے نہایت ہی موثر وعظ بیان فرمایا جس میں آپ نے برملا یہ ارشاد فرمایا کہ سن لو۔ میں تمہیں اس کا حکم نہیں دیتا کہ تم لوگ سادھو بن کر راہبانہ زندگی بسر کرو میرے دین میں گوشت وغیرہ لذیذ غذاؤں اور عورتوں کو چھوڑ کر اور تمام دنیاوی کاموں سے قطع تعلق کر کے سادھوؤں کی طرح کسی کٹی یا پہاڑ کی کھوہ میں بیٹھ رہنا یا زمین میں گشت لگاتے رہنا ہرگز ہرگز نہیں ہے سن لو میری امت کی سیاحت جہاد ہے اس لئے تم لوگ بجائے زمین میں گشت کرتے رہنے کے جہاد کرو اور نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہوئے خدا کی عبادت کرتے رہو اور اپنی جانوں کو سختی میں نہ ڈالو کیونکہ تم لوگوں سے پہلے اگلی امتوں میں جن لوگوں نے سادھو بن کر اپنی جانوں کو سختی میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں پر سخت سخت احکام نازل فرما کر انہیں سختی میں مبتلا فرما دیا جن احکام کو وہ لوگ نباہ نہ سکے اور بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ کر وہ ہلاک لوگ ہو گئے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعظ کے بعد ہی سورۃ مائدہ کی مندرجہ ذیل

آیات شریفہ نازل ہو گئیں جو یہ ہیں۔

اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں  
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال کیں اور  
حد سے نہ بڑھو۔ بیشک حد سے بڑھنے والوں کو  
اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اور رکھاؤ جو کچھ اللہ  
تعالیٰ نے تمہیں حلال و پاکیزہ روزی دی اور  
ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس پر تم ایمان لائے ہو۔

يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات  
ما احل الله لكم لا تعتدوا ان الله  
لا يحب المعتدين ☆ واكلوا مما  
رزقكم الله حلالاً طيباً واتقوا الله  
الذي انتم به مومنون ☆

﴿المائدہ رکوع ۱۲﴾

### درس ہدایت

ان آیات سے سبق ملتا ہے کہ اسلام سادہو بن کر زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں  
دیتا ہے، عمدہ غذاؤں اور اچھے کپڑوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا کر اور بیوی بچوں سے قطع تعلق  
کر کے سادھوؤں کی طرح کسی کٹی میں دھونی رما کر بیٹھ رہنا یا جنگلوں اور بیابانوں میں چکر  
لگاتے پھرنا یہ ہرگز ہرگز اسلامی طریقہ نہیں ہے خوب سمجھ لو کہ جو مفت خور بابا لوگ اس طرح  
کی زندگی گزار کر اپنی درویشی کا ڈھونگ رچا کر گلیوں یا میدانوں میں بیٹھے ہوئے اپنی  
بابائیت کا پرچار کر رہے ہیں اور جاہلوں کو اپنے دام تذریر میں پھانے ہوئے ہیں خوب آنکھ  
کھول کر دیکھ لو اور کان کھول کر سن لو کہ یہ سادھوؤں کا رنگ ڈھنگ اسلامی طریقہ نہیں ہے  
بلکہ اصل اور سچا اسلام وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے  
مقدس طریقے کے مطابق ہو لہذا جو شخص سنتوں کا دامن تھام کر زندگی بسر کر رہا ہے درحقیقت  
اسی کی زندگی اسلامی ہے اور صوفیہ کرام کی درویشانہ زندگی بھی یہی ہے خوب سمجھ لو کہ نبوت  
کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی کا جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے وہ درحقیقت نہ اسلامی زندگی ہے  
نہ صوفیہ کی درویشانہ زندگی لہذا آج کل جن باباؤں نے راہبانہ اور سادھوؤں کی زندگی اختیار  
کر رکھی ہے ان کے اس طرز عمل کو اسلام اور بزرگی سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔  
مسلمانوں کو اس سے ہوشیار رہنا چاہئے اور ہرگز ہرگز ایسے بے شرع لوگوں کے پاس  
آمدورفت نہیں رکھنی چاہئے اور یقین رکھنا چاہئے کہ یہ سب مکروکید کا خوبصورت جال  
بچھائے ہوئے ہیں جس میں بھولے بھالے عقیدت مند مسلمان پھنستے رہتے ہیں اور اس

بہانے بابا لوگ اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہیں ایک سچی حقیقت کا اظہار اور حق کا اعلان ہم  
عالموں کا فرض ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں۔

مانو نہ مانو آپ کو یہ اختیار ہے  
ہم نیک و بد جناب کو سمجھائے جائیں گے

## (۱۵) دو بڑے ایک چھوٹا دشمن

قرآن مجید نے بار بار اس مسئلہ پر روشنی ڈالی اور اعلان فرمایا کہ ہر کافر مسلمان کا  
دشمن ہے اور کفار کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے خلاف ایک زہر بھرا ہوا ہے اور ہر وقت  
اور ہر موقع پر کافروں کے سینے مسلمانوں کی عداوت اور کینے سے آگ کی بھٹی کی طرح جلتے  
رہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کفار کے تین مشہور فرقوں یہود و مشرکین اور نصاریٰ میں سے  
مسلمانوں کے سب سے بڑے اور سخت ترین دشمن کون ہیں؟ اور کون فرقہ ہے جس کے دل  
نسبتہ مسلمانوں کی دشمنی کم ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں سورہ مائدہ کی مندرجہ ذیل آیت  
شریفہ نازل ہوئی ہے لہذا اس پر ایمان کامل رکھتے ہوئے اپنے بڑے اور چھوٹے دشمنوں کو  
پہچان کر ان سبھوں سے ہوشیار رہنا چاہئے ارشاد خداوندی ہے کہ

لتجدن اشد الناس عداوہ للذین  
امنوا الیہود والذین اشركوا  
ولتجدن اقربہم مودۃ للذین امنوا  
الذین قالوا انا نصریٰ ذلک بان  
منہم قسیسین ورهبانا وانہم  
یستکبرون ☆  
﴿المائدہ رکوع ۱۱﴾

ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن  
یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے اور ضرور تم  
مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ  
قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں  
کہ ہم نصاریٰ ہیں یہ اس لئے کہ ان لوگوں  
میں کچھ عالم اور کچھ درویش ہیں اور یہ لوگ  
غرور نہیں کرتے۔

### درک ہدایت

اس آیت کی روشنی میں گزشتہ تواریخ کے صفحات کی ورق گردانی کر کے اپنے ایمان کو  
مزید اطمینان بخشے کہ یہودیوں اور مشرکوں نے مسلمانوں کے ساتھ جیسی جیسی سخت عداوتوں کا  
مظاہرہ کیا ہے عیسائیوں نے ان نے ان لوگوں سے بہت کم مسلمانوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا

ہے اور یہودیوں اور مشرکوں نے مسلمانوں پر جیسے جیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں عیسائیوں نے اس درجہ مسلمانوں پر مظالم نہیں کئے ہیں لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ یہود و مشرکین کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کر کے کبھی بھی ان لوگوں پر اعتماد نہ کریں اور ہمیشہ ان بدترین دشمنوں سے ہوشیار رہیں اور عیسائیوں کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھیں کہ یہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہی ہیں مگر پھر بھی ان کے دلوں میں مسلمانوں کیلئے کچھ نرم گوشے بھی ہیں اس لئے یہ یہودیوں اور مشرکوں کی نسبت کم درجے کے دشمن ہیں یہی اس آیت مبارکہ کا خلاصہ مطلب ہے جو مسلمانوں کے واسطے ان کے چھوٹے بڑے دشمنوں کی پہچان کے لئے بہترین شمع راہ بلکہ روشنی کا منارہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۱۶) انبیاء کے قاتل

قرآن مجید نے متعدد جگہ یہودیوں کی شرارتوں اور فتنہ پردازیوں کا تفصیلی بیان کرتے ہوئے بار بار یہ اعلان فرمایا ہے کہ ان ظالموں نے اپنے انبیاء اور پیغمبروں کو بھی قتل کئے بغیر نہیں چھوڑا چنانچہ ارشاد فرمایا کہ

ان الذین یکفرون بایت اللہ  
ویقتلون النبیین بغیر حق زو یقتلون  
الذین یامرون بالقسط من الناس لا  
فبشرهم بعذاب الیم

بیشک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں اور (نبیوں کے سوا) جو لوگ ان کو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔

﴿آل عمران رکوع ۲﴾

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں تینتالیس نبیوں اور ایک سو ستر صالحین کو قتل کر دیا تھا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ (تاریخ ابن کثیر ج ۲ ص ۵۵) چنانچہ حضرت یحییٰ و حضرت زکریا علیہما السلام کی شہادت بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔



## حضرت یحییٰ کی شہادت

ابن عساکر نے "المستقصى فضائل الاقصیٰ" میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ دمشق کے بادشاہ "حداد بن حداد" نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں۔ پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر حلالہ اس کو واپس کر کے اپنی بیوی بنالے۔ اس حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اب تجھ پر حرام ہو چکی ہے اس کی بیوی کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی اور جبکہ وہ مسجد "جر دن" میں نماز پڑھ رہے تھے بحالت سجدہ ان کو قتل کر دیا اور ایک طشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوا یا مگر کٹا ہوا سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بغیر حلالہ کرائے بادشاہ کیلئے حلال نہیں اور اسی حالت میں اس پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ وہ عورت سر مبارک کے ساتھ زمین میں دھنس گئی۔

## حضرت زکریا کا مقتل

یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو پھر ان کے والد ماجد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف یہ ظالم لوگ متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی شہید کر دیں گے مگر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہاں سے ہٹ گئے اور ایک درخت کے شکاف میں روپوش ہو گئے یہودیوں نے اس درخت پر آ رہ چلا دیا جب آ رہ حضرت زکریا علیہ السلام پر پہنچا تو خدا کی وحی آئی کہ خبردار اے زکریا اگر آپ نے کچھ بھی آہ و زاری کی تو ہم پوری روئے زمین کو تہہ و بالا کر دیں گے اور اگر تم نے صبر کیا تو ہم بھی ان یہودیوں پر اپنا عذاب نازل کر دیں گے چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے صبر کیا اور ظالم یہودیوں نے درخت کے ساتھ ان کے بھی دو ٹکڑے کر دیئے۔

اس میں اختلاف ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ کس جگہ پیش آیا۔ قول تو یہ ہے کہ مسجد جردن میں شہادت ہوئی مگر حضرت سلیمان ثوری نے ثمر بن عطیہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ بیت اللہ میں ہیکل سلیمانی اور قربان گاہ کے درمیان آپ شہید ہو گئے

جس جگہ آپ سے پہلے ستر انبیاء علیہ السلام کو یہودی قتل کر چکے تھے۔  
 بہر حال یہ سب کو مسلم ہے کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور  
 جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شہادت کا حال معلوم تو آپ نے علی الاعلان اپنی دعوت  
 حق کا وعظ شروع کر دیا اور بالآخر یہودیوں نے آپ کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا بلکہ قتل کے  
 لئے آپ کے مکان میں ایک یہودی داخل بھی ہو گیا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بدلی بھیج کر  
 آسمان پر اٹھالیا جس کا مفصل واقعہ ہماری کتاب ”عجائب القرآن“ میں مذکور ہے۔

### درس ہدایت

حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہما السلام کی شہادت کے واقعات اور حالات سے  
 اگرچہ حقیقت بین نگاہیں بہت سے نتائج حاصل کر سکتی ہیں تاہم چند باتیں خصوصی طور پر  
 قابل توجہ ہیں۔

(۱) دنیا میں ان یہودیوں سے زیادہ سے شقی القلب اور بد بخت کوئی نہیں ہو سکتا جو  
 حضرت انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرتے تھے حالانکہ یہ برگزیدہ اور مقدس ہستیاں نہ کسی کو  
 ستاتی تھیں نہ کسی کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی تھیں بلکہ بغیر اجرت و عوض کے لوگوں کی  
 اصلاح کر کے انہیں فلاح و سعادت دارین کی عزتوں سے سرفراز کرتی تھیں چنانچہ حضرت  
 ابو عبیدہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت  
 کے دن سب سے بڑے اور زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ  
 رجل قتل نبیا او من امر وہ شخص جو کسی نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے  
 بالمعروف ونہی عن المنکر جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو  
 ﴿تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۵۵﴾

بہر حال ظالم یہودیوں نے اپنی شقاوت سے خدا کے نبیوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک  
 کیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان مقدس نفوس کا خون بہایا۔ اقوام عالم میں اس کی مثال  
 نہیں مل سکتی۔ اس لئے خداوند قہار و جبار نے اپنے قہر و غضب سے ان ظالموں کو دونوں جہان  
 میں ملعون کر دیا لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان ملعونوں سے ہمیشہ نفرت و دشمنی رکھے!  
 (۲) بنی اسرائیل چونکہ مختلف قبائل میں تقسیم تھے اس لئے ان کے درمیان ایک ہی

وقت میں متعدد نبی اور پیغمبر مبعوث ہوتے رہے اور ان سب نبیوں کی تعلیمات کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت ہی رہی اور ان سب انبیاء کرام علیہ السلام کی حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائبین کی رہی۔

(۳) علماء کرام کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک حق پر ڈٹ کر اس کی تبلیغ کرتے رہنا چاہئے اور حق کے معاملہ میں اپنی جان کی بھی پروا نہیں کرنی چاہئے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا کہ سرکٹ جانے کے بعد بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے یہی آواز آتی رہی کہ تین طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ کرائے ہوئے عورت سے اس کا شوہر دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۱۷) منافقوں کی ایک سازش

جنگ احد کا مکمل اور مفصل بیان تو ہم اپنی کتاب ”سیرۃ المصطفیٰ“ میں تحریر کر چکے ہیں مگر ہم یہاں تو صرف منافقوں کی ایک خطرناک سازش کا ذکر کر رہے ہیں جو جنگ احد کے دن ان بد بختوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی تھی جس پر قرآن مجید نے روشنی ڈالی ہے اور جو بہت ہی قابل عبرت اور نہایت ہی نصیحت آموز ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر جنگ کے لئے نکلے تو ایک ہزار کا لشکر پرچم نبوت کے نیچے تھا اس لشکر میں تین سو منافقین بھی عبداللہ بن ابی کی سرکردگی میں ہمراہ تھے۔ منافقین پہلے ہی کفار مکہ کے ساتھ یہ سازش کر چکے تھے کہ مخلص مسلمانوں کو بزدل بنانے کے لئے یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ شروع میں مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نکلیں گے پھر مسلمانوں سے کٹ کر مدینہ واپس آجائیں گے چنانچہ منافقوں کا سردار یہ بہانہ بنا کر لشکر اسلام سے کٹ کر جدا ہو گیا کہ جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہم تجربہ کاروں کی بات نہیں مانی کہ مدینہ میں رہ کر مدافعتاً جنگ کرنی چاہئے بلکہ الہڑنو جوانوں کی بات مان کر مدینہ سے نکل پڑے تو ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں مگر الحمد للہ! کہ منافقوں کا مقصد پورا نہیں ہوا کیونکہ مخلص مسلمانوں پر ان لوگوں کے لشکر اسلام سے جدا ہو جانے کا مطلق کوئی اثر نہیں پڑا البتہ مسلمانوں کے دو قبیلے بنو سلمہ و بنو حارثہ میں کچھ تھوڑی سی بددلی پیدا ہو چلی تھی مگر مخلص مسلمانوں کے جوش و جہاد کو دیکھ کر ان

دونوں قبیلوں کی بھی ہمت بلند ہوگئی اور یہ لوگ بھی ثابت قدم رہ کر پورے جان نثارانہ جذبات سرفروشی کے ساتھ مشرکین کے دل بادل لشکروں سے ٹکرائے اور آخری دم تک پرچم نبوت کے زیر سایہ مشرکوں سے جنگ کرتے رہے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ

واذ غدوت من اہلک تبوی اور یاد کرو اے محبوب جب صبح کو تم اپنے المومنین مقاعد للقتال ء واللہ سمیع دولت خانہ سے برآمد ہو کر مسلمانوں کو لڑائی علیہم ☆ اذہمت طائفان منکم ان کے مورچوں پر قائم کر رہے تھے اور اللہ سب تفشلا واللہ ولیہما ط ولی اللہ سنتا اور جانتا ہے جب تم میں سے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر بیٹھیں اور اللہ ان کا فلیتوکل المومنون ☆ مددگار ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔ ﴿آل عمران رکوع ۱۳﴾

غرض جنگ احد میں منافقوں کی یہ خطرناک سازش اور خوفناک تدبیر بالکل ناکم ہو کر رہ گئی اور بحمد اللہ اگرچہ ستر مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا لیکن آخر میں فتح مبین نے پیغمبر کے قدم نبوت کا بوسہ لیا اور مشرکین ناکام ہو کر میدان جنگ چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے گئے اور پرچم اسلام سر بلند ہی رہا۔

### درس ہدایت

اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ اگر مومنین اخلاص نیت کے ساتھ متحد ہو کر میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ جواں مردی اور اولوالعزمی کے ساتھ جہاد میں ڈٹے رہے تو منافقوں اور کافروں کی ہر سازش و تدبیر کو خداوند قدوس ناکام بنا دیتا ہے مگر یہ حقیقت بڑی ہی صداقت مآب ہے کہ ۔

برائے فتح پہلی شرط ہے ثابت قدم رہنا  
جماعت کو بہم رکھنا جماعت کا بہم رہنا

### (۱۸) حضرت الیاس علیہ السلام

یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ بیشتر مورخین کا اس پر اتفاق

ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان کا نسب نامہ یہ ہے الیاس بن یاسین فن فحاس بن عیزار بن ہارون علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین و مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے اور "بعلبک" کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔

ان دنوں بعلبک "شہر پر" "آرحب" نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کئے ہوئے تھا اور ان لوگوں کا سب سے بڑا بت "بعل" تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا اور بیس گز لمبا تھا اور اس کے چار چہرے بنے ہوئے تھے اور چار سو خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے لگے مگر قوم ان پر ایمان نہیں لائی بلکہ شہر کا بادشاہ "آرحب" ان کا دشمن جان بن گیا اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے اور پورے سات برس تک خوف و ہراس کے عالم میں رہے اور جنگلی گھاسوں اور جنگل کے پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لئے بہت سے جاسوس مقرر کر دیئے تھے آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ دعا مانگی کہ

الہی! مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما تو آپ پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا تو آپ کے چچازاد بھائی حضرت "المسع" علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کبیل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے اپنا خلیفہ بنا دیا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرمایا اور حضرت المسع علیہ السلام نہایت عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کرنے لگے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر دم ہر قدم پر ان کی مدد فرمائی اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔

## حضرت الیاس کے معجزات

اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ کے لئے مسخر فرما دیا اور آپ کو ستر انبیاء کی طاقت بخش دی اور غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہما السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں اور ہر سال حج کے لئے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے رہتے ہیں اور یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے جبکہ قرآن مجید اٹھالیا جائے گا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو راستہ میں ایک آواز آئی کہ یا اللہ! تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بنادے جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انس! تم اس آواز کا پتہ لگاؤ تو میں پہاڑ میں داخل ہوا تو اچانک یہ نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس ڈاڑھی والا نظر آیا جس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور ﷺ سے میرا سلام عرض کرو اور یہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ مجھ کو ہمراہ لیکر روانہ ہوئے اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے بلایا اور میں نے دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ صاوی ج ۳ ص ۲۸۶

## حضرت الیاس اور قرآن

قرآن کریم میں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ دو جگہ آیا ہے سورہ انعام میں اور سورہ والصفہ میں سورہ انعام میں صرف ان کو انبیاء علیہم السلام کی فہرست میں شمار کیا گیا

اور سورہ والصفہ میں آپ کی بعثت اور قوم کی ہدایت کے متعلق مختصر طور پر بیان فرمایا چنانچہ سورہ انعام میں ہے۔

ومن ذریتہ داود و سلیمان و ایوب  
و یوسف و موسیٰ و ہرون ؑ  
و کذلک نجزی المحسنین ☆  
و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس ؑ  
کل من الصالحین ☆ و اسمعیل  
و الیسع و یونس و لوط ؑ کلا فضلنا  
علی العلمین ☆

اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون کو اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کو یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔

﴿الانعام رکوع ۱۰﴾

اور سورہ والصفہ میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ

وان الیاس لمن المرسلین ☆ اذ قال  
لقومہ الاتقون ☆ اتدعون بعلا  
وتذرون احسن الخالقین ☆ اللہ  
ربکم ورب ابائکم الاولین ☆  
فکذبوہ فانہم لمحضرون ☆ الا  
عباد اللہ المخلصین ☆ وترکنا علیہ  
فی الاخرین ☆ سلم علی ال  
یاسین ☆ انا کذلک نجزی  
المحسنین ☆ انه من عبادنا  
المومنین ☆

اور بیشک الیاس پیغمبروں میں سے ہیں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں کیا بعل کو پوجتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑے ہوئے ہو۔ یعنی اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پھر لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تو وہ لوگ ضرور پکڑ کر لائے جائیں گے بجز اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اور ہم نے پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی اور سلام ہو۔ الیاس پر۔ بیشک ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیک بندوں کو بیشک وہ سارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں سے ہیں۔

﴿الصافات رکوع ۴﴾

حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن مجید میں بہت ہی مختصر مذکور ہے تاہم اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہودیوں کی ذہنیت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہوں باوجودیکہ ان میں ہدایت کیلئے مسلسل انبیاء کرام تشریف لاتے رہے مگر پھر بھی بت پرستی کو اکب پرستی اور غیر اللہ کی عبادت ان لوگوں سے نہ چھوٹ سکی پھر یہ لوگ اعلیٰ درجے کے جھوٹے بدعہد اور رشوت خور بھی رہے اور اللہ تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو ایذا میں دینا اور ان کو قتل کر دینا ان ظالموں کا محبوب مشغلہ رہا ہے بہر حال ان ظالموں کے واقعات سے جہاں ان لوگوں کی بدبختی و کج بردی اور بحرمانہ شقاوت پر روشنی پڑتی ہے۔ وہیں ہم لوگ لوگوں کو یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جبکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تو ہمارے لئے بے حد ضروری ہے کہ خدا کے آخری پیغام یعنی اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ کر یہودیوں کے ظالمانہ طریقوں کی مخالفت کریں اور کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کر کے خدا کے مقدس نبیوں کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۱۹) جنگِ بدر کی بارش

جنگِ بدر کا مفصل حال تو ہم اپنی کتاب سیرۃ المصطفیٰ میں مکمل لکھ چکے ہیں یہاں جنگِ بدر میں نصرتِ الہی نے بارش کی صورت میں جو تجلی فرمائی جس سے میدانِ جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا اس کا ہم ایک جلوہ دکھا رہے ہیں۔

واقعہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ صحابہ کرام کی جماعت کو ہمراہ لیکر مقامِ بدر میں تشریف لے گئے اور بدر کے قریب پہنچ کر مدینہ کی جانب رخِ عدوۃ الدنیا پر خیمہ زن ہو گئے اور مشرکین آگے بڑھے تو بدر پہنچ کر مدینہ سے دور مکہ کی جانب والے عدوۃ القصویٰ پر اترے اور محاذِ جنگ کا نقشہ اس طرح بنا کہ مشرکین اور مسلمان بالکل آمنے سامنے تھے مگر مسلمانوں کا محاذِ جنگ اس قدر میٹلا تھا کہ انسانوں اور گھوڑوں دونوں کے قدم ریت میں دھنسے جا رہے تھے اور وہاں چلنا پھرنا دشوار تھا اور مشرکین کا محاذِ جنگ بالکل ہموار اور پختہ فرش کی طرح تھا۔ غرض دشمن تعداد میں تین گنا سے زیادہ سامانِ جنگ سے پوری



طرح کھل رسل و رسائل میں ہر طرح مطمئن تھے پھر مزید برآں ان کا محاذ جنگ بھی اپنے محل وقوع کے لحاظ سے نہایت عمدہ تھا ان سہولتوں کے علاوہ پانی کے سب کنوئیں بھی دشمنوں ہی کے قبضے میں تھے اس لئے مسلمانوں کو پانی کی بے حد تکلیف تھی خود پینے کے لئے کہاں سے پانی لائیں؟ جانوروں کو کیسے سیراب کریں؟ وضو اور غسل کی کیا ضرورت غرض صحابہ کرام انتہائی فکر مند اور پریشان تھے۔ اس موقع پر شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوہ ڈال دیا کہ اے مسلمانو۔ تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تم میں اللہ کا رسول بھی موجود ہے اور تم اللہ والے ہو اور یہ حال یہ ہے کہ مشرکین پانی پر قابض ہیں اور تم بغیر وضو و غسل کے نمازیں پڑھتے ہو اور تم اور تمہارے جانور پیاس سے بیتاب ہو رہے ہیں۔

اس موقع پر ناگہاں نصرت آسمانی نے اس طرح جلوہ سامانی فرمائی کہ زوردار بارش ہو گئی جس نے مسلمانوں کیلئے ریتلی زمین کو جما کر پختہ فرش کی طرح ہموار بنا دیا اور نشیب کی وجہ سے حوض نما گڑھوں میں پانی کا ذخیرہ مہیا کر دیا اور دشمنوں کی زمین کو کچھڑ والی دلدل بنا دیا جس پر کافروں کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا اور مسلمان ان پانی کے ذخیروں کی وجہ سے کنوؤں سے بے نیاز ہو گئے اور مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوہ دور ہو گیا اور لوگ مطمئن ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عجیب و غریب بارش کی منظر کشی ان الفاظ میں فرمائی

ہے کہ

وینزل علیکم من السماء ماء  
لیطہرکم بہ ویذهب عنکم  
رجز الشیطن ولیربط علی قلوبکم  
ویثبت بہ الاقدام ﴿الانفال رکوع ۲﴾

اور اللہ نے آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے اور ناپاک شیطانی وسوسہ کو تم سے دور کرے اور تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جمادے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بدر میں اس ناگہانی بارش کے چار فائدے بیان فرمائے۔ (۱) تاکہ جو بے وضو اور بے غسل ہوں وہ وضو اور غسل کر کے پاک و صاف اور ستھرے ہو جائیں۔ (۲) مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ دور ہو جائے۔ (۳) مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس مل جائے کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے

گا۔ (۴) محاذ جنگ کی ریتلی زمین اس قابل ہو جائے کہ اس پر قدم جم سکیں الغرض جنگ بدر کی یہ بارش مسلمانوں کے لئے باران رحمت اور کفار کے لئے سامان زحمت بن گئی۔

### درس ہدایت

جنگ بدر میں مسلمانوں کو جن مشکل حالات کا سامنا تھا۔ ظاہر ہے کہ عقل انسانی عالم اسباب پر نظر کرتے ہوئے اس کے سوا اور کیا فیصلہ کر سکتی تھی کہ وہ اس جنگ کو ٹال دیں مگر صادق الایمان مسلمانوں نے اپنے رسول کی مرضی پا کر ہر قسم کی بے سرو سامانی کے باوجود حق و باطل کی معرکہ آرائی کے لئے والہانہ اور فداکارانہ جذبات کے ساتھ خود کو پیش کر دیا اور نہایت ثابت قدمی اور اولوالعزمی کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی کس کس طرح امداد و نصرت فرمائی اس پر ایک نظر ڈال کر خداوندی قدوس کے فضل عظیم کی جلوہ سامانیوں کا نظارہ کیجئے اور یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کس کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی؟

(۱) مسلمانوں کی نگاہ میں دشمنوں کی تعداد اصل تعداد سے کم نظر آئی تاکہ مسلمان مرعوب نہ ہوں اور مشرکین کی نظروں میں مسلمان مٹھی بھر نظر آئے تاکہ وہ جنگ سے جی نہ چرائیں اور یہ حق و باطل کی جنگ ٹل نہ جائے۔ (انفال)

(۲) اور ایک وقت میں مسلمان مشرکین کی نظر میں دگنے نظر آئے تاکہ مشرکین مسلمانوں سے شکست کھا جائیں۔ (آل عمران)

(۳) پہلے مسلمانوں کی مدد کے لئے ایک ہزار فرشتے بھیجے گئے۔ پھر فرشتوں کی تعداد بڑھا کر تین ہزار کر دی گئی پھر فرشتوں کی تعداد پانچ ہزار ہو گئی۔ (آل عمران)

(۴) مسلمانوں پر عین معرکہ کے وقت تھوڑی دیر کے لئے غنودگی اور نیند طاری کر دی گئی جس کے چند منٹ بعد ان کی بیداری نے ان میں ایک نئی تازگی اور نئی روح پیدا کر دی۔ (انفال)

(۵) آسمان سے پانی برسا کر مسلمانوں کے لئے ریتلی زمین کو پختہ زمین کی طرح بنا دیا اور مشرکین کے محاذ جنگ کی زمین کو کیچڑ اور پھسلن والی دلدل بنا دیا۔ (انفال)

(۶) نتیجہ جنگ یہ ہوا کہ ذرا دیر میں مشرکین کے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان اور جنگجو

شہسوار مارے گئے چنانچہ ستر مشرکین قتل ہوئے اور ستر گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے اور مشرکین کا لشکر اپنا سارا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور یہ سارا سامان مسلمانوں کو مال غنیمت میں مل گیا۔

مسلمان اگرچہ خداوند قدوس کی مذکورہ بالا امداد اور اس کے فضل سے فتح یاب ہوئے تاہم اس جنگ میں چودہ مجاہدین اسلام نے بھی جام شہادت نوش کیا۔

(زرقاتی ج ۱ ص ۴۴۴)

یہ واقعہ ہمیں متنبہ کر رہا ہے کہ اگر مسلمان خدا پر بھروسہ کر کے حق و باطل کی جنگ میں ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ ڈٹے رہیں تو تعداد کی کمی اور بے سروسامانی کے باوجود ضرور خدا کی مدد اتر پڑے گی اور مسلمانوں کی فتح نصیب ہوگی۔ یہ رب العزت کے فضل و کرم کا وہ دستور ہے کہ جس میں انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ مسلمان نہ بدل جائیں اور ان کے اسلامی خصائل و کردار میں کوئی تبدیلی نہ ہو ورنہ خدا کا دستور تو نہ بدلا ہے نہ کبھی بدلے گا اس کا وعدہ ہے کہ ولن تجد لسنة الله تبديلا یعنی ہرگز ہرگز خدا کے دستور میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۲۰) جنگ حنین

فتح مکہ کے بعد مشرکین عرب کی شوکت کا قریب قریب خاتمہ ہو گیا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر ہوازن اور ثقیف کے دونوں قبائل کے سرداروں کا اجتماع ہوا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا محمد (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی قوم قریش کو مغلوب کر کے مطمئن ہو گئے لہذا اب ہماری باری ہے تو کیوں نہ ہم پیش قدمی کر کے حملہ آور ہو کر ان مسلمانوں کا قلع قمع کر کے رکھ دیں۔ چنانچہ ہوازن اور ثقیف کے دونوں قبائل نے مالک بن عوف نضری کو اپنا بادشاہ بنا کر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ خبر پا کر ۱۰ شوال ۸ھ مطابق فروری ۶۳۰ء کو دس ہزار مہاجرین و انصار اور دو ہزار مکہ کے نو مسلم اور اسی وہ مشرکین جو اسلام نہ قبول کرنے کے باوجود اپنی خواہش سے مسلمانوں کے رفیق جنگ بن گئے کل تقریباً بارہ ہزار آدمیوں کا لشکر ساتھ لیکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حنین پہنچ گئے جب دشمن کے مقابلہ میں صف آرائی کا وقت آیا تو آپ نے

مہاجرین کا پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور انصار میں بنی خزرج کا علمبردار حضرت  
 حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور اس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ  
 عنہ کو عنایت فرمایا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس بدن پر ہتھیار سجا کر ڈبل زرہ  
 پہن کر اور سرانور پر آہنی ٹوپی رکھ کر اپنے خچر پر سوار ہوئے اور اسلامی فوج کی کمان سنبھال  
 لی۔

مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لشکر کی اکثریت دیکھ کر کچھ گھمنڈ پیدا ہو گیا یہاں تک  
 کہ بعض لوگوں کی زبان سے بغیر ان شاء اللہ کہے یہ لفظ نکل گیا کہ آج ہماری قوت کو کوئی  
 شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کا اپنی فوج کی عددی اکثریت اور عسکری طاقت پر بھروسہ  
 کر کے فخر کرنا خداوند تعالیٰ کو پسند نہیں آیا لہذا مسلمانوں پر خدا کی طرف سے یہ تازیانہ  
 عبرت لگا کر جب تک جنگ شروع ہوئی تو اچانک دشمن کی ان ٹولیوں نے جو گوریلا جنگ  
 کے لئے پہاڑوں کی مختلف گھاٹیوں میں گھات لگائے بیٹھی تھی اس زور شور کے ساتھ  
 تیر اندازی شروع کر دی کہ مسلمان تیروں کی بارش سے بدحواس ہو گئے اور اس ناگہانی  
 تیربارانی کی بوچھاڑ سے ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کے  
 قدم اکھڑ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور چند مہاجرین و انصار کے سوا تمام لشکر  
 میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔

اس خطرناک صورت حال اور نازک گھڑی میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے  
 خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور رجز کا یہ شعر بلند آواز میں پڑھ رہے تھے  
 کہ۔

انا النبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب

یعنی میں نبی ہوں یہ کوئی جھوٹی بات نہیں میں عبدالمطلب کا فرزند ہوں۔  
 بالآخر حضور کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند بھاگے ہوئے  
 مسلمانوں کو پکارا اور یامعشر الانصار یا اصحاب بیعة الرضوان کہہ کر لاکارا۔ حضرت  
 عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ لاکارا اور پکار سن کر تمام جاں نثار مسلمان پلٹ پڑے اور پرچم  
 نبوت کے نیچے جمع ہو کر ایسی جاں نثاری کے ساتھ داد شجاعت دینے لگے کہ دم زون میں  
 میدان جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا اور یہ نتیجہ نکلا کہ شکست کے بعد مسلمان فتح مند ہو گئے اور

پر ہم اسلام سر بلند ہو گیا ہزاروں کفار گرفتار ہو گئے اور بہت سے تلوار کا لقمہ بن گئے اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور کفار عرب کی طاقت و شوکت کا جنازہ نکل گیا۔

جنگ حنین میں مسلمانوں کے اپنی کثرت تعداد پر غرور کے انجام میں شکست اور پھر فتح و نصرت کا حال خداوند ذوالجلال نے قرآن کریم میں ان الفاظ سے ذکر فرمایا ہے کہ

لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ  
 ویوم حنین لا اذا اعجبتکم کثرتکم  
 فلم تغن عنکم شیئا وضاقت  
 علیکم الارض بما رحبت ثم ولینم  
 مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی  
 رسولہ وعلی المؤمنین وانزل  
 جنودا لم تر وہا وعذب الذین  
 کفروا وذلک جزاء الکفرین ☆  
 ﴿التوبہ رکوع ۴﴾

بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اتر آ گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ دے کر بھاگ گئے پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے اور کافروں کو عذاب دیا اور مکروں کی یہی سزا ہے۔

### درس ہدایت

جنگ حنین کا یہ واقعہ دلیل ہے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں فتح و کامرانی فوجوں کی کثرت اور سامان جنگ کی فراوانی سے نہیں ملتی بلکہ فتح و نصرت کا دار و مدار درحقیقت پروردگار کے فضل عظیم پر ہے اگر وہ رب کریم اپنا فضل عظیم فرمادے تو چھوٹے سے چھوٹا لشکر بڑی سے بڑی فوج پر غالب ہو کر مظفر و منصور ہو سکتا ہے اور اگر اس کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو بڑے سے بڑا لشکر چھوٹی سے چھوٹی فوج سے مغلوب ہو کر شکست کھا جاتا ہے لہذا مسلمانوں کو لازم ہے کہ کبھی بھی اپنے لشکر کی کثرت پر اعتماد نہ رکھیں بلکہ ہمیشہ خداوند قدوس کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### (۲۱) غار ثور

ہجرت کی رات حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام ”حزورہ“ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ ”کعبہ مکرمہ“ کو دیکھا اور

فرمایا کہ اے شہر مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا اور کسی جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی وہ بھی اسی جگہ آگئے اور اس خیال سے کہ کفار ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کرا لیا اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوک دار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اسی رات ”غار ثور“ پہنچے۔ (مدارج النبوة ج ۲ ص ۵۸)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا مگر حضرت صدیق جاں نثار نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرات سرور کائنات کے رخسار پر نثار ہو گئے جس سے رحمت عالم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا اور زخم بھی اچھا ہو گیا تین رات حضور رحمت عالم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں رونق افروز رہے۔ کفار مکہ نے آپ کی تلاش میں مکہ کا چپہ چپہ چھان مارا۔ یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے مگر غار کے منہ پر حفاظت خداوندی کا پہرہ لگا ہوا تھا یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالاتن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے یہ منظر دیکھ کر کفار آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالاتنی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آگئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے آپ

کو دیکھ لیں گے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔

لا تحزن ان الله معنا  
مت گھبراؤ خدا ہمارے ساتھ ہے۔

پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکیںہ اتر پڑا کہ وہ بالکل ہی مطمئن اور بے خوف ہو گئے اور چوتھے دن یکم ربیع الاول دوشنبہ کے روز حضور علیہ الصلاۃ والسلام غار سے باہر تشریف لائے اور مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئے۔

اس غار ثور کے واقعہ کو قرآن مجید نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔

الا تنصروه فقد نصره الله اذ  
اخرجه الذين كفروا ثانی اثین  
اذهما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا  
تحزن ان الله معنا فانزل الله  
سکینته علیہ وایدہ بجنود لم تر وھا  
وجعل کلمة الذین کفروا السفلی  
و کلمة الله هی العلیا والله عزیز  
حکیم

اگر تم لوگ محبوب کی مدد نہ کرو تو بیشک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے یار سے فرماتے تھے کہ غم نہ کھاؤ بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اس پر اپنا سکیںہ اتارا اور ان فوجوں سے ان کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھیں اور کافروں کی بات نیچے ڈال دی اور اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

﴿التوبہ رکوع ۶﴾

### درس ہدایت

یہ آیت اور غار ثور کا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی محبت و جاں نثاری رسول کا وہ نشان اعظم ہے جو قیامت تک آفتاب عالم تاب کی طرح درخشاں اور روشن رہے گا کیوں نہ ہو کہ پروردگار نے انہیں اپنے رسول کے ”یار غار“ ہونے کی سند مستند قرآن میں دے دی ہے جو کبھی ہرگز نہیں مٹ سکتی ہے۔

سبحان اللہ! حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ فضل و شرف ہے جو نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا۔

مرتبہ حضرت صدیق کا ہو کس سے بیان

ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا

## (۲۲) مسجد ضرار جلا دی گئی

منافقین کو یہ تو جرات ہوتی نہ تھی کہ علانیہ اسلام کی مخالفت کرتے مگر وہ لوگ در پردہ اسلام کی بیخ کنی میں ہمیشہ مصروف رہتے اور اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لئے جہاں ان بے ایمانوں نے دوسری بہت سی فتنہ سامانیاں برپا کر رکھی تھیں ان میں سے ایک واقعہ رجب ۹ھ میں بھی رونما ہوا جو درحقیقت نہایت ہی خطرناک سازش تھی مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ کو اللہ عزوجل نے منافقین کی اس خوفناک مہم سے بذریعہ وحی آگاہ فرما دیا اور دشمنان اسلام کی ساری سکیموں پر پانی پھر گیا۔

اس کا واقعہ یہ ہے کہ رجب ۹ھ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ”جبوک“ کے میدان میں جو مدینہ منورہ سے چودہ منزل پر دمشق کے راستہ پر واقع ہے۔ ”ہرقل“ شاہ روم مسلمانوں کے مقابلہ کیلئے لشکر جمع کر رہا ہے آپ نے عرب میں سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کے لئے اعلان فرما دیا اور مسلمان جوق در جوق شوق جہاد میں مدینہ کے اندر جمع ہونے لگے۔

ابھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیاریوں ہی میں مصروف تھے کہ منافقین نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجد ”قبا“ کے مقابلہ میں اس حیلہ سے ایک مسجد تیار کریں اور منافقوں کا خاص مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو اسلام کی تخریب کاری کے لئے اڈا بنا کر اور اس میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے اور سکیمیں بناتے رہیں اور شاہ روم کی خفیہ امدادوں اور اسلحہ وغیرہ کے ذخیروں کا اس مسجد کو مرکز بنائیں اور یہیں سے اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں کا جال پورے عالم اسلام میں بچھاتے رہیں۔ یہ سوچ کر منافقین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے ضعیفوں اور کمزوروں کے لئے قریب ہی میں ایک مسجد بنائی ہے اب ہماری تمنا ہے کہ حضور وہاں چل کر اس میں نماز پڑھ دیں تو وہ مسجد عند اللہ مقبول ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو میں ایک بہت ہی اہم جہاد کے لئے مدینہ سے باہر جا رہا ہوں واپسی پر دیکھا جائے گا۔

مگر جب آپ بخریت اور فتح و کامرانی کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لائے تو وحی



الہی کے ذریعہ اس مسجد کی تعمیر کا حقیقی سبب آپ کو معلوم ہو چکا تھا اور منافقین کی خفیہ اور خطرناک سازش بے نقاب ہو چکی تھی چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو یہ حکم دے کر وہاں بھیجا کہ وہ وہاں جائیں اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاک سیاہ کر دیں۔

چونکہ اس مسجد کی بنیاد حقیقتہً تقویٰ اور للہیت کی جگہ تفریق بین المسلمین اور تخریب اسلام پر رکھی گئی تھی اس لئے بلاشبہ وہ اس کی مستحق تھی کہ اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے اور درحقیقت اس تخریب کاری کے اڈا کو مسجد کہنا حقیقت کے خلاف تھا اس لئے قرآن مجید نے اس حقیقت حال کو ظاہر کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ یہ مسجد تقویٰ نہیں بلکہ ”مسجد ضرار“ کہلانے کی مستحق ہے۔

ملاحظہ فرمائیے اس مسجد کے بارے میں قرآن مجید کے غضب ناک تیور اور پر جلال

الفاظ!

والذین اتخذوا مسجدا ضرارا	اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے
وکفرا وتفریقا بین المؤمنین و	کو اور کفر کے سبب سے اور مسلمانوں میں تفرقہ
وارصادا لمن حارب الله	ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ
ورسوله من قبل ۛ ولیحلفن ان	اور اس کے رسول کا مخالف ہے اور وہ ضرور
اردنا الا الحسنی ۛ واللہ یشہد	قسم میں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی چاہی
انہم لکذبون ☆ لانتقم فیہ ابداء	اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بیشک جھوٹے ہیں اس مسجد
لمسجد اسس علی التقوی من	میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا بیشک وہ مسجد کہ پہلے
اول یوم احق ان تقوم فیہ ط فیہ	دن سے جس کی بنیاد پر ہیزگاری پر رکھی گئی ہے
رجال یحبون ان یتطہروا ۛ واللہ	وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس
یحب المطہرین	میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں
﴿التوبہ رکوع ۱۳﴾	اور ستھرے لوگ اللہ کو پیارے ہیں۔

درس ہدایت

ایک ہی عمل۔ عمل کرنے والے کی نیت کے فرق سے ”اچھا“ بھی ہو سکتا ہے اور ”برا“

بھی“ طیب بھی بن سکتا ہے اور خبیث بھی۔

مسجد کی تعمیر ایک عمل خیر ہے مگر جب ”لوجه اللہ“ کی نیت ہو تو ثواب ہی ثواب ہے اور اگر ”شرفساد“ کی نیت ہو تو عذاب ہی عذاب ہے مسجد قبا اور مسجد نبوی کی تعمیر مقبول بارگاہ اور باعث ثواب ہوئی کیونکہ ان دونوں مسجدوں کے بنانے والوں کی نیت خدا کی رضا اور ان دونوں مسجدوں کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی اور منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد مردود بارگاہ الہی ہو گئی اور سراسر باعث عذاب بن گئی کیونکہ اس مسجد کو تعمیر کرنے والوں کی نیت رضائے الہی نہیں تھی اور اس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر نہیں رکھی گئی تھی بلکہ ان لوگوں کی غرض فاسد تخریب اسلام اور تفریق بین المسلمین تھی تو یہ مسجد قطعاً غیر مقبول ہو گئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں قدم رکھنے کی بھی ممانعت فرمادی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس مسجد کو نہ صرف ویران فرمادیا بلکہ اس کو جلا کر نیست و نابود کر ڈالا۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی اگر کسی مسجد کو گمراہ فرقوں والے اہل حق کے خلاف کین گاہ اور جاسوسی کا مرکز بنا کر اہل حق کے خلاف فتنہ پردازیاں کرنے لگیں تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس مسجد میں نماز کے لئے نہ جائیں بلکہ اس کا بائیکاٹ کر کے اس کو ویران کر دیں اور ہرگز ہرگز نہ اس مسجد میں نماز پڑھیں نہ اس کی تعمیر و آباد کاری میں کوئی امداد و تعاون کریں۔

یا پھر تمام مسلمان مل کر گمراہ فرقوں کو اس مسجد سے بے دخل کر دیں اور اس مسجد کو اپنے قبضہ میں لے کر گمراہوں کا تسلط ختم کر دیں تاکہ ان لوگوں کے شرفساد اور فتنہ انگیزیوں سے مسجد ہمیشہ کے لئے پاک ہو جائے واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۲۳) فرعون کا ایمان مقبول نہیں ہوا

فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہونے لگا تو ڈوبتے وقت تین مرتبہ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا مگر اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا اور وہ کفری ہی کی حالت میں مرا لہذا بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ فرعون مومن ہو کر مرا۔ اس کا قول قابل اعتبار نہیں ہے۔ (صاوی ج ۲ ص ۸۷۲)

ڈوبتے وقت ایک مرتبہ فرعون نے ”امنت“ کہا یعنی میں ایمان لایا دوسری مرتبہ انہ

لا اله الا الذی امننت به بنو اسرائیل کہا یعنی اس اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے دوسرا کوئی خدا نہیں ہے اور تیسری بار یہ کہا کہ وانا من المسلمین یعنی میں مسلمان ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے منہ میں خداوند تعالیٰ کے حکم سے کیچڑ بھر دی اور وہ اچھی طرح کلمہ ایمان ادا نہیں کر سکا۔ (جلالین)

یہ بھی ایک حکایت منقول ہے کہ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کی پاس یہ فتویٰ طلب کرنے کے لئے تشریف لے گئے کہ کیا فرماتے ہیں۔ بادشاہ اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولیٰ کے دے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں میں پلا بڑھا پھر اس نے اپنے مولیٰ کی ناشکری کی اور اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی سیادت کا اعلان کر دیا بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تو فرعون نے اس کا جواب یہ لکھا کہ ایسا غلام جو اپنے مولیٰ کی ناشکری کر کے اپنے مولیٰ کا باغی ہو گیا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دریا میں غرق کر دیا جائے چنانچہ جب ڈوبتے وقت فرعون پر موت کا غرغره سوار ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کا وہ دستخطی فتویٰ اس کو دکھایا اس کے بعد فرعون مر گیا۔ (صاوی ج ۲ ص ۱۷۲)

اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ

وجاء زنا بنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادركه الفرق قال امننت انه لا اله الا الذی امننت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین ☆ الن و قد عصیت قبل و كنت من المفسدین ☆ فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک اية و ان کثیرا من الناس عن ایتنا لغفلون ☆ ﴿یونس رکوع ۹۶﴾

اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو بولا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں کیا اب؟ اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا آج ہم تیری لاش کو تیرا دیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لئے نشانی ہو اور بیشک بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔

فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کی ہیبت کا اس درجہ دبدبہ

چھاپا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین بھی کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت بھی حاصل کریں۔ مشہور ہے کہ اس کے بعد ہی سے پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیراتا رہتا ہے یا کنارے پر پھینک دیتا ہے۔ (صاوی ج ۲ ص ۱۷۲)

### درس ہدایت

فرعون نے باوجودیکہ تین مرتبہ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا مگر پھر بھی اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے تین وجہیں بیان فرمائی ہیں۔

اول یہ کہ فرعون نے اپنے ایمان کا اقرار اس وقت کیا جب عذاب الہی اس کے سر پر مسلط ہو گیا اور موت کا غرغہ اس پر طاری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فلم یک ینفعهم ایمانہم لما راوا باسنا یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آجاتا ہے تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچاتا۔

چونکہ فرعون عذاب آجانے کے بعد جب موت کا غرغہ سوار ہو گیا اس وقت ایمان لایا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا اور حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ اس کے منہ کیچڑ بھر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اب تو ایمان لایا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو ہمیشہ ایمان لانے سے انکار کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کر کے فساد پھیلاتا رہا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ خدا کی توحید کے ساتھ رسول کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور فرعون نے لا الہ الا اللہ امنہ بہ بنوا اسرائیل کہا یعنی صرف خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لایا اس لئے وہ مومن نہ ہو سکا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فرعون نے ایمان لانے کے قصد سے کلمہ ایمان کا تلفظ نہیں کیا تھا بلکہ صرف غرق سے بچنے کے لئے یہ کلمہ کہا تھا جیسا کہ اس کی عادت تھی کہ ہر مصیبت اور عذاب نازل ہونے کے وقت وہ گڑگڑا کر خدا کی طرف رجوع کرتا تھا لیکن مصیبت ٹل جانے کے بعد پھر انار بکم الاعلیٰ کہہ کر اپنی خدائی کا ڈنکا بجایا کرتا تھا معلوم ہوا ہے کہ

صرف کلمہ اسلام کا تلفظ جب کہ ایمان لانے کی نیت نہ ہو بلکہ جان بچانے کے لئے کہا ہو یہ ایمان کے لئے کافی نہیں ہے لہذا فرعون کا ایمان مقبول نہیں ہوا اور صحیح قول یہی ہے کہ فرعون کفر ہی کی حالت میں غرق ہو کر مرا اس پر قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں شاہد عدل ہیں اسی لئے علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا کہ جن بعض لوگوں نے یہ کہا کہ فرعون مومن ہو کر مرا۔ ان لوگوں کا قول قابل اعتبار نہیں ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

## (۲۴) نوح علیہ السلام کی کشتی

حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے مگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے اسی طرح بارہا آپ کا گلا گھونٹتے رہے یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کریا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار! تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔

اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح (علیہ السلام) بہت پرانے پاگل ہیں اس لئے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح علیہ السلام اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے اور پھر آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لئے دعا فرمادی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں چنانچہ ایک سو برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو ۸۰ گز لمبی اور پچاس گز چوڑی تھی اور اس میں تین درجے تھے نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ اور درمیان طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لئے اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لئے جگہ بنائی

اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی اور ایک سو برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھی جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔

جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی کوئی کہتا کہ اے نوح! اب تم بڑھئی بن گئے؟ حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں کوئی کہتا کہ اے نوح اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا تمسخر دراستہزاء کرتے اور قسم قسم کی طعنہ بازیاں اور بدزمانیاں کرتے رہتے تھے اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو لیکن مت گھبراؤ جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آجائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔

جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نرو مادہ سوار کرا دیا اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام و سام و یافث اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور بہتر مومنین مرد و عورتیں کل اسی انسان کشتی میں سوار میں ہو گئے اور آپ کی ایک بیوی ”واعلہ“ جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔

روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ سے ان دونوں نے کہا کہ ہم کو سوار کر لیجئے ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العلمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھالیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی اور آپ کی کشتی ”جودی پہاڑ“ پر جا کر ٹھہر گئی اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ مع کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی اسی لئے آپ کا لقب ”آدم ثانی“ ہے۔

(صاوی ج ۲ ص ۱۸۲ وغیرہ تفاسیر)

قرآن مجید میں خداوند عزوجل نے اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ

اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم میں سے  
مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے تو  
ان کے کرتوتوں پر تم غم نہ کھاؤ اور تم کشتی بناؤ  
ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے اور  
ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا  
وہ ضرور غرق کر دیئے جائیں گے اور نوح کشتی  
بنارہے تھے تو جب ان کی قوم سرداران کے  
پاس سے گزرتے تو ان کی ہنسی اڑاتے تو  
نوح کہتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت  
ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہماری ہنسی  
اڑاتے ہو تو اب تم لوگ جان جاؤ گے کہ کس  
پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب اور اترتا  
ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے

واوحی الی نوح انه لن یومن من  
قومک الا من قدامن فلا تبئس بما  
کانوا یفعلون ☆ واصنع الفلک  
باعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی  
الذین ظلموا ۛ انہم مغرقون ☆  
ویصنع الفلک وکلما مر علیہ ملا  
من قومہ سخروا منہ ۛ قال ان  
تسخروا منا فانا نسخر منکم کما  
تسخرون ☆ فسوف تعلمون من  
یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ  
عذاب مقیم ☆

﴿ہود رکوع ۴﴾

## (۲۵) طوفان برپا کرنے والا تنور

یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دو سو برس پہلے ہی بذریعہ وحی مطلع  
کر دیا تھا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی مگر طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرما  
دی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن  
صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا اور آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرانا  
شروع کر دیا پھر زور دار بارش ہونے لگی جو مسلسل چالیس دن اور چالیس رات موسلا دھار  
برستی رہی اور زمین بھی جا بجا شق ہو گئی اور پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اس طرح بارش  
اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ چالیس چالیس گز اونچے پہاڑوں  
کی چوٹیاں ڈوب گئیں۔

چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ

حتی اذا جاء امرنا وفار التنور قلنا

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلتا تو

احمل فیہا من کل زوج اثنین  
واہلک الامن سبق علیہ القول  
ومن امن وما امن معہ الا قلیل ☆  
﴿ہود رکوع ۴﴾

ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لو ہر جنس سے  
ایک جوڑا نر و مادہ اور جن کی ہلاکت پہلے طے  
ہو چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور  
باقی مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ مسلمان نہ  
تھے مگر تھوڑے۔

اور آسمان و زمین کے پانی کی فراوانی اور طغیانی کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد ربانی  
ہوا کہ

ففتحنا ابواب السماء بماء منہم لا  
وفجرنا الارض عیونا فالتقی الماء  
علی امر قد قدرہ ﴿القمر رکوع ۱﴾

ہم نے آسمان کے دروازوں کو لگاتار برسنے  
والے پانی کے ساتھ کھول دیا اور چشمے پھاڑ  
دیے تو دونوں پانی مل گئے اور وہ کام ہو گیا  
جس کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔

یعنی طوفان آ گیا اور ساری دنیا غرق ہوگی (صاوی بیج ۲ ص ۱۸۳)  
طوفان کتنا زور دار تھا؟ اور طوفانی سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی؟ اس کی منظر کشی  
قرآن مجید نے ان لفظوں میں فرمائی ہے۔

وہی تجری بہم فی موج کالجبال  
﴿ہود رکوع ۴﴾

اور وہ کشتی انہیں لئے جارہی تھی پہاڑ جیسی  
موجوں میں۔

حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپڑوں سے  
نکراتی ہوئی برابر چلی جارہی تھی یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ کوہ جودی پر پہنچ کر ٹھہر گئی کشتی  
پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی کہ

بسم اللہ مجرہا ومرسہا ان ربی  
لغفور رحیم ﴿ہود رکوع ۴﴾

اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا  
بیشک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔

## (۲۶) جودی پہاڑ

حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپڑوں میں چھ ماہ تک چکر لگاتی رہی  
یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے بھی گزری اور کعبہ مکرمہ کا سات چکر طواف بھی کیا۔ پھر



اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر ”جزیرہ“ میں واقع ہے۔

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا لیکن ”جودی“ پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہری۔

اور ایک روایت ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے تھے یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جو دی پہاڑ پر دیکھا تھا۔

محرم کی دسویں تاریخ عاشورا کے دن یہ کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہری چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان اور وحوش و طیور وغیرہ سبھی نے شکرانہ کا روزہ رکھا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلی جو بستی بسائی ان کا نام ”ثمانین“ رکھا۔ عربی زبان میں ثمانین کے معنی ”اسی“ ہوتے ہیں چونکہ کشتی میں اسی آدمی تھے اس لئے اس گاؤں کا نام ”ثمانین“ رکھ دیا گیا۔ (صاوی ج ۲ ص ۱۸۴)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

واستوت علی الجودی وقیل بعدا اور کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور فرما دیا گیا کہ  
للقوم الظالمین ﴿ہود رکوع ۴﴾ دور ہوں بے انصاف لوگ!

## (۲۷) نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا

حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام ”کنعان“ تھا وہ صدق دل سے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا بلکہ وہ منافق تھا اور اپنے کفر کو چھپائے رکھتا تھا لیکن طوفان کے وقت اس نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس کو بلایا اور فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے! تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو تو اس نے کہا کہ میں طوفان میں پہاڑوں پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا تو آپ نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا کہ بیٹا! آج خدا کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ ہاں جس پر خداوند کریم اپنا رحم فرمائے بس وہی بچ سکتا ہے باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک زوردار موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ کنعان ایک بلند

پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں چھپ گیا اور غار کے تمام سوراخوں کو بند کر لیا مگر جب طوفان کی موج اس پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی تو غار میں پانی بھر گیا اس طرح کنعان اپنے بول و براز میں لت پت ہو کر غرقاب ہو گیا۔ (صاوی ج ۲ ص ۱۸۴)

قرآن مجید میں اللہ عزوجل نے اس واقعہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ

ونادی نوح ن ابنه وکان فی معزل  
یبنی اربکب معنا ولا تکن مع  
الکفرین ☆ قال ساوی الی جبل  
یعصمنی من الماء قال لا عاصم  
الیوم من امر اللہ الا من رحمہ  
و حال بینہما الموج فکان من  
المفرقین ﴿ہود رکوع ۴﴾

اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے  
کنارے تھا اے میرے بچے! ہمارے ساتھ  
سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ وہ بولا  
اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں وہ مجھے پانی  
سے بچالے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے  
عذاب سے کوئی چاہنے والا نہیں مگر وہ جس پر  
رحم کرے اور ان کے بیچ میں موج آڑ لے  
آئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔

بیٹے کو اپنے سامنے کو اس طرح غرقاب ہوتے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا  
صدمہ ورنج پہنچا اور آپ نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! میرا  
بیٹا کنعان تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو حکم الحاکمین ہے تو اللہ  
تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح! علیہ السلام یہ آپ کا بیٹا کنعان آپ کے ان گھر والوں میں  
سے نہیں ہے جن کو بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا لہذا اے نوح! علیہ السلام تمہارا یہ سوال  
ٹھیک نہیں ہے اس لئے تم مجھ سے ایسی کسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو  
حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار! میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ  
سے کسی ایسی بات کا سوال کروں جو مجھے معلوم نہیں ہے اور اگر تو مجھے معاف فرما کر رحم نہ  
فرمائے گا تو میں نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ (صاوی ج ۲ ص ۱۸۵)

قرآن مجید میں حضرت حق جل جلالہ نے اس واقعہ کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ

ونادی نوح ربہ فقال رب ان ابنی  
من اہلی وان وعدک الحق وانت  
احکم الحکمین ☆ قال ینوح انه

اور نوح نے اپنے رب کو پکارا عرض کی کہ اے  
میرے رب! میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور  
بیشک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر حکم

لیس من اهلک ۛ انه عمل غیر والا ہے۔ فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں  
 صالح ق فلا تسئلن مالیس لک میں نہیں۔ بیشک اس کے کام بڑے نالائق ہیں تو  
 بہ علم ۛ انی اعظک ان تکون من مجھ سے وہ بات نہ طلب کر جس کا تجھ کو علم نہیں۔  
 الجہلین ☆ قال رب انی میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔  
 اعوذبک ان اسئلک مالیس لی عرض کی اے میرے رب! میں تیری پناہ چاہتا  
 بہ علم ۛ وان لاتغفر لی وترحمنی ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں  
 اکن من الخاسرین۔ اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور رحم نہ کرے گا تو میں  
 ﴿ہود رکوع ۴﴾ نقصان میں پڑنے والا ہو جاؤں گا۔

## (۲۸) طوفان کیونکر ختم ہوا؟

جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو دی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کفار غرق  
 ہو کر فنا ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین! جتنا پانی تجھ سے چشموں کی  
 صورت میں نکلا ہے تو ان سب پانیوں کو پی لے اور اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔  
 چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور طوفان ختم ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم  
 دیا کہ اے نوح علیہ السلام آپ کشتی سے اتر جائیے۔ اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں  
 آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے۔ (ہود رکوع ۴)

حدیث شریف میں آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے  
 لئے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں  
 گی تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے تو  
 پرند ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی پھر  
 آپ نے کوئے کو بھیجا تو ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا تو آپ نے اس پر  
 لعنت فرمادی اور اس کے لئے بددعا فرمادی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے چنانچہ کوئے کو  
 حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ  
 ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں

اترے۔ اسلئے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اتر پڑا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگیں ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر! آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت طوق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھرایا اور اس کے لئے یہ دعا فرمادی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ (صاوی ج ۲ ص ۱۸۵)

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ

وقیل یارض ابلعی ماء ک ویسماء  
 اقلعی وغیض الماء و قضا الامر  
 واستوت علی الجودی وقیل بعدا  
 للقوم الظالمین ﴿ہود رکوع ۴﴾

اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین! اپنا پانی نکل لے اور اے آسمان! تھم جا اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری اور فرمایا گیا کہ دور ہوں ظالم لوگ۔

اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ

قیل ینوح اهبط بسلام منا وبرکت  
 علیک وعلی امم ممن معک  
 ﴿ہود رکوع ۴﴾

فرمایا گیا کہ اے نوح علیہ السلام کشتی سے اترو۔ ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں اور تمہارے ساتھ کچھ گروہوں پر ہیں۔

### درسِ ہدایت

حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعہ میں بڑی بڑی عبرتوں کے سامان ہیں جن کے انوار تجلیات سے قلوب مومنین پر ایسی ایمانی روشنی پڑتی ہے جس سے مومنین کا سینہ نور عرفان و جلوہ ایمان سے منور اور روشن ہو جاتا ہے چند تجلیوں کی نشان دہی حاضر ہے۔

(۱) حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک اپنی قوم کی ایذا رسانیوں اور دلخراش طعنوں اور گالیوں کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو ہدایت کا درست دیتے رہے اور جب تک ان پر وحی نہیں آگئی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ برابر ہدایت کا وعظ سناتے ہی رہے جب بذریعہ وحی آپ ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ظالموں کے لئے ہلاکت کی دعا فرمائی قوم مسلم کے واعظوں اور ہادیوں کے لئے حضرت نوح علیہ السلام کا اسوۂ حسنہ چراغ ہدایت و منارہ نور ہے کہ وہ بھی صبر و استقلال کے ساتھ برابر تبلیغ و ارشاد کا کام جاری رکھیں۔

(۲) حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین طوفان کے عظیم سیلاب میں جبکہ طوفان کی موجیں پہاڑوں کی طرح سر اٹھا رہی تھیں کشتی پر سوار تھے اور طوفانی موجوں کے سیلاب عظیم میں ایک تنکے کی طرح یہ کشتی ہچکولے کھاتی چلی جا رہی تھی مگر حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین توکل کی ایسی منزل بلند میں تھے کہ نہ ان لوگوں کو کوئی گھبراہٹ تھی نہ کوئی پریشانی اس میں مومنین کے لئے یہ ہدایت ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت بھی مومن کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر مطمئن رہنا چاہئے۔

(۳) حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکوں کی اولاد کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیک ہی ہوں بروں کی اولاد اچھی اور اچھوں کی اولاد بری ہو سکتی ہے یہ خداوند تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پر موقوف ہے وہ جس کو چاہے اچھا بنا دے اور جس کو چاہے برا بنا دے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۲۹) ایک گستاخ پر بجلی گر پڑی

ایک شخص جو کفار عرب کے سرداروں میں سے تھا اس کے پاس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چند صحابہ کرام کو تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا چنانچہ ان حضرات نے اس کے پاس پہنچ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا پیغام سنا کر اسلام کی دعوت دی تو اس گستاخ نے ازراہ تمسخر کہا کہ اللہ کون ہے؟ اور کیسا ہے اور کہاں ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا؟ اس کا یہ متکبرانہ اور گستاخانہ جواب سن کر صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان حضرات نے بارگاہ نبوت میں واپس لوٹ کر سارا ماجرا سنایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ!

اس شخص سے بڑھ کر کافر اور باری تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا تو ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دوبارہ اس کے پاس جاؤ چنانچہ یہ حضرات دوبارہ اس کے پاس پہنچے تو اس خبیث نے پہلے سے بھی زیادہ گستاخانہ الفاظ زبان سے نکالے۔ صحابہ کرام اس کی گستاخیوں اور بدزبانیوں سے رنجیدہ ہو کر دربار نبوت میں واپس پلٹ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ان صحابہ کرام کو اس کے پاس بھیجا جہاں یہ لوگ پہنچ کر اس کو دعوت اسلام دینے لگے اور وہ گستاخ ان حضرات سے جھگڑا کرتے ہوئے بدزبانی اور گالی گلوچ پر اتر آیا۔ صحابہ کرام ارشاد نبوی کے مطابق صبر کرتے رہے اسی دوران میں لوگوں نے دیکھا کہ ناگہاں ایک بدلی آئی اور اس بدلی میں اچانک گرج اور چمک پیدا ہوئی پھر ایک دم نہایت ہی مہیب گرج کے ساتھ اس کافر پر بجلی گری جس سے اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور وہ لمحہ بھر میں جل کر راکھ ہو گیا یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام بارگاہ اقدس میں واپس آئے تو ان حضرات کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جس گستاخ کے یہاں گئے تھے وہ تو جل کر راکھ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے انتہائی حیرت و تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کو کیسے اور کسی طرح اس کی خبر ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

(صادی ج ۲ ص ۲۲۷)

ویرسل الصواعق فیصلب بها من  
یشاء وهم یجادلون فی اللہ وهو  
شدید المحال ☆

اور اللہ کڑکنے والی بجلیوں کو بھیجتا ہے تو اسے  
جس پر چاہے ڈالتا ہے دریاں حالیکہ وہ لوگ  
اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اللہ کی

﴿الرعد رکوع ۲۴﴾ پکڑ بہت سخت ہے۔

### درس ہدایت

باری تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کو بارہا عذاب الہی نے اپنی گرفت میں لے کر ہلاک کر ڈالا ہے لہذا خبردار، خبردار اس مقدس جناب میں ہرگز ہرگز کوئی ایسا لفظ زبان سے نکالنا چاہئے جو شان الوہیت میں بے ادبی قرار پائے آج کل بہت سے لوگ بیماریوں اور مصیبتوں کے وقت خداوند تعالیٰ کی شان میں ناشکری کے الفاظ بول

کر خداوند قدوس کی بے ادبی کر بیٹھتے ہیں جس سے ان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے اور وہ دنیا و آخرت میں عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ منہ۔

## (۳۰) پانچ دشمنان رسول

کفار قریش کے پانچ سردار (۱) عاص بن داہل سہمی (۲) اسود بن مطلب (۳) اسود بن عبد یغوث (۴) حارث بن قیس (۵) ولید بن مغیرہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں دیتے اور آپ کا بے حد تمسخر اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے تو یہ پانچوں جثناء بھی پیچھے پیچھے آئے اور حسب عادت تمسخر اور طعن و تشنیع کے الفاظ بکنے لگے۔ اسی حال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص بن داہل سہمی کے پاؤں کے تلوے کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ کہا کہ میں ان لوگوں کے شر کو دفع کروں گا چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں یہ پانچوں دشمنان رسول طرح طرح کی بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ ایک تیر بیچنے والے کی دکان کے پاس سے گزرا۔ ناگہاں ایک تیر کا پیکان اس کے تہد میں چبھ گیا مگر اس کو نکلنے کے لئے اس نے تکبر سے سر نیچا نہ کیا اور کھڑے کھڑے تہبند ہلا ہلا کر پیکان کو نکلنے لگا جس سے اس کی پنڈلی زخمی ہو گئی اور وہ زخم اچھا نہیں ہوا بلکہ اسی زخم کی تکلیف اٹھا اٹھا کر وہ مر گیا۔

عاص بن داہل سہمی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا جس سے اس کے پاؤں میں زہر باد ہو گیا اور اس کا پاؤں پھول کر اونٹ کی گردن کی طرح موٹا ہو گیا اور اسی تکلیف میں وہ تڑپ تڑپ کر اور کراہتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔

اسود ابن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد اٹھا کہ وہ اندھا ہو گیا اور درد کی شدت سے وہ بے قراری میں اپنا سردیوار سے بار بار ٹکراتا تھا اور اسی درد و کرب کی بے چینی میں وہ مر گیا اور یہ کہتا ہوا مرا کہ مجھ کو محمد (صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے قتل کیا ہے۔

اسود بن عبد یغوث کو استتقار ہو گیا جس سے اس کا پیٹ بہت زیادہ پھول گیا اور وہ

اسی مرض میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو گیا۔

حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ بہنے لگا اور وہ اسی میں مر کر ہلاک ہو گیا، اس طرح یہ پانچوں گستاخان رسول بہت جلد بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر ہلاک ہو گئے۔

(صاوی ج ۲ ص ۲۵۵)

ان ہی پانچوں گستاخوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی۔

انا کفینک المستهزین لا الذین  
يجعلون مع الله الها اخرج فسوف  
يعلمون ☆  
بیشک ان مذاق اڑانے والوں کو آپکی طرف  
سے ہم کافی ہیں جو اللہ کیساتھ دوسرا معبود  
ٹھہراتے ہیں تو بہت جلد یہ لوگ جان لیں  
گے (کہ انکا کیا انجام ہوا) ﴿الحجر رکوع ۶﴾

### درس ہدایت

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ طعن و تمسخر ان کی ایذا رسانی اور توہین و بے ادبی وہ جرم عظیم ہے کہ خداوند قہار و جابر کا قہر و غضب ان مجرموں کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کو کبھی غرق کر کے ہلاک کر دیا کبھی ان کی آبادیوں پر پتھر برسایا ان کو برباد کر دیا۔ کبھی زلزلوں کے جھٹکوں سے ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کر کے تہس نہس کر دیا کچھ ذلت کے ساتھ قتل ہو گئے کچھ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اور تڑپتے تڑپتے مر گئے۔

اس زمانے میں بھی جو لوگ بارگاہ نبوت میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے رہتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ ان کے ایمان کی دولت تو غارت ہو ہی چکی ہے اب انشاء اللہ تعالیٰ وہ کسی نہ کسی عذاب الہی میں گرفتار ہو کر ذلت کی موت مر جائیں گے اور دنیا ان کے منحوس وجود سے پاک ہو جائے گی سن لو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی ہرگز غلط نہیں ہو سکتا لہذا تم لوگ انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور اگر عذاب الہی کی مار سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی فقط ایک ہی صورت ہے کہ صدق دل سے توبہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت سے اپنے دلوں کو معمور و آباد کر لو اور اپنے قول و فعل اور اعتقاد سے تعظیم و



تو قیر نبوی کو اپنا دینی شعار بنا لو پھر تم دیکھنا کہ ہر قدم پر تمہارے اوپر خداوند قدوس کی رحمتیں  
 زل ہوں گی اور خاتمہ بالخیر کی کرامتوں سے تم سرفراز ہو کر دونوں جہاں کی سعادتوں سے  
 بہرہ مند ہو جاؤ گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۳۱) تمام سواریوں کا ذکر قرآن میں

نزول قرآن کے وقت جو چوپائے عام طور پر بار برداری اور سواری کے لئے استعمال  
 آتے تھے وہ چار جانور تھے اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے، بار برداری اور سواری کے ان چار  
 جانوروں کا قرآن مجید میں خاص طور سے صراحتاً ذکر ہے ان کے علاوہ قیامت تک جتنی  
 سواریوں اور بار برداری کے سادھن عالم وجود میں آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کا  
 ذکر قرآن مجید میں اجمالاً بیان فرما دیا ہے چنانچہ سورہ نحل کی مندرجہ ذیل آیت کو بغور  
 پڑھ لیجئے۔ ارشاد ربانی ہے کہ

الانعام خلقها لکم فیها  
 ذفء و منافع و منها تاکلون  
 ☆ و لکم فیها جمال حین  
 تریحون و حین تسرحون ☆  
 و تحمل اثقالکم الی بلد لکم  
 تکونوا بلغیہ الا بشق الانفس  
 ان ربکم لرءوف رحیم  
 الخیل و البغال و الحمیر  
 لتربکبوا و زینتہ و یخلق مالا  
 تعلمون

اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے چوپائے پیدا فرمائے  
 کہ ان میں تمہارے لئے گرم لباس اور منفعتیں ہیں  
 اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو اور تمہارے لئے  
 ان چوپایوں میں زینت کا اظہار ہے جب تم انہیں  
 شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو  
 اور وہ (اونٹ وغیرہ) تمہارے بوجھ اٹھا کر لے  
 جاتے ہیں ایسے شہروں کی طرف کہ تم لوگ وہاں نہ  
 پہنچتے مگر آدھ مرے ہو کر بیشک تمہارا رب بہت  
 مہربان اور رحم والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑے اور  
 خچر اور گدھے پیدا کئے کہ تمہاری سواری اور زینت  
 بنیں اور وہ بہت سی ایسی سواریاں وغیرہ پیدا کریگا  
 جن کو تم لوگ نہیں جانتے۔

﴿انحل رکوع ۱﴾

اس آیت مبارکہ میں آخری جملہ و یخلق مالا تعلمون میں قیامت تک عالم وجود

میں آنے والی تمام بار برداری کے ذرائع اور قسم قسم کی ان مختلف سواریوں کے پیدا ہونے کا بیان ہے جو نزول قرآن کے وقت تک ایجاد نہیں ہوئی تھیں مثلاً سائیکل، موٹر ریل گاڑیاں، سڑکیں، بحری جہاز، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، راکٹ وغیرہ وغیرہ تمام نقل و حمل کے سامان اور سواریوں کے ذرائع سب کا اجمالاً ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار اور غیب کی خبر کا اعلان عام فرمایا ہے۔ ذرائع نقل و حمل اور سواریوں کے علاوہ اس آیت میں تو اس قدر عموم ہے کہ اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی ہر چیز اور تمام کائنات عالم کا اجمالاً بیان ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

چاروں سواریاں جو نزول قرآن کے وقت عرب میں عام تھیں۔ ان کے بارے میں کچھ خصوصیات حسب ذیل ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔

### اونٹ

یہ بہت سے نبیوں اور رسولوں کی سواری ہے۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ کی سواری فرمائی اور آپ کی دو اونٹنیاں بہت مشہور ہیں۔ ایک ”قصوی“ اور دوسری ”عضباء“ جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ کبھی دوڑ میں کسی اونٹ سے مغلوب نہیں ہوئی تھی مگر ایک مرتبہ ایک اعرابی کے اونٹ سے دوڑ میں پیچھے رہ گئی تو حضرات صحابہ کرام کو بہت شاق گزرا۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر یہ حق ہے کہ جب وہ کسی دنیا کی چیز کو بلند فرمادیتا ہے تو اس کو پست بھی کر دیتا ہے۔ مروی ہے کہ آپ کی اونٹنی ”عضباء“ نے آپ کی وفات کے بعد غم میں نہ کچھ کھایا نہ پیا اور وفات پا گئی اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میدان محشر میں تشریف لائیں گی۔ (روح البیان ج ۵ ص ۸)

”حیات الحیوان“ میں ہے کہ اونٹ کے بالوں کو جلا کر اس کی راکھ اگر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دی جائے تو خون فوراً بند ہو جائے گا اور اونٹ کی کلنی اگر کسی عاشق کی آستین میں باندھ دی جائے تو اس کا عشق زائل ہو جائے گا اور اونٹ کا گوشت بہت مقوی باد ہے۔

(روح البیان ج ۵ ص ۹)

## گھوڑا

سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سواری فرمائی۔ آپ سے پہلے یہ وحشی اور جنگلی چوپایہ تھا اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ گھوڑے کی سواری کرو کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیویوں کے بعد سب سے زیادہ گھوڑا محبوب تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ گھوڑا میدان جنگ میں یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ ”سبوح قدوس رب الملكة والروح“ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند گھوڑے تھے جن پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ کون کونسی سواریاں آپ کو پسند ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑا اور گدھا اور اونٹ کیونکہ گھوڑا اولوالعزم رسولوں کی سواری ہے اور اونٹ حضرت ہود حضرت صالح حضرت شعیب و حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری ہے اور گدھا حضرت عیسیٰ و حضرت عزیر علیہما السلام کی سواری ہے اور میں کیوں نہ اس چوپائے (گدھے) سے محبت رکھوں جس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ (روح البیان ج ۵ ص ۱۱)

## خنجر

یہ بھی ایک مبارک سواری ہے۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملکیت میں چھ خنجر تھے۔ ان میں سے ایک سفید رنگ کا تھا جو مقوقس والی مصر نے بطور ہدیہ آپ کی خدمت مبارکہ میں پیش کیا تھا جس کا نام ”دل دل“ تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اندرون شہر مدینہ اور اپنے باہر کے سفروں میں اس پر سواری فرمایا کرتے تھے اس کی عمر بہت زیادہ ہوئی یہاں تک کہ اس کے سب دانت ٹوٹ گئے تھے اور اس کی خوراک کے لئے جو کوٹ کر دلیہ بنایا جاتا تھا۔ یہ حضور کی وفات کے بعد مدتوں زندہ رہا چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دوران اس پر سوار ہوئے اور آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ خوارج کے موقع پر اسی خنجر پر سوار ہو کر جنگ کے لئے نکلے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صاحبزادگان حضرت امام حسن و حضرت امام حسین و حضرت محمد بن الحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ

عنہم نے بھی اس کی سواری کا شرف پایا۔ (روح البیان ج ۵ ص ۱۱)

### گدھا

یہ بھی انبیاء اور رسولوں کی سواری ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملکیت میں بھی دو گدھے تھے۔ ایک کا نام ”عفیر“ اور دوسرا کا نام ”یعفور“ تھا۔ روایت ہے کہ ”یعفور“ آپ کو خیبر میں ملا تھا اور اس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کلام کیا تھا کہ یا رسول اللہ! میرا نام ”زیاد بن شہاب“ ہے اور میرے باپ داداؤں میں ساٹھ ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں لہذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے چنانچہ اس چوپائے کی تمنا پوری ہو گئی کہ آپ کی وفات اقدس کے بعد ”یعفور“ شدت غم سے نڈھال ہو کر ایک کنویں میں گر پڑا اور فوراً ہی موت سے ہمکنار ہو گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ”یعفور“ کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ تو یہ جاتا تھا اور اس صحابی کے دروازے کو اپنے سر سے کھٹکھٹاتا تھا تو وہ صحابی یعفور کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ حضور نے مجھے بلایا ہے چنانچہ وہ فوراً ہی یعفور کے ساتھ دربار نبوی میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اوننی کپڑا پہنے گا اور بکری کا دودھ دوہے گا اور گدھے کی سواری کرے گا اس میں بالکل ہی تکبر نہیں ہوگا۔ (روح البیان ج ۵ ص ۱۱)

### درکِ ہدایت

ان چاروں سواریوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام و احسان کے ان جانوروں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے اور پھر ان چاروں سواریوں پر حضرات انبیاء علیہم السلام سوار ہوئے ہیں لہذا ان سواریوں کی توہین و تحقیر بہت بڑی گستاخی و بے ادبی ہے جو کفر تک پہنچا دینے والی منحوسیت ہے بلکہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان چوپایوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جان کر شکر بجالائے اور حضرات انبیاء علیہم السلام کی نسبت سے ان سواریوں کی دل سے قدر کرے اور ہرگز ہرگز ان کی توہین و تحقیر نہ کرے کہ اس میں ایمان کی سلامتی بلکہ ایمان کی نورانیت کا راز مضمحل ہے اور ان چاروں سواریوں کے بعد جو دوسری سواریاں ایجاد ہوئی ہیں ان پر بھی سوار ہونا جائز ہے اور ان میں سواریوں کے بارے میں ایمان رکھنا لازم

ہے کہ یہ سب خدا ہی کی پیدا کی ہوئی ہے اور یہ سب سواریاں وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے و یخلق مالا تعلمون فرما کر ان کے پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۳۲) شہد کی مکھی

عربی میں شہد کی مکھی کو ”نحل“ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل فرمائی۔ جس کا نام سورہ نحل ہے اس سورہ میں شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل اور اس کے فوائد و منافع کا تذکرہ فرمایا ہے جو قابل ذکر ہے اور درحقیقت یہ مکھیاں عجائبات عالم کی فہرست میں ایک بہت ہی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ اس مکھی کی چند خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

(۱) اس مکھی کے گھروں یعنی چھتوں کا ڈسپن اور نظام عمل اتنا منظم اور باقاعدہ ہے کہ گویا ایک ترقی یافتہ ملک کا ”نظام سلطنت“ ہے جو پورے نظام و انتظام کے ساتھ نظم مملکت چلا رہا ہے جس میں کوئی خلل اور فساد رونما نہیں ہوتا۔

(۲) ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مکھیاں اس طرح رہتی ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو جسم اور قد میں تمام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تمام مکھیاں اسی کی قیادت میں سفر اور قیادت کرتی ہیں اس بادشاہ کو ”یعسوب“ کہتے ہیں۔

(۳) ان کا ”یعسوب“ ان مکھیوں کے لئے تقسیم کار کرتا ہے اور سب کو اپنی اپنی ذیوٹی پر لگا کر کام کراتا ہے چنانچہ کچھ مکھیاں مکان بناتی ہیں جو سوراخوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ مکھیاں ان سوراخوں کو اتنی خوبصورتی اور یکسانیت کے ساتھ مسدس (چھ گوشوں والا) شکل کا بناتی ہیں کہ گویا کسی ماہر انجینئر نے پرکار کی مدد سے ان سوراخوں کو بنایا ہے۔ سب کی شکل بالکل یکساں اور ایک جیسی سب کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی بالکل برابر ہوتی ہے۔

(۴) کچھ مکھیاں ”یعسوب“ کے حکم سے انڈے بچے پیدا کرنے کا کام انجام دیتی ہیں کچھ شہد تیار کرتی ہیں کچھ موم بناتی ہیں کچھ پانی لاتی ہیں کچھ پہرہ دیتی رہتی ہیں مجال نہیں

ہے کہ کوئی دوسری مکھی ان کے گھر میں داخل ہو سکے۔

(۵) یہ مکھیاں پھلوں پھولوں وغیرہ کا رس چوس چوس کر لاتی ہیں اور شہد کے خزانے میں جمع

کرتی رہتی ہیں اور پھلوں پھولوں کی تلاش میں جنگلوں اور میدانوں میں سینکڑوں میل

الگ الگ دور دور تک چلی جاتی ہیں مگر یہ اپنے چھتوں کو نہیں بھولتی ہیں اور بلا تکلیف

بغیر کسی تلاش کے سیدھے سینکڑوں میل کی دوری سے اپنے چھتوں میں پہنچ جاتی ہیں۔

(۶) یہ مکھیاں مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں۔ کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی

سیاہ، کبھی زرد، کبھی پتلا، کبھی گاڑھا۔ مختلف موسموں میں اور مختلف پھلوں پھولوں کے

بدولت شہد کے مختلف رنگ اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں۔

(۷) یہ اپنے چھتے کبھی درختوں پر کبھی پہاڑوں پر کبھی گھروں میں کبھی دیواروں کی سوراخوں

میں کبھی زمین کے اندر بنایا کرتی ہیں اور ہر جگہ یکساں ڈسپلن اور نظام کے ساتھ ان کا

کارخانہ چلتا رہتا ہے۔

(۸) نافرمان اور باغی مکھیوں کو ان کا ”یعسوب“ مناسب سزائیں بھی دیتا ہے یہاں تک کہ

بعض کو قتل بھی کر دیتا ہے اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے کبھی کوئی شہد کی مکھی

کسی نجاست پر نہیں بیٹھ سکتی اور اگر کبھی کوئی بیٹھ جائے تو ان کا بادشاہ ”یعسوب“ اس

کو سخت سزا دے کر چھتے سے نکال دیتا ہے۔

قرآن مجید نے اس شہد کی مکھیوں کے مسائل کا خطبہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ

واوحی ربک الی النحل ان اتخذی اور تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو الہام

من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں

یعرشون لا ثم کلی من کل الثمرت اور چھتوں میں پھر ہر قسم کے پھل میں سے

فاسلکی سبل ربک ذللا ۛ ینخرج من کھا اور اپنے رب کی راہوں میں چل کہ

بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء تیرے لئے نرم و آسان ہیں۔ اس کے پیٹ

للناس ۛ ان فی ذلک لایتہ لقوم سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ کی نکلتی ہے

یتکفرون ☆ ﴿النحل رکوع ۹۴﴾ جس میں لوگوں کی تندرستی ہے بیشک اس

میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو

## درسِ ہدایت

اللہ تعالیٰ نے شہد کو تمام بیماریوں کے لئے شفاء فرمایا ہے چنانچہ بعض امراض میں تنہا شہد سے شفاء حاصل ہوتی ہے اور بعض امراض میں شہد کے ساتھ دوسری دواؤں کو ملا کر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں جیسا کہ معجونوں اور جوارشوں اور طرح طرح کے شربتوں کے ذریعے تمام بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے اور ان سب دواؤں میں شہد شامل کیا جاتا ہے اسی طرح شہد میں بھی شہد ڈالی جاتی ہے جو پیٹ کے امراض کے لئے بے حد مفید ہے۔ بہر حال ہر مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہئے کہ شہد میں شفاء ہے اس لئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فیہ شفاء للناس یعنی اس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۳۳) کھوسٹ عمر والا

انسان کی وہ طویل عمر جس میں انسان کے تمام قویٰ مضمحل اور بیکار ہو جاتے ہیں اور آدمی بالکل ہی ناقص القوۃ، کم عقل اور قلیل لفہم ہو کر بچپن کی ہیئت کے مثل عقل و دانائی اور ہوش و خرد سے عاری اور نسیان کے غلبہ سے سارا علم بھول جاتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے، چلنے پھرنے سے مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمر انسانی کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ

واللہ خلقکم ثم یتوفکم لا ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم  
 اور اللہ نے تم لوگوں کو پیدا کیا۔ پھر وہی تمہاری جانیں قبض کرے گا اور تم میں سے کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے بیشک اللہ سب کچھ جانتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے۔

اس ”ارذل العمر“ کی کوئی مقدار معین نہیں ہے۔ تاریخی تجربہ ہے کہ بعض لوگ ساٹھ ہی برس کی عمر میں ایسے ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ ایک سو برس کی عمر پا کر بھی کھوسٹ عمر کی منزل میں نہیں پہنچے ہاں امام قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ نوے برس کی عمر والے کے تمام قویٰ اور حواس عمل و تصرف سے ناکارہ ہو جاتے ہیں اور وہ ہر قسم کی کمائی اور حج و

جہاد وغیرہ کے قابل نہیں رہ جاتے اور یہ عمر اور اس کی کیفیات واقعی اس قابل ہیں کہ انسان اس سے خدا کی پناہ مانگے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سات چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اور یوں دعا مانگا کرتے تھے۔

اللہم انی اعوذ بک من البخل  
والکسل وارذل العمر وعذاب  
القبر وفتنتہ الدجال وفتنتہ  
المحیا والممات۔

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے  
اور کاہلی سے اور کھوسٹ عمر سے اور قبر کے  
عذاب سے اور فتنہ دجال سے اور زندگی کے  
فتنے سے اور موت کے فتنے سے۔

اسی لئے منقول ہے کہ مشہور بزرگ اور مستند عالم دین حضرت محمد بن علی واسطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات کے لئے خاص طور پر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔

یارب لاتحینی الی زمن  
خذ بیدی قبل ان اقول لمن  
اکون فیہ کلا علی احد  
القاه عند القیام خذ بیدی

یعنی اے اللہ! مجھے اتنے زمانے تک زندہ مت رکھ کہ میں کسی پر بوجھ بن جاؤں تو  
اس سے قبل میری دست گیری فرمائے کہ میں ہر ملنے والے سے اٹھتے وقت یہ کہوں کہ تم  
میرا ہاتھ پکڑ لو۔

حدیث شریف میں ہے اور بعض لوگوں نے اس کو حضرت عکرمہ کا قول بتایا ہے کہ جو  
شخص قرآن کو پڑھتا رہے گا وہ ارذل العمر (کھوسٹ عمر) کو نہ پہنچے گا اور ایسے ہی جو قرآن  
میں غور و فکر کرتا رہے گا اور قرآن پر عمل بھی کرتا رہے گا وہ بھی اس کھوسٹ عمر سے محفوظ رہے  
گا۔ (روح البیان ج ۵ ص ۵۵)

### درس ہدایت

زندگی اور موت اور کم یا زیادہ عمر یہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ و اختیار میں ہے وہ جس کو  
چاہے کم عمر عطا فرمائے جس کو چاہے طویل عمر بخشے۔ کسی انسان کو ہرگز ہرگز اس میں کوئی  
دخل نہیں ہے۔ انسان کو چاہئے کہ بہر حال خداوند قدوس کی مرضی پر صابر و شاکر رہے ہاں  
البتہ یہ دعا مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو نیکیوں میں گزارے اور ہر قسم کے گناہوں  
سے محفوظ رکھے کیونکہ تھوڑی سی عمر ہے اور نیکیوں میں گزرے تو اس سے بڑا کوئی انعام نہیں



اور عمر طویل پائے مگر حسنت اور نیکیوں میں نہ گزرے تو وہ لمبی عمر بہت بڑا خسارہ اور وبال ہے اور اس کا ہر وقت دھیان رکھے کہ کسی بوڑھے شخص کی بے ادبی نہ ہونے پائے بلکہ ہمیشہ بوڑھوں کا اعزاز و احترام پیش نظر رہے کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے دربار رسالت میں فقر و فاقہ کی شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک مشیت امام شیخ یعنی غالباً تم کسی بوڑھے آدمی کے آگے آگے چلے ہو گے یہ اسی کی نحوست ہے۔ (روح البیان ج ۵ ص ۶)

### (۳۴) بے وقوف بڑھیا

مکہ مکرمہ میں ایک بڑھیا ریٹھ بنت عمر تھی جس کے مزاج میں وہم اور عقل میں فتور تھا۔ وہ روزانہ دوپہر تک محنت کر کے سوت کا تا کرتی تھی اور دوپہر کے بعد وہ کاتے ہوئے سوت کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالتی تھی اور اپنی باندیوں سے بھی توڑ داتی تھی یہی روزانہ کا اس کا معمول تھا۔ (صاوی ج ۶ ص ۲۷۳)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھا کر یا اس کے نام پر لوگوں سے کوئی عہد کر کے اپنی قسموں اور عہدوں کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت سے تشبیہ دیتے ہوئے قسموں اور عہدوں کے توڑنے سے منع فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ

اور اللہ کا عہد پورا کرو جب قول باندھو اور	واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا
قسموں کو مضبوط کر کے مت توڑو اور تم اللہ کو	تنقضوا الایمان بعد توکیدھا وقد
اپنے اوپر ضامن کر چکے بیشک اللہ تمہارے	جعلتم اللہ علیکم کفیلاً ان اللہ
کاموں کو جانتا ہے اور تم اس عورت کی طرح	یعلم ما تفعلون ☆ ولا تكونوا کالتی
نہ ہو جاؤ جس نے اپنے سوت کو مضبوطی کے	نقضت غزلھا من بعد قوۃ انکاثا
بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔	﴿انحل رکوع ۱۳﴾

### درس ہدایت

ہر قسم کی بد عہدی اور عہد شکنی ممنوع اور شریعت میں گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بلا ضرورت اس کو توڑنا بھی جائز نہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ او فوا

بالمہود یعنی اپنے عہدوں اور معاہدوں کو پورا کرو اور فرمایا کہ واحفظوا ایمانکم یعنی اپنی قسموں کی حفاظت کرو ہاں البتہ اگر کسی خلاف شرع بات کی قسم کھالی ہو ہرگز اس قسم پر اڑے نہیں رہنا چاہئے بلکہ لازم ہے کہ اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۳۵) حصور کی گاؤں کی بربادی

”حصور“ یمن کا ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں والوں کی ہدایت کے لئے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام موسیٰ بن یثا تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پر پوتے تھے گاؤں والوں نے آپ کو جھٹلا دیا اور پھر آپ کو قتل کر دیا اس ناجائز حرکت پر خدا کا قہر و غضب اور اس کا عذاب گاؤں والوں پر اتر پڑا۔ گاؤں والے طرح طرح کی بلاؤں میں گرفتار ہو گئے یہاں تک کہ ”بخت نصر“ کافر و ظالم بادشاہ اس گاؤں پر مسلط ہو گیا اور اس نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ پورے گاؤں کے تمام مردوں کو قتل کر دیا اور سب عورتوں کو گرفتار کر کے لونڈی بنا لیا اور شہر کو تاخت و تاراج کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جب شہر میں قتل عام شروع ہوا تو گاؤں والے بھاگنے لگے اس وقت فرشتوں نے بطور مذاق کے کہا کہ اے گاؤں والو! مت بھاگو اور اپنے گھروں میں اپنے مال و دولت کو لے کر آرام و چین کی زندگی بسر کرو کہاں بھاگ رہے ہو ٹھہرو! یہ انبیاء علیہم السلام کے خون ناحق کا بدلہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے آسمان سے ملائکہ کی یہ آواز پورے گاؤں میں آتی رہی اور ”بخت نصر“ کے لشکروں کی تلواریں ان کے سر اڑاتی رہیں جب گاؤں والوں نے یہ منظر دیکھا تو اپنے گناہوں اور جرموں کا اقرار کرنے لگے مگر ان کی آہ و زاری اور گریہ و بے قراری نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا۔ گاؤں میں ہر طرف خون کی ندیاں بہہ گئیں اور اسرا گاؤں تہس تہس ہو گیا۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کی ہلاکت و بربادی کی داستان کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔

و کم قصمنا من قریۃ کانت ظالمتہ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کہ وہ  
وانشانا بعدھا قوما اخرین ☆ فلما ظالم تھیں اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا  
احسوا باسنا اذا ہم منها یر کضون ☆ کردی تو جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا

لاترکضوا وارجعوا الی ما  
اترفتم فیہ ومسکنکم لعلکم  
تسئلون ☆ قالوا یویلنا انا کنا  
ظلمین ☆ فما زالت تلک  
دعواہم حتی جعلنہم حصیدا  
خامدین ☆ ﴿الانبیاء رکوع ۲﴾

تو وہ اس سے بھاگنے لگے (تو فرشتوں نے کہا)  
کہ مت بھاگو اور لوٹ جاؤ ان آسائشوں کی  
طرف جو تم کو دی گئی تھیں اور اپنے مکانوں میں  
جاؤ شاید تم سے لوگوں کو کچھ پوچھنا ہو تو وہ  
بولے ہائے رے! ہماری خرابی بیشک ہم ظالم  
تھے تو وہ لوگ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم  
نے انہیں کاٹ کر بچھایا ہوا کھیت بنا دیا۔

اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت میں گاؤں سے مراد گزشتہ ہلاک شدہ  
امتوں کے گاؤں ہیں۔ یعنی حضرت نوح و حضرت لوط و حضرت صالح و حضرت شعیب علیہم  
السلام کی قوموں کی بستیاں جو طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک و برباد کر دی گئیں۔ واللہ  
تعالیٰ اعلم۔ (صاوی ج ۲ ص ۶۰)

### درسِ ہدایت

حضرت انبیاء علیہم السلام کی تکذیب و توہین اور ان کی ایذا رسانی و قتل یہ سب بڑے  
بڑے وہ جرم عظیم ہیں کہ خداوند قدوس کا عذاب ان لوگوں پر ضرور ہی آتا ہے چنانچہ قرآن  
مجید گواہ ہے کہ بہت سی بستیاں انہیں جرموں میں تباہ و برباد کر دی گئیں۔

## (۳۶) حضرت ذوالکفل علیہ السلام

قرآن مجید میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر صرف دو سورتوں یعنی سورہ ”انبیاء“  
اور سورہ ”ص“ میں کیا گیا ہے اور ان دونوں سورتوں میں صرف آپ کا نام مذکور ہے نام  
کے علاوہ آپ کے حالات کا مجمل یا مفصل کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے۔  
واسمعیل وادریس و ذالکفل و کل  
من الصبرین ﴿الانبیاء ع ۶﴾

اور سورہ ص میں اس طرح ارشاد ہوا کہ

واذکر اسماعیل والیسع و ذالکفل  
و کل من الاخیار ﴿ص رکوع ۴﴾

اور یاد کرو اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل (کے  
واقعات) اور یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔

حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید نے نام کے سوا کچھ نہیں بیان کیا ہے اسی طرح حدیثوں میں بھی آپ کا کوئی تذکرہ منقول نہیں ہے۔ لہذا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ نہیں کہا جاسکتا کہ ذوالکفل علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے جو کسی قوم کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔

البتہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند ہیں اور انہوں نے خالصاً لوجہ اللہ کسی کی ضمانت کر لی تھی جس کی وجہ سے ان کو کئی برس قید کی تکالیف برداشت کرنی پڑی۔

(موضح الفرقان سورہ انبیاء)

اور بعض مفسرین نے تحریر فرمایا کہ حضرت ذوالکفل درحقیقت حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے۔

اور زمانہ حال کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ذوالکفل ”گوتم بدھ“ کا لقب ہے اس لئے کہ اس کے دارالسلطنت کا نام ’کپل وستو‘ تھا جس کا معرب ”کفل“ ہے اور عربی میں ”ذو“ ”صاحب“ اور ”مالک“ کے معنی میں بولا جاتا ہے اس لئے یہاں بھی ”کپل دستو“ کے مالک اور بادشاہ کو ذوالکفل کہا گیا ہے اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ”گوتم بدھ“ کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام ہی کی تھی مگر بعد میں یہ دین دوسرے ادیان باطل کی طرح مسخ محرف ہو گیا مگر واضح رہے کہ زمانہ حال کے چند لوگوں کی یہ رائے کہ ”ذوالکفل“ ”گوتم بدھ“ کا لقب ہے میرے نزدیک یہ محض ایک خیالی تک بندی ہے۔ تاریخی اور تحقیقی حیثیت سے اس رائے کی کوئی وقعت نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور بنی اسرائیل کے ان حالات و واقعات کے سوا جن کی تفصیلات قرآن مجید میں مختلف انبیاء بنی اسرائیل کے ذکر میں آتی رہی ہیں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے زمانہ میں کوئی خاص واقعہ ایسا درپیش نہیں ہوا جو عام تبلیغ و ہدایت سے زیادہ اپنے اندر عبرت و موعظت کا پہلو رکھتا ہو۔ اس لئے قرآن مجید نے فقط ان کے نام ہی کے ذکر پر اکتفا کیا اور حالات و واقعات کا ذکر نہیں فرمایا فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۳۷) نہریں اٹھالی جائیں گے

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے۔ (۱) جیحون (۲) سیحون (۳) دجلہ (۴) فرات (۵) نیل۔ یہ پانچوں ندیاں ایک ہی چشمہ سے جاری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ جنت کے اس چشمہ کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا ہے اور پہاڑوں سے ان نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ چھ چیزوں کو زمین سے اٹھالے جائیں گے۔ (۱) قرآن مجید (۲) تمام علوم (۳) حجر اسود (۴) مقام ابراہیم (۵) موسیٰ علیہ السلام کا تابوت (۶) مذکورہ بالا پانچویں نہریں۔ اور جب یہ چھ چیزیں زمین سے اٹھائی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔

(صاف ج ۳ ص ۹۳)

اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ

وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکنه  
فی الارض وانا علی ہاب بہ  
لقدرون ☆ ﴿المومنون ع ۱﴾  
بیشک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔

اس آیت میں وانا علی ذہاب بہ لقدرون ☆ کا یہی مطلب ہے کہ ان پانیوں اور نہروں کو ایک وقت ہم اٹھا کر جہاں سے ہم نے اتارا ہے وہاں پہنچا دیں گے اور زمین سے یہ سب ناپید ہو جائیں گے۔

درکِ ہدایت

تو بندوں پر لازم ہے کہ خداوند قدوس کی ان نعمتوں کی شکرگزاری کے ساتھ حفاظت کریں اور ہرگز ہرگز پانی کو بے کار ضائع نہ کریں اور ہر وقت خدا سے ڈرتے رہیں کہ کہیں یہ نعمت ہم سے سلب نہ کر لی جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۳۸) تخلیق انسانی کے مراحل

اللہ تعالیٰ بڑا قادر و قیوم ہے اگر وہ چاہے تو ایک لمحہ میں ہزاروں انسانوں کو پیدا فرما دے مگر وہ قادر مطلق اپنی قدرت کاملہ کے باوجود اپنی حکمت کاملہ سے انسانوں کو بتدریج شرف وجود بخشتا ہے۔ چنانچہ نطفہ ماں کی بچہ دانی میں پہنچ کر طرح طرح کی کیفیات اور قسم قسم کے تغیرات سے ایک خاص قسم کا مزاج حاصل کر کے جما ہوا خون بن جاتا ہے پھر وہ جما ہوا خون گوشت کی ایک بوٹی بن جاتا ہے پھر گوشت کی بوٹی ہڈیاں بن جاتی ہیں پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے اور پورا جسم تیار ہو جاتا ہے پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے اور یہ بے جان بدن جاندار ہو جاتا ہے اور اس میں نطق اور سمع و بصر وغیرہ کی مختلف طاقتیں ودیعت رکھی جاتی ہیں پھر ماں اس بچہ کو جنمتی ہے اس طرح مختلف منازل و مراحل کو طے کر کے ایک انسان بتدریج عالم وجود میں آتا ہے چنانچہ قرآن مجید نے تخلیق انسانی کے ان مراحل کا نقشہ ان الفاظ میں پیش فرمایا ہے کہ

پھر ہم نے انسان کو ایک پانی کی بوند بنایا  
ایک مضبوط ٹھہراؤ۔ (بچہ دانی) میں پھر ہم  
نے اس پانی کی بوند کو جما ہوا خون بنا دیا۔  
پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا۔  
پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا کر پھر ان  
ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا پھر اسے ایک دوسری  
صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے  
سب سے بہتر پیدا فرمانے والا۔

ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ☆ ثم  
خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه  
مضغته فخلقنا المضغة عظما  
فكسونا العظم لحما ثمه انشانه  
خلقنا اخر فتبارك الله احسن  
الخالقين ☆

﴿المؤمنون ركوع ۱﴾

### درسِ ہدایت

تخلیق انسانی کے ان مختلف مراحل سے گزرنے میں خداوند قدوس کی کون کون سی حکمتیں اور کہا کیا مصلحتیں پوشیدہ ہیں؟ ان کو بھلا ہم عام انسان کیا اور کیونکر سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن کم سے کم ہر انسان کے لئے اس میں عبرتوں اور نصیحتوں کے بہت سے سامان ہیں تاکہ انسان یہ سوچتا رہے اور کبھی اس سے غافل نہ رہے کہ میں اصل میں کیا تھا اور خداوند قدوس

نے مجھے کیا ہے کیا بنا دیا یہ غور کر کے خداوند تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان لائے اور کبھی فخر و تکبر اور خودنمائی کو اپنے قریب نہ آنے دے اور یہ سوچ کر کہ میں نطفہ کی ایک بوند سے پیدا ہوا ہوں ہمیشہ عاجزی و فروتنی کے ساتھ منکسر المزاج بن کر زندگی بسر کرے اور یہ سوچ کر قیامت پر بھی ایمان لائے کہ جس خدا نے مجھے ایک بوند نطفہ کے پانی سے انسان بنا دیا وہ بلاشبہ اس پر بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ کر کے میرے اعمال نیک و بد کا حساب لے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۳۹) مبارک درخت

قرآن مجید میں مبارک درخت سے مراد ”زیتون“ کا درخت ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد یہ سب سے پہلا درخت ہے جو زمین پر اگا اور سب سے پہلے جہاں اگا وہ کوہ طور ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہمکلام ہوئے۔ زیتون کے درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں تک کہ بعض عالموں نے فرمایا کہ تین ہزار برس تک یہ درخت باقی رہتا ہے۔ (صاوی ج ۳ ص ۹۵)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ زیتون میں بہت سے فوائد اور منفعتیں ہیں۔ اس کے تیل سے چراغ جلایا جاتا ہے اور یہ بطور سالن کے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو سر اور بدن پر مالش بھی کرتے ہیں اور یہ چمڑے کی دباغت میں بھی کام آتا ہے اور اس سے آگ بھی جلاتے ہیں اور اس کا کوئی جزو بھی بیکار نہیں یہاں تک کہ اس کی راکھ سے ریشم دھو کر صاف کیا جاتا ہے اور یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے مکانوں اور مقدس زمینوں میں اگتا ہے اور اس کے لئے ستر انبیاء کرام نے برکت کی دعائیں مانگی ہیں یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس دعاؤں سے بھی یہ درخت سرفراز ہوا ہے۔ (صاوی ج ۳ ص ۱۱۵)

اللہ تعالیٰ نے اس مبارک درخت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين ☆  
 سے نکلتا ہے اور تیل اور کھانے والوں کے لئے سالن لے کر اگتا ہے۔ ﴿المومنون رکوع ۱﴾

دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔

یوقد من شجرة مبركة زيتونة اور چراغ روشن کیا جاتا ہے برکت والے  
لاشرقية ولا غربية. درخت زیتون سے جو نہ پورب کا ہے نہ کچھم

﴿النور رکوع ۵﴾ کا۔

### درکِ ہدایت

زیتون ایک بڑی برکتوں والا درخت ہے یوں تو ہر جگہ یہ درخت بغیر کسی محنت اور  
پرورش کے ہوتا ہے لیکن خاص طور پر ملک شام اور عام طور پر ملک عرب میں بکثرت پایا جاتا  
ہے اور ان مقامات پر اس کا تیل بھی لوگ کثرت سے استعمال کرتے ہیں یہاں تک کہ مکہ  
مکرمہ میں گوشت اور مچھلی بھی اسی تیل میں تل کر لوگ کھاتے ہیں اس کے تیل کو عربی میں  
”زیت“ کہتے ہیں اور یہ تیل بیچنے والا ”زیات“ کہلاتا ہے اگر مل سکے تو مسلمانوں کو چاہئے  
کہ تبرکاً اس کا استعمال کریں کیونکہ قرآن میں اس کو مبارک درخت فرمایا گیا ہے اور ستر انبیاء  
کرام نے اس میں برکت کے لئے دعائیں فرمائی ہیں لہذا اس کے بابرکت ہونے میں کوئی  
شک و شبہ نہیں اور جب بابرکت چیز ہے تو اس میں یقیناً فوائد و منافع بھی بہت زیادہ ہوں  
گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### (۴۰) اصحاب الرس کون ہیں؟

”رس“ لغت میں پرانے کنوئیں کے معنی میں آیا ہے اس لئے ”اصحاب الرس“ کے  
معنی ہوئے ”کنوئیں والے“ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ”اصحاب الرس“ کے نام سے ایک  
قوم کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اس کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے چنانچہ سورہ فرقان میں  
ارشاد فرمایا کہ

و عادا و ثمودا و اصحاب الرس  
وقرونا بین ذلک کثیرا ☆ وکلا  
ضربنا له الامثال وکلا تبرنا تتبیرا  
اور عادا اور ثمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے  
درمیانی زمانہ کی بہت سی قوموں کو ہم نے  
ہلاک کر دیا اور ہم نے ہر ایک کے واسطے  
مثالیں بیاں کیں اور ہم نے ان کو سب تباہ

﴿الفرقان رکوع ۴﴾



کر کے مٹا دیا۔

اور سورہ ق میں ہلاک شدہ قوموں کی فہرست بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس

طرح فرمایا کہ

كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب  
الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان  
لوط ☆ واصحاب الايكة و قوم تبع  
كل كذب الرسل فحق وعيد ☆  
ان سے پہلے بھی نوح کی قوم اور اصحاب  
الرس اور ثمود و عاد و فرعون و برادران لوط و  
اصحاب ایکہ اور تبع کی قوم ان میں سے ہر  
ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان سبھوں پر میرا  
عذاب لازمی طور پر آ گیا۔

﴿ق ر كوع ا﴾

”اصحاب الرس“ کون تھے اور کہاں رہتے تھے؟ اس بارے میں مفسرین کے اقوال  
اس قدر مختلف ہیں کہ حقیقت حال بجائے منکشف ہونے کے اور زیادہ مستور ہو گئی ہے بہر  
حال ہم مختصر اچند اقوال یہاں ذکر کر کے ایک اپنی بھی پسندیدہ بات تحریر کرتے ہیں۔

قول اول :- علامہ ابن جریر کی رائے یہ ہے کہ رس کے معنی غار کے بھی آتے ہیں  
اس لئے ”اصحاب الاخدود“ (گڈھے والوں) ہی کو ”اصحاب الرس“ بھی کہتے ہیں۔

قول دوم :- ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس قول کو حق بتایا ہے کہ ”اصحاب الرس“  
قوم عاد سے بھی صدیوں پہلے ایک قوم کا نام ہے یہ لوگ جس جگہ آباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ  
نے ایک پیغمبر حضرت حنظلہ بن صفوان کو مبعوث فرمایا تھا اس سرکش قوم نے اپنے نبی کی بات  
نہیں مانی اور کسی طرح بھی حق کو قبول نہیں کیا بلکہ اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا جس کی سزا میں پوری  
قوم عذاب الہی سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ (تفسیر ابن کثیر سورہ فرقان و تاریخ ابن کثیر ج ۱)

قول سوم :- ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ آذربائی جان کے قریب ایک کنواں تھا۔ اس  
کنوئیں کے قریب جو قوم آباد تھی اس نے اپنے نبی کو کنوئیں میں ڈال کر زندہ دفن کر دیا تھا اس  
لئے ان لوگوں کو ”اصحاب الرس“ کہا گیا۔ (تفسیر ابن کثیر سورہ فرقان و تاریخ ابن کثیر ج ۱)

قول چہارم :- قتادہ کہتے ہیں کہ ”یمامہ“ کے علاقہ ”فلج“ نامی ایک بستی تھی۔ ”اصحاب  
الرس“ وہیں آباد تھے اور یہ وہی قوم ہے جس کو قرآن مجید میں ”اصحاب القریہ“ بھی کہا گیا  
ہے اور یہ مختلف نسبتوں سے پکارے جاتے ہیں۔

قول پنجم :- ابو بکر عمر نقاش اور سہیلی کہتے ہیں کہ ”اصحاب الرس“ کی آبادی میں ایک

بہت بڑا کنواں تھا جس کا پانی وہ لوگ پیتے بھی تھے اور اس کے اپنے کھیتوں کی آبپاشی بھی کرتے تھے ان لوگوں نے گمراہ ہو کر اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا تھا اس جرم میں عذاب الہی اتر پڑا اور یہ پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔

قول ہشتم:۔ محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اول الناس یدخل الجنة یوم القیمة العبد الاسود۔ یعنی جنت میں سب پہلے جو شخص داخل ہوگا وہ ایک کالا غلام ہوگا۔

اور یہ اس لئے کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نبی بھیجا مگر ایک کالے غلام کے سوا کوئی ان پر ایمان نہیں لایا۔ پھر اہل شہر نے اس نبی کو ایک کنوئیں میں ڈال کر کنوئیں کے منہ کو ایک بہت بھاری پتھر سے بند کر دیا تاکہ کوئی کھول نہ سکے مگر یہ سیاہ فام غلام روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے کھانا خریدتا اور کنوئیں پر پہنچ کر پتھر اٹھاتا اور نبی کی خدمت میں کھانا پیش کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس غلام پر جنگل میں نیند طاری کر دی اور یہ چودہ سال تک سوتا ہی رہ گیا اس درمیان میں قوم کا دل بدل گیا اور ان لوگوں نے نبی کو کنوئیں میں سے نکال کر توبہ کر لی اور ایمان قبول کر لیا پھر چند دنوں کے بعد نبی کی وفات ہو گئی۔ چودہ سال کے بعد جب کالے غلام کی آنکھ کھلی تو اس نے سمجھا کہ میں چند گھنٹے سویا ہوں۔ جلدی جلدی لکڑیاں کاٹ کر وہ شہر میں پہنچا تو یہ دیکھا کہ شہر کے حالات بدلے ہوئے ہیں۔ دریافت کیا تو سارا قصہ معلوم ہوا اور اسی غلام کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے ایک کالا غلام جائے گا۔ (مروج الذهب ص ۸۶)

قول ہفتم:۔ مشہور مورخ علامہ مسعودی بیان کرتے ہیں کہ ”اصحاب الرس“ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ دو قبیلے تھے۔ ”قیدما“ (قید ماہ) اور دوسرا (یامین) یا ”رعویل“ اور یہ دونوں قبیلے یمن میں آباد تھے۔ (ارض القرآن ج ۲ ص ۵۶)

قول ہشتم:۔ مصر کے ایک عالم فرج اللہ ذکی کروی کہتے ہیں کہ لفظ ”رس“ ”ارس“ کا مخفف ہے اور یہ شہر قفقاز کے علاقہ میں واقع ہے اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام ابراہیم زردشت تھا انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی مگر ان کی قوم نے سرکشی اور بغاوت اختیار کی چنانچہ یہ قوم عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئی۔

”اصحاب الرس“ کے بارے میں یہ آٹھ اقوال ہیں جن میں سے بھی اقوال معرض بحث میں ہیں اور لوگوں نے ان اقوال و روایات پر کافی رد و قدح کیا ہے جن کی تفصیلات کو ذکر کر کے ہم اپنی مختصر کتاب کو طول دینا پسند نہیں کرتے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ”اصحاب الرس“ کے بارے میں قرآن مجید سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا وجود یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل ہو گیا ہے اب رہا یہ فیصلہ کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانہ کی کسی قوم کا تذکرہ ہے یا کسی قدیم العہد قوم کا ذکر ہے تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا ہے اور مذکورہ بالا تفسیری روایتوں سے اس کا قطعی فیصلہ ہونا بہت ہی مشکل ہے۔  
واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۴۱) اصحاب ایکہ کی ہلاکت

”ایکہ“ جھاڑی کو کہتے ہیں ان لوگوں کا شہر سرسبز جنگلوں اور ہرے بھرے درختوں کے درمیان تھا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لئے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے ”اصحاب ایکہ“ کے سامنے جو وعظ فرمایا وہ قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا آپ نے فرمایا کہ

کیا تم لوگ ڈرتے نہیں بیشک میں تمہارے لئے اللہ کا امانت دار رسول ہوں لہذا تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور میں اس (ہدایت) پر تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو وہی دے گا جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ ناپ پورا دو اور ناپ تول گھٹانے والوں میں سے مت ہو جاؤ اور درست ترازو سے تولو اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو اور اس ذات سے ڈرو جس نے تم کو	الا تتقون ☆ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ☆ وما اسئلکم علیہ من اجرٍ ان اجری الا علی رب العلمین ☆ اوفوا الکیل ولا تکنونوا من المنحسرین ☆ وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاء ہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین ☆ واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین ☆ قالوا انما انت من المسحرین ☆ وما انت الا بشر مثلنا
---	--

وان نظنک لمن الکذبین ☆ فاسقط اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے (یہ وعظ سن کر)  
 علینا کسفا من السماء ان کن من وہ لوگ بولے کہ (اے شعیب) تم پر جادو کر  
 الصدقین ☆ قال ربی اعلم بما دیا گیا ہے اور تم تو ہمارے ہی جیسے ایک آدمی  
 تعملون ☆ فکذبوه فاخذهم عذاب ہو اور یقیناً ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں تو ہم پر  
 یوم الظلة انه کان وعذاب یوم آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو تو آپ  
 نے فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے  
 عظیم ☆

﴿شعراء رکوع ۱﴾ تمہارے کرتوت کو ان لوگوں نے شعیب کو  
 جھٹلا دیا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا بلاشبہ وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔  
 خلاصہ یہ کہ ”اصحاب ایکہ“ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مصلحانہ تقریر کو سن کر  
 بدزبانی کی اور اپنی سرکشی اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور یہاں  
 تک اپنی سرکشی کا اظہار کیا کہ پیغمبر سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا  
 گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔

اس کے بعد اس قوم پر خداوند قہار و جبار کا قاہرانہ عذاب آ گیا وہ عذاب کیا تھا؟ سنئے  
 اور عبرت حاصل کیجئے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا  
 جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی اور بستی والوں کا دم  
 گھٹنے لگا تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے مگر  
 پانی اور سایہ سے انہیں کوئی چین اور سکون نہیں ملتا تھا اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلے  
 جا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گئی اور  
 اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا تھی یہ دیکھ کر سب گھروں سے نکل کر اس بدلی کے  
 شامیانے میں آ گئے جب تمام آدمی بدلی کے نیچے آ گئے تو زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ  
 برسی جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے۔ ان لوگوں نے اپنی  
 سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شعیب! ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا اگر ہم کو ہلاک کر دو چنانچہ  
 وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن  
 گئے۔ (صاوی ج ۳ ص ۱۵۰)

## ایک ضروری توضیح

واضح رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایک قوم ”مدین“ دوسرے ”اصحاب ایکہ“ ان دونوں قوموں نے آپ کو جھٹلا دیا اور اپنے طغیان و عصیان کا مظاہرہ اور اپنی سرکشی کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں قوموں نے آپ کے ساتھ بے ادبی اور بدزبانی کی اور دونوں قومیں عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئی۔ ”اصحاب مدین“ پر تو یہ عذاب آیا کہ فاخذتہم الصبحۃ یعنی حضرت جبرائیل کی چیخ اور چنگھاڑ کی ہولناک آواز سے زمین دہل گئی اور لوگوں کے دل خوف دہشت سے پھٹ گئے اور سب دم زدن میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔

اور ”اصحاب ایکہ“ عذاب الظلۃ سے ہلاک کر دیئے گئے جس کا تفصیلی بیان ابھی ابھی آپ پڑھ چکے۔ (صاوی ج ۳ ص ۱۵۰)

## (۴۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت

حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے فرعون کے محل میں پلے بڑھے مگر جب جوان ہو گئے تو فرعون اور اس کی قوم قبلیوں کے مظالم دیکھ کر بیزار ہو گئے اور فرعونوں کے خلاف آواز بلند کرنے لگے۔ اس پر فرعون اور اس کی قوم جو ”قبلی“ کہلاتے تھے آپ کے دشمن بن گئے اور آپ فرعون کا محل بلکہ اس کا شہر چھوڑ کر اطراف میں چھپ کر رہنے لگے۔ ایک دن جب شہر والے دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے تو آپ چپکے سے شہر میں داخل ہو گئے اور اس شہر کا نام ”منف“ تھا جو مصر کے حدود میں واقع ہے اور ”منف“ دراصل ”مانہ“ تھا۔ جو عربی میں ”منف“ ہو گیا اور بعض کا قول ہے کہ یہ شہر ”عین الشمس“ تھا اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ شہر ”حامین“ تھا جو مصر سے دو کوس دور ہے۔

(جمل و خازن یا ”ام خنان“ یا مصر تھا) (صاوی ج ۳ ص ۱۷۶)

جب آپ شہر میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ ایک شخص آپ کی قوم کا اسرائیلی اور ایک شخص فرعون کی قوم کا قبلی لڑ جھگڑ رہے ہیں اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کر کے مدد مانگی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد

کر کے مدد مانگی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبیلے کو ایک ایک گھونہ مار دیا جس سے اس کا دم نکل گیا۔ اس پر آپ کو بہت افسوس ہوا اور آپ خدا سے استغفار کرنے لگے۔ فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ کسی اسرائیلی نے ہمارے ایک قبیلے کو مار ڈالا ہے اس پر فرعون نے قاتل اور گواہوں کی تلاش کا حکم دیا۔ فرعونی چاروں طرف گشت کرتے پھرتے تھے مگر کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ رات بھر صبح تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فکر مند رہے کہ خدا جانے اس قبیلے کے مارے جانے کا کیا نتیجہ نکلے گا اور اس کی قوم کے لوگ کیا کریں گے؟ دوسرے روز جب موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ وہی اسرائیلی جس نے ایک دن پہلے آپ سے مدد طلب کی تھی آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے تو آپ نے اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو روز روز لوگوں سے لڑتا ہے۔ اپنے کو بھی پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے مددگاروں کو بھی فکر میں مبتلا کرتا ہے لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی پر رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ اس کو فرعون کے ظلم سے بچائیں تو اسرائیلی بولا کہ اے موسیٰ! کیا تم مجھے بھی ایسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ کل تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ کیا تم یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور اصلاح چاہتے ہی نہیں۔ اتنے میں شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور یہ خبر دی کہ دربار فرعون کے قبیلے آپس میں آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں لہذا آپ شہر سے نکل جائیے۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں تو آپ ڈرتے ہوئے شہر کے باہر نکل گئے اور اس انتظار میں رہے کہ دیکھئے اب کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب! مجھے ظالموں سے بچالے۔ یہ دعا مانگ کر آپ ہجرت کر کے مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے آپ کو پناہ دی اور پھر اپنی ایک صاحبزادی بی بی صفوراء سے آپ کا نکاح بھی کر دیا۔

(قرآن مجید سورہ قصص رکوع ۲۴)

جس شخص نے شہر کے کنارے سے دوڑتے ہوئے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے قتل کا منصوبہ تیار ہونے کی خبر دی اور ہجرت کا مشورہ دیا وہ فرعون کے چچا کا لڑکا تھا جس کا نام حزقیل یا شمعون یا اسمعان تھا۔ یہ خاندان فرعون میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام

پر ایمان لا چکا تھا۔ (صاوی ج ۳ ص ۱۷۷)

### درسِ ہدایت

اس واقعہ سے علماء حق کو عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیائے کرام علیہم السلام راہ تبلیغ میں کیسے کیسے حادثات سے دوچار ہوئے مگر صبر و استقامت کا دامن ان حضرات کے ہاتھوں سے نہیں چھوٹا یہاں تک کہ نصرت خداوندی نے ان حضرات کی ایسی دستگیری فرمائی کہ یہ حضرات کامیاب ہو کر رہے اور ان کے دشمنوں کو ہزیمت اور ہلاکت نصیب ہوئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## مکڑی کا گھر

کفار نے بتوں کو معبود بنا کر ان کی امداد و اعانت اور نصرت و نفع رسانی پر جو اعتماد و اور بھروسہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس حماقت مآبی کے اظہار اور ان کی خود فریبیوں کا پردہ چاک کرنے کے لئے ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے جو بہت زیادہ عبرت خیز اور اعلیٰ درجے کی نصیحت آموز ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ

مثل الذین اتحدوا من دون اللہ  
اولیاء کمثل العنکبوت اتحدت  
بیتاء وان اوهن البیوت لیت  
العنکبوت م لو کانوا یعلمون  
﴿العنکبوت رکوع ۳﴾

ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو اپنا مالک بنا لیا ہے مکڑی کی طرح ہے کہ اس نے جالے کا گھر بنایا ہے اور بیشک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ جان لیتے۔

مطلب یہ ہے کہ مکڑی جالے کا گھر بنا کر اپنے خیال میں مگن رہتی ہے کہ میں مکان میں بیٹھی ہوئی ہوں مگر اس کے مکان کا یہ حال ہے کہ وہ نہ دھوپ بچا سکتا ہے نہ بارش سے نہ گرمی سے محفوظ رکھ سکتا ہے نہ سردی سے حفاظت کر سکتا ہے اور ہوا کے ایک معمولی جھونکے سے تہس نہس ہو کر برباد ہو جایا کرتا ہے یہی حال کفار کا ہے کہ ان لوگوں نے بتوں کو اپنے نفع و نقصان کا مالک بنا لیا ہے اور ان بتوں کی امداد و نصرت پر اعتماد اور بھروسہ کر رکھا ہے حالانکہ بتوں سے ہرگز ہرگز کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچ سکتا اور کافروں کا بتوں پر اعتماد اتنا ہی

کمزور سہارا ہے جتنا کہ مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے کاش کفار اس بات کو سمجھ لیتے تو یہ ان کے حق میں بہت ہی اچھا ہوتا۔

## مکڑی

مکڑی ایک عجیب الخلق جانور ہے اس کے آٹھ پاؤں اور چھ آنکھیں ہوتی ہیں یہ بہت ہی قناعت پسند جانور ہے مگر خدا کی شان کہ سب سے حریص جانور یعنی مکھی اور مچھر اس کی غذا ہیں۔ مکڑی کئی کئی دنوں تک بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہے مگر اپنے جالے سے نکل کر غذا تلاش نہیں کرتی جب جالے کے اندر کوئی مکھی یا مچھر پھنس جاتا ہے تو یہ اس کو کھا لیتی ہے ورنہ صبر و قناعت کر کے پڑی رہتی ہے۔

مکڑی کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہجرت کے وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما تھے تو مکڑی نے غار کے منہ پر جالاتن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیئے تھے جس کو دیکھ کر کفار واپس لوٹ گئے کہ اگر غار میں کوئی شخص گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا اور انڈا ٹوٹ گیا ہوتا۔ (صاوی ج ۳ ص ۱۹۷)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالوں کو دور کرتے رہو کہ یہ مفلسی اور ناداری کا باعث ہوتے ہیں۔

(خزائن العرفان ص ۲۷۶)

## (۲۴) حضرت لقمان حکیم

حضرت لقمان کی مدح و ثنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انہیں کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام ”سورہ لقمان“ رکھا گیا۔

محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے لقمان بن باعور بن باجور بن تاریخ۔ یہ تاریخ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد ہیں اور بعض مورخین نے فرمایا کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔



حضرت لقمان نے ایک ہزار برس کی عمر پائی یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا ہے کہ میں نے چار ہزار نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے آٹھ باتوں کو میں نے جن کر یاد کر لیا ہے جو یہ ہیں۔

(۱) جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔

(۲) جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔

(۳) جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو۔

(۴) جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت رکھو۔

(۵) اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ (۶) اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔

(۷) اپنے احسانوں کو بھلا دو۔ (۸) دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔

حضرت عکرمہ اور امام شعیبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزانہ بنا دیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے۔

ولقد اتینا لقمن الحکمة ان اشکر لله و من یشکر فانما لیشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید

اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کے لئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو بیشک اللہ بے پرواہ ہے تعریف کیا ہوا ہے۔

☆ ﴿لقمان رکوع ۲۴﴾

حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے تفسیر فتح الرحمن میں ہے کہ آپ کی قبر مقام ”صرفند“ میں ہے ”رملہ“ کے قریب ہے اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر ”رملہ“ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے اور اس جگہ ستر انبیاء علیہم السلام بھی مدفون ہیں جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لئے دور دور سے جایا کرتے ہیں۔ (روح البیان ج ۷ ص ۷۷ و صاوی ج ۳ ص ۲۱۰)

## حکمت کیا ہے؟

”حکمت“ عقل و فہم کو کہتے ہیں اور بعض نے کہا ہے ”حکمت“ معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ مختلف اقوال ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرمادی تھی۔ بہر حال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہی چیز ہے کوئی شخص اپنی جدوجہد اور کسب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا جس طرح کہ بغیر خدا کے عطا کئے کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پاسکتا یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ اور بلند تر ہے۔

(روح البیان ج ۷ ص ۷۵)

حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو جن کا نام ”انعم“ تھا چند نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں جو تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے اور بعض نے کہا آپ بکریاں چراتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کیا تم فلاں چرواہے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں میں یقیناً وہی چرواہا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کے اس مرتبہ پر کس طرح فائز ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ (صاوی ج ۳ ص ۲۱۱)

## (۴۵) امانت کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امانت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ

انا عرضنا الامانت علی السموت	بیشک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور
والارض والجبال فابین ان	زمینوں اور پہاڑوں پر تو انہوں نے اس کے
یحملنها واشفقن منها وحملها	اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے
الانسان انه کان ظلوماً جهولاً ☆	اور آدمی نے اس کو اٹھالیا بیشک وہ اپنی جان

ليعذب الله المنافقين والمنفقت  
والمشركين والمشركت ويتوب  
الله على المؤمنين والمؤمنت وكان  
الله غفورا رحيما.  
﴿الاحزاب ركوع ۹﴾

کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے  
تا کہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق  
عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں  
کو اور تا کہ اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان  
مردوں اور مسلمان عورتوں کی اور اللہ بخشنے والا  
مہربان ہے۔

وہ امانت جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش فرمایا تو ان  
سبھوں نے خوف الہی سے ڈر کر اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لیکن انسان نے  
امانت کے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ امانت درحقیقت کیا چیز تھی؟ تو اس کے  
بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں مگر حضرت علامہ احمد صاوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ  
اس امانت کی سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ وہ امانت شرعی پابندیوں کی ذمہ داری ہے۔  
روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شریعت کی پابندیوں کو آسمانوں اور زمینوں اور  
پہاڑوں کے روبرو پیش فرمایا تو ان تینوں نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ! ہمیں اس  
بارگراں کے اٹھانے میں کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان احکام شریعت کی  
پابندی کرو گے تو تمہیں بہترین صلہ و انعام عطا کیا جائے گا تو تینوں نے جواب میں عرض کیا  
کہ اے باری تعالیٰ ہم تو بہر حال تیرے حکم کے فرماں بردار ہیں باقی ثواب و عذاب سے  
ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے لیکن خوف الہی سے ڈر کر کانپتے ہوئے ان تینوں نے اس امانت  
کو قبول کرنے سے اپنی معذوری ظاہر کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امانت  
کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا تو آپ نے بھی دریافت کیا کہ اس امانت  
کی ذمہ داری قبول کر لینے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اچھی طرح  
اس کی پابندی کرو گے تو تمہیں بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اور اگر تم نے  
نافرمانی کی تو طرح طرح کے عذابوں میں تمہیں گرفتار کیا جائے گا تو حضرت آدم علیہ السلام  
نے اس بار امانت کو اٹھا لیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم میں اس سلسلے میں  
تیری مدد کروں گا۔ (صاوی ج ۳ ص ۲۳۱)

## درس ہدایت

ابلیس نے سجدہ آدم علیہ السلام کے بارے میں خدا کا حکم ماننے سے انکار کیا تو وہ راندہ درگاہ الہی ہو کر دونوں جہان میں مردود ہو گیا مگر آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں نے امانت کو اٹھانے کے بارے میں حکم الہی ماننے سے انکار کیا تو وہ بالکل معتبوب نہیں ہوئے اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کا راز کیا ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابلیس کے انکار اور آسمانوں وغیرہ کے انکار میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ ابلیس کا انکار بطور استکبار (تکبر) تھا اور آسمانوں وغیرہ کا انکار بطور استھغار (تواضع) تھا۔ یعنی ابلیس نے اپنے کو بڑا سمجھ کر سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کیا تھا اور آسمانوں وغیرہ نے اپنے کو جھوٹا سمجھ کر بار امانت اٹھانے سے انکار کیا تھا اور ظاہر ہے کہ تکبر وہ گناہ عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے اور تواضع وہ پیاری ادا ہے جو خداوند قدوس کو بے حد محبوب ہے یہی وجہ ہے کہ ابلیس انکار کر کے عذاب دارین کا حقدار بن گیا اور آسمان و زمین وغیرہ انکار کر کے مورد عتاب بھی نہیں ہوئے بلکہ خدا کے رحم و کرم کے مستحق ہو گئے۔

اللہ اکبر! کہاں استکبار؟ اور کہاں استھغار؟ کہاں تکبر؟ اور کہاں تواضع؟ کہاں اپنے کو بڑا سمجھنا؟ اور کہاں اپنے کو چھوٹا سمجھنا دونوں میں بہت عظیم فرق ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے اور تواضع کا خوگر بنائے (آمین) واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۴۶) جن اور جانور فرماں بردار

حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص معجزہ اور ان کی سلطنت کا ایک خصوصی امتیاز یہ ہے کہ ان کے زیر نگیں صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے اور سب آپ کے حاکمانہ اقتدار کے زیر حکم تھے اور یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ دربار خداوندی میں یہ دعاء کی تھی کہ

رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی  
لاحد من بعدی انک انت الوهاب سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کے لئے بھی

(ص رکوع ۳) میسر نہ ہو بیشک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا مقبول فرمائی اور آپ کو ایسی عجیب و غریب حکومت

اور بادشاہی عطا فرمائی کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو نہ ملی نہ آپ کے بعد کسی کو میسر ہوئی۔  
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن نے یہ کوشش کی کہ میری نماز  
میں خلل ڈالے تو خداوند تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس  
کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون میں باندھ دوں تاکہ تم سب دن میں اس  
کو دیکھ سکو مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعایا آگئی کہ ”وہب لی  
ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی“ یہ یاد آتے ہی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔

(بخاری کتاب الانبیاء وفتح الباری ج ۶ ص ۳۵۶)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خداوند تعالیٰ نے  
تمام انبیاء و رسل کے خصائص و معجزات اور خصوصی امتیازات و کمالات مجھ میں جمع فرمادیئے  
ہیں اس لئے قوم جن کی تسخیر پر بھی مجھ کو قدرت حاصل ہے لیکن چونکہ حضرت سلیمان علیہ  
السلام نے اس اختصاص کو اپنا خصوصی طغراء امتیاز قرار دیا ہے اس لئے میں نے اس سلسلہ کا  
مظاہرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا قرآن کریم کی حسب ذیل آیتوں میں بھی حضرت علیہ السلام  
کے اس معجزانہ اقتدار حکومت کا تذکرہ ہے۔

ومن الشیطین من یغوصون له  
ويعملون عملا دون ذلک  
وکنالهم حفظین  
﴿الانبیاء رکوع ۶﴾  
اور شیطان (سرکش جنوں) میں سے ہم نے مسخر  
کردے وہ جو اس (سلیمان علیہ السلام) کے لئے  
غوطے لگاتے اور بیش قیمت سمندری سامان  
نکالتے اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے کام  
انجام دیتے اور ہم ان کے نگران اور نگہبان ہیں۔

اسی طرح سورہ ”سبا“ میں ارشاد فرمایا۔

۲- ومن الجن من یعمل بین  
یدیہ باذن ربہ ومن یزغ منهم  
عن امرنا نذقہ من عذاب  
السعیر ☆ یعملون له ما یشاء  
من محاریب و تمائیل وجفان  
اور جنوں میں سے وہ تھے جو ان کی خدمت انجام  
دیتے تھے ان کے پروردگار کے حکم سے اور جو کوئی  
ہمارے حکم کے خلاف کجروی کرے ہم اس کو  
دوزخ کا عذاب چکھائیں گے وہ (جن) ان  
کے لئے بناتے تھے وہ جو چاہتے تھے محرابین اور

کالجواب وقدور رسیت  
 ﴿المبارکوع ۲﴾  
 تصویریں اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کے مانند  
 تھے اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے  
 ایک جگہ جمی رہیں۔

اور سورۃ نمل میں یہ فرمایا کہ

۳- وحشر لسلیمن جنودہ من  
 الجن ولانس والطیر فہم  
 یوزعون. ﴿النمل رکوع ۲﴾  
 اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لئے ان  
 کے لشکر جنوں میں سے انسانوں میں سے اور  
 پرندوں میں سے اور وہ درجہ بدرجہ کھڑے کئے  
 جاتے ہیں۔

اور سورۃ ص میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ

۴- والشیطن کل بناء  
 وغواص☆ واخرین مقرنین فی  
 الاصفاد هذا عطاونا فامنن او  
 امسک بغير حساب  
 ﴿ص رکوع ۳﴾  
 اور مسخر کردیئے سلیمان علیہ السلام کے لئے شیاطین  
 (سرکش جن) ہر قسم کے کام کرنے والے عمارت  
 بنانے والے اور دریا میں غوطہ لگانے والے اور وہ  
 (سرکش جن) جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں  
 یہ ہماری عطا ہے چاہے اس کو بخش دو چاہے روکے  
 رکھو اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔

### درس ہدایت

بعض ملحدین جن کو معجزات کے انکار اور انکار جن کا مرض ہو گیا ہے وہ لوگ ان آیتوں  
 کے بارے میں عجیب عجیب مضحکہ خیز باتیں بکتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”جن“ سے مراد  
 انسانوں کی ایک ایسی قوم ہے جو اس زمانے میں بہت قوی ہیکل اور دیو پیکر تھی اور وہ حضرت  
 سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی اور حیوانات کی تسخیر کے بارے  
 میں یہ بکتے ہیں کہ قرآن میں اس سلسلے کا ذکر صرف ”ہد ہد“ سے متعلق ہے اور یہاں ہد ہد  
 سے پرند مراد نہیں بلکہ ہد ہد ایک آدمی کا نام تھا جو پانی کی تفتیش پر مقرر تھا۔

اس قسم کی لغویات اور ریک باتیں کرنے والے یا تو جذبہ الحاد میں قصداً قرآن مجید  
 کی تحریف کرتے ہیں یا قرآن کی تعلیمات سے جاہل ہونے کے باوجود اپنے دعویٰ بلا دلیل

پر اصرار کرتے رہتے ہیں۔

خوب سمجھ لو کہ قرآن مجید نے ”جن“ کے متعلق جا بجا بصراحت یہ اعلان کیا ہے کہ وہ انسانوں سے جدا خدا کی ایک مخلوق ہے صرف ایک آیت پڑھ لو جو اس بارے میں قول فیصل ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ یعنی ہم نے جن اور انسان کو صرف اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ خدا کے عبادت گزار بنیں۔

دیکھ لو۔ اس آیت میں جن کو ایک انسان سے جدا ایک مخلوق ظاہر کر کے دونوں کی تخلیق کی حکمت بیان کی گئی ہے لہذا اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ جن انسانوں ہی میں سے ایک قوی ہیكل قوم کا نام ہے غور کیجئے کہ یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔

اسی طرح جب ”ہد ہد“ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف پرند فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ”وتفقد الطير“ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو اس تصریح کے بعد کسی کو کیا حق ہے؟ کہ اس کے خلاف کوئی رکیک اور لچر تاویل کرے اور یہ کہے کہ ہد ہد پرند نہیں تھا بلکہ ایک آدمی کا نام تھا سو چئے کہ یہ مغرب زدہ ملحدوں کا علم ہے یا ان کی جہالت کا قطب مینار ہے۔ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔

## (۴۷) ہوا پر حکومت

حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ بھی ایک خاص معجزہ اور آپ کی نبوت کا خصوصی امتیاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ”ہوا“ کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کے زیر فرمان کردی گئی تھی چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو ایک مہینے کی مسافت اور شام کو ایک مہینے کی مسافت کی مقدار ہوا کے دوش پر سفر کر لیتے تھے۔

قرآن کریم نے آپ کے اس معجزے کے متعلق تین باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں مسخر کر دیا۔ دوسرے یہ کہ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید و تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت ہو جاتی تھی۔ تیسری بات یہ کہ ہوا نرم رفتاری کے باوجود اس کے تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صبح و شام کا جدا جدا سفر ایک شہہ سوار کے مسلسل

ایک ماہ کی رفتار کے برابر تھا۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت انجن اور مشین جیسے ظاہری اسباب سے بالاتر صرف ان کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر سبک روی کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا چلا جاتا ہے۔

اس مقام پر تخت سلیمان اور آپ کے سفر کے متعلق جو تفصیلات سیرت کی کتابوں اور تفسیروں میں منقول ہیں ان میں بہت سے واقعات اسرائیلیات کا ذخیرہ ہیں جن کو بعض واعظین بیان کرتے ہیں مگر وہ قابل اعتبار نہیں اور ان پر بہت سے اعتراضات بھی وارد ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے تو اس واقعہ کے متعلق صرف اس قدر بیان کیا ہے۔

ولسلیمن الريح عاصفة تجرى بامرہ اور سلیمان کے لئے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس الی الارض التي برکنا فیہا وکنا بکل کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس شیء علمین ﴿الانبیاء رکوع ۶﴾ میں ہم نے برکت دی تھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے۔

اور سورہ سبا میں یہ ارشاد فرمایا کہ

ولسلیمن الريح غدوها شهر و اور سلیمان کے قابو میں ہوا کر دی کہ اس کی رواحها شهرہ صبح کی منزل ایک ماہ کی راہ اور شام کی منزل ایک ماہ کی راہ۔ ﴿السبا رکوع ۲﴾

اور سورہ ص میں فرمایا کہ

فسخرنا له الريح تجرى بامرہ رخاء تو ہم نے ان (سلیمان) کے لئے ہوا کو تابع فرما کر دیا کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی حیث اصاب جہاں وہ چاہتے۔ ﴿ص رکوع ۲﴾

## (۲۸) تانبے کے چشمے

حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارتوں اور پر شوکت قلعوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے اس لئے ضرورت تھی کہ گارے اور چونے کے بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی جگہ استعمال کی جائے لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے۔ یہ سوال تھا



جس کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح حل کر دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے عطا فرمائے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حسب ضرورت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے تانبے کو پگھلا دیتا تھا اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ایک خاص نشان اور ان کا معجزہ تھا آپ سے پہلے کوئی شخص دھات کو پگھلانا نہیں جانتا تھا۔

(قصص الانبیاء عربی ص ۳۹۳)

اور نجا رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام فرمایا کہ زمین کے جن حصوں میں آتشی مادوں کی وجہ سے تانبہ پانی کی طرح پگھل کر بہ رہا تھا ان چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر آشکارا فرمایا آپ سے پہلے کوئی شخص بھی زمین کے اندر دھات کے چشموں سے آگاہ نہ تھا چنانچہ ابن کثیر بروایت قتادہ ناقل ہیں کہ پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے یمن میں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ظاہر فرمایا دیا۔

(البدلیۃ والنہلیۃ ج ۲ ص ۲۸)

قرآن مجید نے اس قسم کی کوئی تفصیل نہیں بیان فرمائی کہ تانبے کے چشمے کس شکل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملے مگر قرآن کی جس آیت میں معجزہ کا ذکر ہے مذکورہ بالا دونوں توجیہات اس آیت کا مصداق بن سکتی ہیں اور وہ آیت یہ ہے۔

واسلناله عین القطر۔ اور ہم نے ان (سلیمان) کے لئے

﴿السبار کوع ۲﴾ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا۔

### درس ہدایت

ہوا پر حکومت اور پگھلے ہوئے تانبے کے چشموں کا مل جانا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے اس پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔ بعض ملحدین جن کو معجزات کے انکار کی بیماری ہو گئی ہے وہ ان معجزات کے بارے میں عجیب عجیب مضحکہ خیز باتیں بکتے اور رکیک تاویلات کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان ملحدوں کی باتوں پر کوئی توجہ نہ کریں اور معجزات پر یقین رکھتے ہوئے ایمان لائیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۴۹) حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے

ایک مرتبہ جہاد کی ایک مہم کے موقع پر شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے کو اصطلیل سے لانے کا حکم دیا جب وہ پیش کئے گئے تو چونکہ آپ کو گھوڑوں کی نسلوں اور ان کے ذاتی اوصاف کے علم کا کمال حاصل تھا اس لئے جب آپ نے ان سب گھوڑوں کو اصیل، سبک، رو اور خوش رو پایا اور یہ ملاحظہ فرمایا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو آپ پر مسرت و انبساط کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ فرمانے لگے کہ ان گھوڑوں سے میری محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو پروردگار کے ذکر ہی کا ایک شعبہ ہے حضرت سلیمان کے اس غور و فکر کے درمیان گھوڑے اصطلیل کو روانہ ہو گئے چنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے تو آپ نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ جب وہ گھوڑے واپس لائے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جوش محبت میں ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا اور تھپتھپانا شروع کر دیا کیونکہ یہ گھوڑے جہاد کا سامان تھا اس لئے آپ ان کی عزت و توقیر کرتے ہوئے ایک ماہر فن کی طرح سے ان گھوڑوں کو مانوس کرنے لگے اور اظہار محبت فرمانے لگے قرآن مجید نے اس واقعہ کو حسب ذیل عبارت میں بیان فرمایا۔

گئے تو وہ کہنے لگا کہ بیشک میری محبت مال (جہاد کے گھوڑوں کی محبت) پروردگار کیا اور ہم نے داؤد کو سلیمان (فرزند) عطا کیا وہ اچھا بندہ ہے بیشک وہ خدا کی جانب بہت رجوع ہونے والا ہے جب اس کے سامنے شام کے وقت اصیل اور سبک رو گھوڑے پیش کئے ذکر ہی میں سے ہے یہاں تک کہ وہ گھوڑے نظر سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا ان گھوڑوں کو واپس لاؤ پھر وہ ان کی پنڈلیاں اور گردنیں چھونے اور تھپتھپانے لگا۔

ووهبنا لداؤد سلیمان ، نعم  
العبد انه اواب ☆ اذ عرض  
عليه بالعشي الصفت  
الجبادة ☆ فقال اني احببت  
حب الخير عن ذكر ربي حتى  
توارت بالحجاب ردوها علي  
فطفق مسحاً بالسوق  
والاعناق ☆

﴿ص رکوع ۳﴾

ان آیات کا جو ترجمہ اور تفسیر ہم نے تحریر کیا ہے اس کو ابن جریر طبری اور امام رازی نے ترجیح دی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی یہی تفسیر فرمائی ہے جس کے ناقل علی بن ابی طلحہ ہیں ان آیات کی تفسیر میں بعض مفسرین نے گھوڑوں کی پنڈلیاں اور گھوڑوں کی گردنوں کو تلوار سے کاٹ ڈالنا تحریر کیا ہے اور اسی قسم کے بعض دوسرے کمزور اقوال بھی تحریر کئے ہیں جن کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ محض حکایات اور داستانیں ہیں جو دلائل قویہ کے سامنے کسی طرح قابل قبول نہیں اور یہ تفسیر جو ہم نے تحریر کی ہے اور جو ترجمہ درج کیا ہے یہ قرآن مجید کی عبارت اور الفاظ کے بالکل مطابق ہے اور اس تفسیر و ترجمہ کی بناء پر نہ کوئی اشکال و اعتراض پڑتا ہے نہ کسی تاویل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ (خزائن العرفان ص ۵۴۰ بحوالہ تفسیر کبیر)

## (۵۰) پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح

حضرت داؤد علیہ السلام خداوند قدوس کی تسبیح و تقدیس میں بہت زیادہ مشغول و مصروف رہتے تھے اور آپ اس قدر خوش الحان تھے کہ جب آپ زبور شریف پڑھتے تو آپ کے وجد آفریں نغموں سے نہ صرف انسان بلکہ وحوش و طیور بھی وجد میں آجاتے اور آپ کے گرد جمع ہو کر خدا کی حمد کے ترانے گاتے اور اپنی اپنی سریلی اور پرکیف آوازوں میں تسبیح و تقدیس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ہمنوائی کرتے اور صرف چرند و پرند ہی نہیں بلکہ پہاڑ بھی خداوند تعالیٰ کی حمد و ثناء میں گونج اٹھتے تھے چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ان معجزات کا ذکر جمیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء و سورۃ سبأ و سورۃ ص میں صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ

وسخرنا مع داود الجبال یسبحن  
والطیر و کنا فعلین۔

اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو مسخر  
کر دیا کہ وہ تسبیح پڑھتے اور پرندے بھی اور  
ہم اس کے کرنے والے ہیں۔

﴿الانبیاء رکوع ۶﴾

اور سورۃ سبأ میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ

ولقد اتینا داود منا فضلا یجبال  
اور بیشک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا۔

اوبی معہ والطیر

(ہم نے فرما دیا) کہ اے پہاڑو! اس کے  
ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اے پرندو!  
تم بھی اللہ کی طرف رجوع کرو۔

﴿سبارکوع ۲﴾

اور سورہ ص میں اس طرح ارشاد ربانی ہوا کہ

بیشک ہم نے (داؤد) کے ساتھ پہاڑوں کو  
مسخر کر دیا کہ وہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج  
چمکنے کے وقت اور پرندے جمع کئے ہوئے  
سب اس کے فرماں بردار تھے۔

انا سخرنا الجبال معہ یسبحن  
بالعشی والاشراق والطیر  
محشورۃ کل لہ ابواب

﴿ص رکوع ۲﴾

### درسِ ہدایت

بے عقل پرندے اور بے جان پہاڑ جب خداوند قدوس کی تسبیح و تقدیس کا نغمہ گایا  
کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیتوں میں آپ پڑھ چکے تو اس سے ہم  
انسانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم انسان جو عقل والے ہوش مند اور صاحب زبان ہیں ہم پر  
بھی لازم ہے کہ ہم خداوند قدوس کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا کے اذکار کو ورد زبان بنائیں اور  
اس کی تسبیح و تقدیس میں برابر مشغول و مصروف رہیں۔

حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے اس سلسلہ میں ایک بہت ہی لطیف و لذیذ اور  
نہایت ہی موثر حکایت بیان فرمائی ہے۔ اس کو پڑھئے اور عبرت و نصیحت حاصل کیجئے۔ وہ  
فرماتے ہیں۔

دوش مرغی نالید عقل و صبرم ربود و طاقت و ہوش

ایک پرند صبح کو چہچہا رہا تھا تو اس کی آواز سے میری عقل و صبر اور طاقت و ہوش سب

غارت ہو گئے

یکے از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید گوش

میرے ایک مخلص دوست کے کان میں شاید میری آواز پہنچ گئی۔

گفت باور ندا شتم کہ ترا بانگ مرغی چنیں کند مد ہوش

تو اس نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک پرند کی آواز تم کو اس طرح مد ہوش

کردے گی۔

گفتم اس شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح خوان و من خاموش  
تو میں نے کہا کہ یہ آدمیت کی شان نہیں ہے کہ پرند تو تسبیح پڑھے اور میں خاموش

رہوں۔

## (۵۱) فرشتوں کے بال و پر

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بازو اور پر بنا دیئے ہیں جن سے وہ فضائے آسمانی میں اڑ  
کر کائنات عالم میں فرامین ربانی کی تعمیل کرتے رہتے ہیں کسی فرشتے کے دو پر کسی کے تین  
اور کسی کے چار پر ہیں۔

علامہ زبخری کا بیان ہے کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ فرشتوں کی ایک  
قسم ایسی بھی ہے جن کو خلاق عالم جل جلالہ نے چھ بازو اور پر عطا فرمائے ہیں دو  
بازوؤں سے تو وہ اپنے بدن کو چھپائے رکھتے ہیں اور دو بازوؤں سے وہ اڑتے ہیں اور دو  
بازو ان کے چہروں پر ہیں جن سے وہ خدا سے حیا کرتے ہوئے اپنے چہروں کو چھپائے  
رکھتے ہیں۔

اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں  
نے ”سدرۃ المنتہی“ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے چھ سو بازو تھے  
اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام  
سے یہ کہا کہ آپ اپنی اصلی صورت مجھے دکھا دیجئے تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس کی  
تاب نہ لاسکیں گے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی خواہش بلکہ تمنا ہے تو حضرت جبرائیل  
علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اصلی صورت میں وحی لے کر حاضر ہو گئے تو ان کو دیکھتے ہی آپ پر  
غشی طاری ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بدن سے ٹیک لگا کر آپ کو  
سنجھالے رکھا اور اپنا ایک ہاتھ حضور کے سینہ پر اور ایک ہاتھ دونوں شانوں کے درمیان رکھ  
دیا جب آپ کو افاقہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر  
آپ حضرت اسرائیل کو دیکھ لیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بارہ ہزار

بازو عطا فرمائے ہیں اور ان کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے اور وہ عرش الہی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ (صاوی ج ۳ ص ۲۵۴)

فرشتوں کے بازوؤں اور پروں کا ذکر سورہ فاطر کی اس آیت میں ہے کہ

الحمد لله فاطر السموت  
والارض جاعل الملكة رسلا  
اولى اجنحة مثنى وثلاث وربع  
يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على  
كل شى قدير. ﴿فاطر ركوع ۱﴾

سب خوبیاں اللہ کے لئے ہیں جو آسمانوں اور  
زمینوں کا پیدا کرنے والا فرشتوں کو رسول بنانے  
والا ہے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر  
ہیں وہ زیادہ کرتا ہے اپنی آفرینش میں جو چاہتا  
ہے بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

### درسِ ہدایت

فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ فرشتوں کے بازو اور پر بھی ہیں کسی کے دو دو کسی کے تین تین کسی کے چار چار اور کسی کے اس سے بھی زیادہ ہیں اب رہا یہ سوال کہ فرشتوں کے اتنے زیادہ پر کیونکہ اور کس طرح ہیں؟ تو قرآن نے اس کا شاقی اور مسکت جواب دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے لہذا وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ فرشتوں کو بال و پر بھی عطا فرما سکتا ہے اور بلاشبہ عطا فرمایا بھی ہے لہذا اس سلسلے میں بحث و مباحثہ اور سوال و جواب یہ سب گمراہی کے دروازے ہیں ایمان کی خیریت اسی میں ہے کہ بغیر چوں و چرا کے اس پر ایمان لائیں اور کیوں؟ اور کیسے؟ علم کو اللہ اعلم کہہ کر خدا کے سپرد کر دیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### (۵۲) ابو جہل کی گردن کا طوق

ایک مرتبہ ابو جہل اور اس کے قبیلے کے دو آدمیوں نے حلف اٹھایا کہ اگر ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو ہم پتھر سے ان کا سر کچل دیں گے جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز کے لئے حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور ابو جہل نے آپ کو دیکھا تو وہ ایک بہت بڑا پتھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چلا اور آپ پر اس پتھر کو پھینکنے کے لئے اپنے

سر کے اوپر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا تو اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں آگئے اور پتھر اس کے ہاتھوں میں چپک کر رہ گیا اور دونوں ہاتھ طوق بن کر ٹھوڑی کے پاس بندھ گئے اور وہ اس طرح ناکام ہو کر لوٹ آیا۔ اس کے دوسرے دن ولید بن مغیرہ نے جھلا کر کہا کہ تم پتھر مجھے دے دو۔ میں اس کو ان کے سر پر دے ماروں گا چنانچہ اس بدنصیب نے جب کہ آپ نماز میں تھے آپ پر پتھر چلانے کا ارادہ کیا تو ایک دم اندھا ہو گیا۔ حضور کی قرأت کی آواز تو سنتا رہا مگر آپ کی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجبوراً پلٹ گیا تو اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں دیکھ سکا جب آواز دی تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے اپنی مجبوری کا حال بیان کیا پھر اس کے تیسرے ساتھی نے غصہ میں بھر کر پتھر کو اپنے ہاتھ میں لیا مگر یہ حضور کے قریب پہنچتے ہی اٹے پاؤں بدحواس ہو کر بھاگا اور ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں جب ان کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا ایک ایسا ساٹھ ان کے قریب اپنی دم ہلا رہا ہے کہ میں نے آج تک ایسا خوفناک ساٹھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ لات وعزیٰ کی قسم! اگر میں ان کے قریب جاتا تو وہ مجھے ہلاک کر دیتا۔ (صاوی ج ۲ ص ۲۶۴)

اس واقعہ کا ذکر سورہ لیس میں ان لفظوں کے ساتھ مذکور ہے۔

انا جعلنا فی اعناقہم اغللا فہی	بیشک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیئے
الی الاذقان فہم مقمحون	ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو یہ لوگ اوپر کو منہ
وجعلنا من بین ایدیہ سدا ومن	اٹھائے رہ گئے اور ہم نے ان کے آگے ایک
خلفہم سدا فاغشینہم فہم	دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں
لا یبصرون (یسین ع ۱)	اوپر سے ڈھانپ دیا تو انہیں کچھ نہیں سو جھتا۔

### درس ہدایت

یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے بارہا کافروں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی اور اپنی خفیہ چالبازیوں اور سیاہ کاریوں میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا مگر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کبھی بھی کوئی آنچ نہ آسکی اور خداوند قدوس کا وعدہ پورا ہوا کہ واللہ یعصمک من الناس یعنی اے محبوب! اللہ تعالیٰ لوگوں کی چالوں سے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۵۳) حاملانِ عرش کی دعا

عرش الہی کے اٹھانے والے ملائکہ فرشتوں کے سب سے اعلیٰ طبقات میں ہیں ان میں سے ہر فرشتے کے بازوؤں پر چار پر ہیں اور دو پر ان کے چہروں کے اوپر ہیں جن سے یہ اپنی آنکھوں کو چھپائے رکھتے ہیں اور خوفِ خداوندی کے باعث یہ فرشتے عرش کی طرف نہیں دیکھتے ورنہ دہشت سے ان کے دل پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتے ساتویں آسمان کے فرشتوں سے زیادہ خدا کا خوف رکھتے ہیں اور ساتویں آسمان والے فرشتے چھٹے آسمان والے فرشتوں سے خوف الہی میں بڑھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح چھٹے آسمان والے پانچویں آسمانوں والوں سے اور پانچویں آسمان والے چوتھے آسمان والوں سے اور چوتھے آسمان والے تیسرے آسمان والوں سے اور تیسرے آسمان والے دوسرے آسمان والوں سے اور دوسرے آسمان والے پہلے آسمان والوں سے خوف و خشیتِ ربانی میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ پھر عرش الہی کے گرد رہنے والے فرشتے جن کو ”کروبیین“ کہتے ہیں۔ یہ باقی فرشتوں کے سردار ہیں اور بہت ہی وجاہت والے ہیں۔ منقول ہے کہ عرش کے گرد ملائکہ کی ستر ہزار صفیں ہیں اس طرح کہ ایک صف ایک صف کے پیچھے ہے۔ یہ سب عرش کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ پھر ان صفوں کے بعد ستر ہزار ملائکہ کی صف ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے کاندھوں پر رکھتے ہوئے خدا کی تسبیح و تکبیر پڑھتے رہتے ہیں پھر ان کے بعد اور ایک سو صفیں فرشتوں کی ہیں جو اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے تسبیح و تکبیر اور دعا میں مشغول ہیں۔ (صاوی ج ۴ ص ۴)

اور سب فرشتوں کی دعا کیا ہے اس کو قرآن مجید کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے ارشاد

ربانی ہے کہ

وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے گرد ہیں سب اپنے رب کی تعریف کیساتھ اسکی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کیلئے اس طرح دعاء مغفرت کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! تیری

الذین یحملون العرش ومن  
حولہ یسبحون بحمد ربہم  
ویومنون بہ ویستغفرون للذین  
امنوا ربنا وسعت کل شیء  
رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا



وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ  
الْجَحِيمِ. رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ  
عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ  
مِنْ آبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ  
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ☆  
﴿الْمُؤْمِنُونَ رُكُوعًا﴾

رحمت و علم میں ہر چیز کی سہاکی ہے لہذا ان  
مسلمانوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری  
راہ پر چلے اور انہیں دوزخ سے بچالے اور اے  
ہمارے رب! ان مسلمانوں کو جنت ”عدن“ میں  
داخل فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے اور انکو بھی  
جو نیک ہوں ان کے باپ، دادا اور بیویوں اور اولاد  
میں سے بیشک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے۔

### درسِ ہدایت

آپ نے عرش الہی کے اٹھانے والے اور عرش کا طواف کرنے والے فرشتوں کی  
دعا ملاحظہ کر لی کہ وہ سب مقدس فرشتے ہم مسلمانوں اور ہمارے والدین اور بیویوں اور  
ہماری اولاد کے لئے جہنم سے نجات پانے اور جنت عدن میں داخل ہونے کی دعائیں مانگتے  
رہتے ہیں اللہ اکبر! کتنا بڑا احسان عظیم ہے ہم مسلمانوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ  
آپ ہی کے طفیل میں ہم مسلمانوں کو یہ رتبہ بلند اور درجہ عالیہ حاصل ہوا ہے کہ بے شمار طبقہ  
اعلیٰ کے فرشتے ہم گنہگار مسلمانوں کے لئے دعائیں مانگتے رہتے ہیں وہ بھی کون سے  
فرشتے؟ عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتے اور عرش الہی کا طواف کرنے والے فرشتے۔  
سبحان اللہ! کہاں ہم اور کہاں ملائعہ اعلیٰ کے ملائکہ مگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی  
نسبت کا طفیل ہے کہ اس نے ہم قطروں کو سمندر ناپیدا کنار اور ہم ذروں کو آفتاب عالم تاب  
بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! ایک بار بصد اخلاص نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
پر درود شریف پڑھئے۔ اللھم صل علی سیدنا محمد وعلی ال سیدنا محمد و  
بارک وسلم۔

### (۵۴) صاحب اولاد اور بانجھ

اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ کسی کو صرف بیٹی عطا فرماتا ہے اور کسی کو صرف بیٹا دیتا  
ہے اور کچھ لوگوں کو بیٹا اور بیٹی دونوں ہی عطا فرما دیا کرتا ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن

کو بانجھ بنا دیتا ہے نہ انہیں بیٹی دیتا ہے نہ بیٹا اور یہ دستور خداوندی صرف عام انسانوں ہی تک محدود نہیں بلکہ اس نے اپنے خاص و مخصوص بندوں یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھی اس خصوص میں چاروں طرح کا بنایا ہے چنانچہ حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہما السلام کے صرف بیٹیاں ہی تھیں کوئی بیٹا نہیں تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف بیٹے ہی بیٹے تھے کوئی بیٹی ہی نہیں اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چار بیٹے اور چار بیٹیاں عطا فرمائیں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کے کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ (روح البیان ج ۸ ص ۳۴۲)

قرآن مجید میں رب العزت جل جلالہ نے اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ

یہب لمن یشاء انا ثا و یہب لمن یشاء الذکور ☆ اویز وجہم ذکرانا وانا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر ﴿الشوریٰ ع ۵﴾

خدا جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں اور جسے چاہے بانجھ کر دے بیشک وہ علم و قدرت والا ہے۔

### درس ہدایت

اللہ تعالیٰ بیٹی دے یا بیٹا دے یا دونوں عطا فرمائے یا بانجھ بنا دے بہر حال یہ سبھی خدا کی نعمتیں ہیں مذکورہ بالا آیت کے آخری حصہ یعنی انه علیم قدیر میں اسی طرف اشارہ ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اس کو بیٹی ملے اور کون اس قابل ہے کہ اس کو بیٹا ملے اور کون اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس کو بیٹا اور بیٹی دونوں ملے اور کون ایسا ہے کہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس کے کوئی اولاد ہی نہ ہو۔ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کیونکہ وہ بہت علم والا اور بڑی قدرت والا ہے انسان اپنے ہزار علم و آگہی کے باوجود اس معاملہ کو نہیں جانتا کہ انسان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ

عسی ان تکرہوا شیاء و هو خیر لکم و عسی ان تعبوا شیاء

ہوسکتا ہے کہ تم لوگ ایک چیز کو ناپسند سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہت اچھی ہے اور

وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ﴿البقرہ رکوع ۲۶﴾  
 ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم لوگ پسند کرو  
 حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہت بری ہے اس  
 کو خدا ہی جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے ہو۔

اس لئے بندوں کو چاہئے کہ اگر اپنی خواہش کے مطابق کوئی چیز نہ مل سکے تو ہرگز  
 ناراض نہ ہو بلکہ یہ سوچ کر صبر کریں کہ ہم اس چیز کے لائق ہی نہیں تھے۔ اس لئے ہمیں خدا  
 نے نہیں دیا وہ عظیم و قدیر ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون کس چیز کا اہل ہے اور کون اہل نہیں

ہے۔

اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر  
 تجھ سے کیا ضد تھی؟ اگر تو کسی قابل ہوتا

### بیٹیاں

اس زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ بیٹیوں کی پیدائش سے چڑھتے ہیں اور  
 منہ بگاڑ لیتے ہیں بلکہ بعض بد نصیب تو اول فول بک کر کفرانِ نعمت کے گناہ میں مبتلا  
 ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر منہ لگا کر ناراض ہو جانا یہ زمانہ جاہلیت  
 کے کفار کا منحوس طریقہ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

واذا یسرا حدہم بالانشی ظل  
 وجہہ مسودا وهو کظیم ☆  
 یتواری من القوم من سوء  
 ماشر بہ ایمسکہ علی ہون ام  
 یدسہ علی ہون الاساء ما  
 یحکمون ﴿النحل رکوع ۷﴾  
 اور جب ان کافروں میں سے کسی کو بیٹی ہونے  
 کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا  
 رہتا ہے اور وہ غصہ میں گھٹتا رہ کر لوگوں سے چھپتا  
 پھرتا ہے اس بشارت کی برائی سے کہ اس نے  
 ذلت کے ساتھ رکھے گا یا مٹی میں دبا دے گا  
 ارے بہت ہی برا یہ حکم لگاتے ہیں۔

خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوش ہو کر  
 اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے اور مندرجہ ذیل حدیثوں کی بشارت پر ایمان رکھ کر  
 سعادت دارین کی کرامتوں سے سرفراز ہو۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں۔

- (۱) عورت کے لئے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔
- (۲) جس شخص کو کچھ بیٹیاں ملیں اور وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے یہاں تک کہ کفو میں ان کی شادی کر دے تو وہ بیٹیاں اس کے لئے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔
- (۳) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ بیٹیوں کو برامت سمجھو اس لئے کہ میں بھی چند بیٹیوں کا باپ ہوں۔
- (۴) جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لڑکی! تو زمین پر اتر۔ میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ (روح البیان ج ۸ ص ۳۴۲)

## (۵۵) فاسق کی خبر پر اعتماد مت کرو

۵ھ کے غزوہ بنی المصطلق میں جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تو صحابہ کرام نے تمام اسیران جنگ کو یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ جس خاندان میں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شادی کر لی اس خاندان کا کوئی آدمی لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ مسلمانوں کے اس حسن سلوک اور اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر تمام قبیلہ مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ”ولید بن عقبہ“ کو اس قبیلہ والوں کے پاس بھیجا تا کہ وہ قبیلے کے دولت مندوں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کے فقراء پر تقسیم کر دے۔

قبیلہ بنی المصطلق کے لوگوں کو جب ”ولید“ کی اس آمد کا علم ہوا تو وہ عامل اسلام کے استقبال کے لئے خوشی خوشی ہتھیار لے کر بستی سے باہر میدان میں نکلے۔ زمانہ جاہلیت میں اس قبیلہ اور ولید میں کچھ ناچاقی رہ چکی تھی اس لئے پرانی عداوت کی بناء پر استقبال کے اس اہتمام کو ولید نے دوسری نظر سے دیکھا اور سمجھا اور قبیلہ والوں سے اصل معاملہ دریافت کئے بغیر ہی مدینہ واپس لوٹ آیا اور دربار نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ بنی المصطلق کے لوگ تو مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس خبر سے حضور رنجیدہ ہوئے اور مسلمان بے حد برا فروختہ ہو گئے بلکہ مقابلہ کے لئے جہاد کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ادھر بنی المصطلق کو ولید کے اس عجیب طرز عمل سے بڑی حیرت ہوئی اور جب ان لوگوں کو

معلوم ہوا کہ ولید نے دربار نبوت میں غلط بیانی اور تہمت طرازی کر دی ہے تو ان لوگوں نے معزز اور باوقار وفد دربار نبوت میں بھیجا جس نے بنی المصطلق کی طرف سے صفائی پیش کی۔ ایک جانب اپنے عامل ولید کا بیان اور دوسری جانب بنی المصطلق کے وفد کا بیان۔ دونوں کی باتیں سن کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے آخر وحی الہی اتر پڑی اور سورہ "حجرات" کی آیات نے نازل ہو کر نہ صرف معاملہ کی حقیقت ہی واضح کر دی بلکہ اس خصوص میں ایک مستقبل قانون اور معیار تحقیق بھی عطا کر دیا وہ آیات یہ ہیں۔ (خزائن الایمان ص ۶۱۳ وغیرہ)

یا ایہا الذین امنوا ان جاءکم فاسق  
بنیٰ فبینوا ان تصیبا قوما بجهالة  
فتصبحوا علی ما فعلتم ندمین ☆  
واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو  
یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم  
ولکن اللہ حب الیکم الایمان و  
زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر  
والفسوق والعصیان اولئک ہم  
الراشدون ☆ فضلا من اللہ ونعمۃ  
واللہ علیم حکیم.

اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس  
کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو ایسا نہ ہو کہ کہیں  
کسی قوم کو بے جا نہ ہوئے ایذا نہ دے بیٹھو  
پھر اپنے کئے پر پچھتانے لگو اور جان لو کہ اللہ کا  
رسول تم میں موجود ہے اگر وہ تمہاری بات اکثر  
معاملات میں مان لیا کریں تو ضرور تم مشقت  
میں پڑ جاؤ گے لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کو پیارا  
کر دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین  
کر دیا ہے اور کفر و حکم عدولی اور نافرمانی کو  
تمہارے لئے ناگوار کر دیا ہے اور یہی لوگ اللہ  
کے فضل و احسان سے ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ  
جاننے والا حکمت والا ہے۔

﴿حجرات ع ۱﴾

### درس ہدایت

(۱) خبروں کے بیان کرنے میں عام طور پر لوگوں کا یہی مزاج اور طریقہ بن چکا ہے کہ جو خبر بھی ان کے کانوں تک پہنچے۔ اس کو بے تکلیف بیان کر دیا کرتے ہیں اور حقیقت حال کو تفتیش اور جستجو بالکل نہیں کرتے خواہ اس خبر سے کسی بے گناہ پر افتراء کیا جاتا ہو یا کسی کو نقصان پہنچتا ہو۔

اسلام نے اس طریقہ کار کو بالکل غلط قرار دیا ہے بلکہ قرآن نے اسلامی آداب کا یہ قانون بتایا ہے کہ ہر خبر کو سن کر پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہئے۔

جب وہ خبر پایہ ثبوت کو پہنچ جائے۔ تو پھر اس خبر کو لوگوں سے بیان کرنا چاہئے۔ اسی بات کی طرف متوجہ کرنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ کفٰی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ماسمع (ابوداؤد) یعنی آدمی کے گنہگار ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ جو بات بھی سنے لوگوں سے (بلا تحقیق) بیان کرنے لگے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

(۲) اس آیت سے ثابت ہوا کہ ایک شخص اگر عادل اور پابند شریعت ہو تو اس کی خبر معتبر ہے۔

(۳) بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت ولید بن عقبہ ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ آیت عام ہے اور ہر فاسق کی خبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

(۴) ولید بن عقبہ کو صحابی ہوتے ہوئے قرآن مجید نے فاسق کہا تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ اس واقعہ کے بعد جب ولید بن عقبہ نے صدق دل سے سچی توبہ کر لی تو ان کا فسق زائل ہو گیا لہذا کسی صحابی کو فاسق کہنا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ ہر صحابی صادق عدول اور پابند شرع ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۵۶) ملائکہ مہمان بن کر آئے

حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ منقول ہے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آجاتے تھے آپ کھانا نہیں تناول فرماتے تھے۔ ایک دن مہمانوں کا ایک ایسا قافلہ آپ کے گھر پر اتر پڑا کہ ان مہمانوں سے آپ خوفزدہ ہو گئے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو دس یا بارہ فرشتوں کو ہمراہ لے کر تشریف لائے تھے اور سلام کر کے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سب فرشتے نہایت ہی خوبصورت انسانوں کی شکل میں تھے۔ اولاً تو یہ حضرات ایسے وقت تشریف لائے جو مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا پھر یہ حضرات بغیر اجازت طلب کئے دندناتے ہوئے مکان کے اندر داخل ہو گئے پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت ان حضرات کی مہمان نوازی کے لئے ایک فریبہ بھنا

ہوا پھڑالائے تو ان حضرات نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ان مہمانوں کی مذکورہ بالا تین اداؤں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خدشہ گزرا کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں کیونکہ اس زمانے کا یہی رواج تھا کہ دشمن جس گھر میں دشمنی کے لئے جاتا تھا اس گھر میں کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا چنانچہ آپ ان مہمانوں سے کچھ خوف محسوس فرمانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی! آپ ہم سے بالکل کوئی خوف نہ کریں ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم دو کاموں کے لئے آئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بشارت سنانے کے لئے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک علم والا فرزند عطا فرمائے گا اور ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔

فرزند کی بشارت سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس بیوی حضرت ”سارہ“ چونک پڑیں کیونکہ ان کی عمر ننانوے برس کی ہو چکی تھی اور وہ کبھی حاملہ نہیں ہوئی تھیں۔ تعجب سے وہ چلاتی ہوئی آئیں اور ہاتھ سے ماتھا ٹھونک کر کہنے لگیں کہ کیا مجھ بڑھیا بانجھ کے بھی فرزند ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ آپ کے رب کا یہی فرمان ہے اور وہ پروردگار بڑی حکمتوں والا بہت علم والا ہے چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ (خزائن العرفان ص ۶۳۰ و دیگر تفاسیر)

قرآن مجید نے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ

هل اتك حديث ضيف ابراهيم	اے محبوب! کیا آپ کے پاس ابراہیم کے
المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا	معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ ان کے
سلما قال سلام قوم منكرون ☆	پاس آ کر بولے کہ سلام تو آپ نے بھی کہا
فراغ الى اهله ف جاء بعجل	کہ سلام (اور دل میں کہا) کہ یہ ناشناس لوگ
سمن ☆ فقربه اليهم قال الا	ہیں پھر اپنے گھر جا کر ایک فر بہ پھڑالائے
تاكلون ☆ فاوحس منهم خفيته	اور مہمانوں کے پاس رکھ کر فرمایا کہ کیا تم
قالوا لا تخف وبشروه بغلم	لوگ کھاتے نہیں؟ پھر اپنے جی میں ان
عليم ☆ فاقلت امراته في صرة	مہمانوں سے ڈرنے لگے تو وہ بولے کہ آپ
فصكت وجهها وقالت عجوز	ڈرے نہیں اور ان کو ایک علم والے لڑکے کی

عقیم ☆ قالوا کذلک قال ربک ۛ  
 انه هوا لحکیم العلیم ☆  
 ﴿الذاریات رکوع ۲﴾  
 خوشخبری دی اس پر ان کی بیوی چلاتی ہوئی  
 پھر اپنا ماتھا ٹھونک کر کہنے لگی کہ کیا ایک بڑھیا  
 بانجھ فرزند جنے گی؟ مہمانوں نے کہا کہ  
 ہاں۔ آپ کے رب نے ایسا ہی فرما دیا ہے  
 اور وہ بڑی حکمتوں والا اور بہت علم ہے۔

### درس ہدایت

اس واقعہ سے یہ ہدایت کی روشنی ملتی ہے کہ ملائکہ کبھی کبھی آدمی کی صورت میں  
 لوگوں کے پاس آیا کرتے ہیں چنانچہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حج کے موقع پر حرم کعبہ  
 اور منیٰ و عرفات و مزدلفہ وغیرہ میں کچھ فرشتوں کی جماعت انسانوں کی شکل و صورت میں  
 مختلف بھیس بنا کر آتی ہیں جو حاجیوں کے امتحان کے لئے خدا کی طرف سے بھیجی جاتی  
 ہیں۔ اس لئے حجاج کرام کو لازم ہے کہ مکہ مکرمہ اور منیٰ و عرفات و مزدلفہ اور طواف کعبہ و  
 زیارت مدینہ منورہ کے ہجوم میں ہوشیار رہیں کہ ہرگز ہرگز کسی انسان کی بھی بے ادبی و دل  
 آزاری نہ ہونے پائے اور تاجروں یا حمالوں یا فقیروں سے جھگڑا تکرار نہ ہونے پائے۔  
 تمہیں کیا خبر ہے کہ یہ آدمی ہے یا آدمی کی صورت میں کوئی فرشتہ ہے جو تمہیں دھکا دے کر  
 یا ڈانٹ کر تمہارے حلم و صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ وہ نکتہ ہے جس سے عام طور پر لوگ  
 ناواقف ہیں اس لئے سفر حج میں قدم قدم پر لوگوں سے الجھتے اور جھگڑتے رہتے ہیں اور  
 بعض اوقات دنیا و آخرت کا شدید نقصان و خسارہ اٹھاتے رہتے ہیں لہذا اس نقصان عظیم  
 سے بچنے کی بہترین تدبیر یہی ہے کہ ہر شخص کے بارے میں یہی خطرہ محسوس کرتے رہیں کہ  
 شاید یہ کوئی فرشتہ ہو جو تاجر یا سائل یا یا مزدور کے بھیس میں ہے اور پھر اس سے سنبھل کر  
 بات چیت کریں اور حتی الامکان اس کو راضی رکھنے کی کوشش کریں اور ہرگز ہرگز کسی تلخ  
 کلامی یا سخت گوئی کی نوبت نہ آنے دیں کہ اس میں سلامتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### (۵۷) چاند دو ٹکڑے ہو گیا

کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو آپ نے چاند کو دو  
 ٹکڑے کر کے دکھایا دیا ایک ٹکڑا ”جبل ابوقبیس“ پر نظر آیا اور دوسرا ٹکڑا ”جبل قعیقعان“ پر



دیکھا گیا اس طرح چاند کو دو پارہ کر کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کفار مکہ کو دکھا دیا اور فرمایا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ (جلالین بحوالہ بخاری و مسلم)

یہ دیکھ کر کفار مکہ نے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جادو کر کے ہماری نظر بندی کر دی ہے اس پر انہیں کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ نظر بندی ہے تو مکہ سے باہر کے کسی آدمی کو چاند کے دو حصے نظر نہ آئے ہوں گے لہذا اب باہر سے جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا شق ہونا دیکھا گیا ہے تو بیشک یہ معجزہ ہے چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ اس روز چاند کے دو حصے ہو گئے تھے اس کے بعد مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی لیکن وہ لوگ اپنے عناد سے اس کو جادو کہتے رہے یہ معجزہ عظیمہ صحاح کی احادیث کثیرہ میں مذکور ہے اور یہ حدیث اس قدر درجہ شہرت کو پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے۔ (خزائن العرفان ص ۶۲۸)

اللہ تعالیٰ نے اس معجزہ کا بیان قرآن کی سورہ قمر میں ان الفاظ کے ساتھ بالا اعلان فرمایا ہے کہ

اقتربت الساعة وانشق القمر ☆ وان  
يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر  
مستمر ☆ و كذبوا و اتبعوا اموهم  
و كل امر مستقر ☆

قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا اور (کفار مکہ) اگر کوئی نشانی دیکھتے تو منہ پھیر لیتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو لگاتار چلا آتا ہے اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں

﴿القمر رکوع ۱﴾ کے پیچھے چلے اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔

### درس ہدایت

معجزہ ”شق القمر“ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بے مثال معجزہ ہے جو اس آیت کریمہ اور بہت سی مشورہ حدیثوں سے ثابت ہے ہم نے اپنی کتاب ”سیرۃ المصطفیٰ“ میں اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے اس کے مطالعہ سے اطمینان قلب اور جلاء ایمان حاصل کیجئے۔

## (۵۸) کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ

حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اونچا سنتے تھے۔ اس لئے جب وہ مجلس شریف میں حاضر ہوئے تو صحابہ انہیں آگے جگہ دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دربار رسالت میں آئے تو مجلس پر ہو چکی تھی لیکن وہ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قریب پہنچ گئے مگر پھر بھی ایک آدمی ان کے اور حضور کے درمیان رہ گیا۔ حضرت ثابت بن قیس اس کو بھی ہٹانے لگے لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہٹا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے غصہ میں بھر کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ فلاں آدمی ہوں یہ سن کر حضرت ثابت بن قیس نے حقارت کے لہجے میں کہا کہ اچھا تو فلاں عورت کا لڑکا ہے یہ سن کر اس شخص نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی اس موقع پر مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی۔

اور حضرت ضحاک سے منقول ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ بہتری پوشاک پہن کر بصورت وفد بارگاہ نبوی میں آئے اور جب ان لوگوں نے ”اصحاب صفہ“ کے غریب و مفلس مسلمانوں کو فرسودہ حال دیکھا تو ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔  
(خزائن العرفان ص ۶۱۴ و صاوی ج ۴ ص ۹۴)

اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ام المومنین بی بی صفیہ کو ایک دن ”یہودیہ“ کہہ دیا تھا جس سے ان کو بہت رنج و صدمہ ہوا جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معلوم ہوا تو حضرت بی بی عائشہ پر بہت زیادہ خفگی کا اظہار فرمایا اور حضرت بی بی صفیہ کی دل جوئی کے لئے فرمایا کہ تم ایک نبی (حضرت موسیٰ) کی اولاد میں ہو اور تمہارے چچاؤں میں بھی ایک نبی (حضرت ہارون) ہیں اور تم ایک نبی کی بیوی بھی ہو یعنی میری بیوی ہو۔ اس موقع پر ان آیات کا نزول ہوا۔

(صاوی ج ۴ ص ۹۵)

بہر حال ان مذکورہ بالا تینوں شان نزول میں سے کسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ عزوجل نے کسی قوم کا مذاق اڑانے کی سخت ممانعت فرمائی۔ آیت کریمہ یہ ہے کہ

یایہا لذین امنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسی ان یکن خیرا منهن ؕ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقباب بس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک ہم الظالمون۔

اے ایمان والو! نہ مرد مردوں کا مذاق بنا کر نہیں عجب نہیں کہ وہ ان ہنسی اڑانے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق بنا کر نہیں کیونکہ کچھ بعید نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا اور جو اس سے توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔

﴿حجرات رکوع ۲﴾

### درس ہدایت

قرآن کریم کی ان چمکتی ہوئی آیتوں کو بغور پڑھئے اور عبرت حاصل کیجئے کہ اس زمانے میں جو ایک فاسقانہ اور سراسر مجرمانہ رواج نکل پڑا ہے کہ ”سید“ و ”شیخ“ اور ”پٹھان“ کہلانے والوں کا یہ دستور بن گیا ہے کہ وہ دھنیا، جولاہا، کبجڑا، قصائی، نائی کہہ کر مخلص و متقی مسلمانوں کا مذاق بنایا کرتے ہیں بلکہ ان قوموں کے عالموں کو محض ان کی قومیت کی بناء پر ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں بلکہ اپنی مجلسوں میں ان کا مذاق بنا کر ہنستے ہنساتے ہیں جہاں تو جہاں بڑے بڑے عالموں اور پیران طریقت کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ بھی یہی حرکتیں کرتے رہتے ہیں حد ہوگئی کہ جو لوگ برسوں ان قوموں کے عالموں کے سامنے زانوں تلمذتہ کر کے خود عالم اور شیخ طریقت بنے ہیں مگر پھر بھی محض قومیت کی بناء پر اپنے استادوں کو حقیر و ذلیل سمجھ کر ان کا تمسخر کرتے رہتے ہیں اور اپنے نسب و ذات پر فخر کر کے دوسروں کی ذلت و حقارت کا چرچا کرتے رہتے ہیں لہذا بتائیے کہ قرآن مجید کی روشنی میں ایسے لوگ کتنے بڑے مجرم ہیں؟

ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن مجید نے مندرجہ ذیل احکام اور وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔

(۱) کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ مذاق اڑانے والوں سے دنیا و آخرت میں بہتر ہوں۔

(۲) مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ ایک دوسرے پر طعنہ زنی کریں۔

(۳) مسلمانوں پر حرام ہے کہ ایک دوسرے کے لئے برے برے نام رکھیں۔

(۴) جو ایسا کرے وہ مسلمان ہو کر "فاسق" ہے۔

(۵) اور جو اپنی ان حرکتوں سے توبہ نہ کرے وہ "ظالم" ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر کوئی گنہگار مسلمان اپنے گناہ سے توبہ کرے تو توبہ کے بعد اس کو اس گناہ سے عار دلانا بھی اسی ممانعت میں داخل ہے اسی طرح کسی مسلمان کو کتا، گدھا، سور کہہ دینا بھی ممنوع ہے یا کسی مسلمان کو ایسے نام یا لقب سے یاد کرنا جس میں اس کی برائی ظاہر ہوتی ہو یا اس کو ناگواری ہوتی ہو یہ ساری صورتیں بھی اسی ممانعت میں داخل ہیں۔ (خزائن العرفان ص ۶۱۴)

اور حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق بناؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے کتا نہ بنا دے۔

(صاوی ج ۴ ص ۹۴)

## (۵۹) لوہا آسمان سے اتر ہے!

اللہ تعالیٰ نے "لوہے" کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ  
وانزلنا الحديد فيه باس شديد و اور ہم نے لوہا اتارا اور اس میں سخت آئینج اور  
منافع للناس ط لوگوں کیلئے بہت سے فائدے ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت بریں سے روئے زمین پر تشریف لائے تو لوہے کے پانچ اوزار اپنے ساتھ لائے ہتھوڑا، نہائی، سنسی، ریتی، سوئی اور دوسری روایت انہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تین چیزیں زمین پر نازل ہوئیں۔ حجر اسود، عصا موسوی، لوہا۔ (صاوی ج ۴ ص ۱۳۹)

اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار برکت والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں۔ لوہا، آگ، پانی، نمک۔ (صاوی ج ۴ ص ۱۳۹)

## درسِ ہدایت

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں یہ ہے کہ ”لوہا“ جنت سے زمین پر آیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں یہ ہے کہ ”لوہا“ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ اس لئے کہ ”جنت“ آسمانوں کے اوپر ہی ہے تو لوہا جب جنت سے اترتا تو آسمان ہی سے زمین پر اترتا۔

”لوہا“ ایک ایسی دھات ہے کہ ہر صنعت و حرفت کے آلات اس سے بنتے ہیں اور ہر قسم کے آلات جنگ بھی اسی سے تیار ہوتے ہیں اور انسانوں کی ضروریات کے ہزاروں سامان ایسے ہیں کہ بغیر لوہے کے تیار ہی نہیں ہو سکتے۔ اس لئے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ **وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ** کہ اس ”لوہے“ میں لوگوں کے لئے بے شمار فوائد و منافع ہیں بہر حال ”لوہا“ خداوند تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے لہذا لوہے کا ہر سامان دیکھ کر خداوند قدوس کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۶۰) صحابہ کرام کی سخاوت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے بطور ہدیہ ایک صحابی کے گھر بکری کا ایک سر بھیج دیا تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم سے زیادہ تو میرا فلاں بھائی اس سر کا ضرورت مند ہے وہ سر اس کے گھر بھیج دیا تو اس نے کہا کہ میرا فلاں بھائی مجھ سے بھی زیادہ محتاج ہے۔ یہ کہا اور وہ سر اس صحابی کے گھر بھیج دیا۔ اسی طرح ایک نے دوسرے کے گھر اور دوسرے نے تیسرے کے گھر اس سر کو بھیج دیا یہاں تک کہ جب یہ سر چھٹے صحابی کے پاس پہنچا تو انہوں نے سب سے پہلے والے کے گھر یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ ہم سے زیادہ مفلس اور حاجت مند ہیں اس طرح وہ سر جس گھر سے سب سے پہلے بھیجا گیا تھا۔ پھر اسی گھر میں آ گیا۔ اس موقع پر سورہ حشر کی مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی جس میں اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام کی سخاوت کا خطبہ ارشاد فرمایا۔

اور وہ آیت مبارکہ یہ ہے کہ

یو ثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ، ومن یوق شح نفسه فاولئک هم الفلاحون ☆  
 اور صحابہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔

### ﴿الحشر رکوع ۱﴾

یہ تو زمانہ رسالت کا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں تقریباً اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا جو عبرت خیز و نصیحت آموز ہونے میں پہلے واقعہ سے کم نہیں چنانچہ منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار سو دینار ایک تھیلی میں بند کر کے اپنے غلام کو حکم دیا کہ یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی خدمت میں پیش کر دو اور پھر تم گھر میں اس وقت تک ٹھہرے رہو کہ تم دیکھ لو کہ وہ اس تھیلی کا کیا کرتے ہیں؟ چنانچہ غلام تھیلی لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین نے یہ دیناروں کی تھیلی آپ کے پاس بھیجی ہے اور فرمایا ہے کہ آپ اس کو اپنی حاجتوں میں خرچ کریں۔ امیر المومنین کا پیغام سن کر آپ نے یہ دعادی کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کا بھلا کرے۔ پھر اپنی لونڈی سے فرمایا کہ اے خادمہ! یہ سات دینار فلاں کو دے آؤ اور یہ پانچ دینار فلاں کو۔ اسی طرح انہوں نے ایک ہی نشست میں تمام دیناروں کو حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ صرف دو دینار ان کے سامنے رہ گئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اے لونڈی! یہ دو دینار بھی فلاں ضرورت مند کو دے دو۔

یہ ماجرا دیکھ کر غلام امیر المومنین کے پاس واپس لوٹ آیا تو امیر المومنین نے چار سو دینار کی دوسری تھیلی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور غلام سے فرمایا کہ تم اس وقت تک ان کے گھر میں بیٹھے رہنا اور دیکھتے رہنا کہ وہ اس تھیلی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ چنانچہ غلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیلی لے کر پہنچا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کا تحفہ اور پیغام پانے کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو نیک بدلہ دے پھر فوراً ہی اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ فلاں فلاں صحابہ کے گھروں میں اتنی اتنی رقم پہنچا دو صرف دو دینار باقی رہ گئے تھے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آگئیں اور کہا کہ خدا کی قسم ہم

لوگ بھی تو مفلس اور مسکین ہی ہیں۔ یہ سن کر وہ دو دینار جو باقی رہ گئے تھے بیوی کی طرف پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر غلام امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور سارا چشم دید ماجرا سنانے لگا۔ امیر المؤمنین حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس سخاوت الواعزی کی داستان کو سن کر فرط تعجب سے انتہائی مسرور ہوئے اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحابہ کرام یقیناً آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے پر نہایت رحم دل اور آپس میں بے حد ہمدرد ہیں۔

حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی یہ روایت منقول

ہے۔ (صاوی ج ۳ ص ۱۶۱)

ایک حدیث میں ہے کہ آیت مذکورہ بالا کا نزول اس واقعہ کے بعد ہوا کہ بارگاہ نبوت میں ایک بھوکا شخص حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے حجروں میں معلوم کرایا کہ کیا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ معلوم ہوا کہ کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے تب حضور نے اصحاب کرام سے فرمایا کہ جو اس شخص کو مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے اور حضور سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بیوی سے دریافت کیا کہ گھر میں کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف بچوں کے لئے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے لئے اٹھو اور چراغ بجھا دو تا کہ مہمان اچھی طرح کھالے۔ یہ تجویز اس لئے کہ مہمان یہ جان نہ سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے ہیں کیونکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے گا تو وہ اصرار کرے گا اور کھانا تھوڑا ہے اس لئے مہمان بھوکا رہ جائے گا اس طرح حضرت ابو طلحہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود اور اہل خانہ بھوکے سو رہے جب صبح ہوئی اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ کو دیکھ کر فرمایا کہ رات فلاں فلاں کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت راضی ہے اور سورۃ حشر کی یہ آیت نازل ہوئی۔ (خرائن العرفان ص ۶۵۰)

### درس ہدایت

یہ آیت مبارکہ اور اس کی شان نزول کے حیرت ناک واقعات ہم مسلمانوں کے لئے

کس قدر عبرت خیز و نصیحت آموز ہیں اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہر شخص خود ہی انصاف کی عینک لگا کر اس کو دیکھ سکتا ہے بشرطیکہ اس کے دل میں بصیرت کے روشنی اور آنکھوں میں بصارت کا نور موجود ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۶۱) یہودیوں کی جلاوطنی

ہجرت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ اور اطراف مدینہ کے یہودیوں سے ”صلح و عہد“ کا معاہدہ فرمایا مگر یہودی اپنے عہد و پیمان پر تادیر قائم نہیں رہے بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران یہودیوں میں سے قبیلہ ”بنو نضیر“ کے ذمہ دار افراد نے ایک روز یہ سازش کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر یہ عرض کریں کہ ہم کو آپ سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے اور جب وہ تشریف لے آئیں تو دیوار کے قریب ان کو بٹھایا جائے اور وہ جب گفتگو میں مصروف ہو جائیں تو چھت کے اوپر سے ایک بھاری پتھر ان کے اوپر گرا کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔

چنانچہ آپ یہودیوں کی بستی میں تشریف لے گئے مگر ابھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہودیوں کی سازش سے آپ کو مطلع کر دیا۔ اس لئے آپ خاموشی کے ساتھ فوراً واپس تشریف لے گئے اس طرح یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ آپ نے مدینہ پہنچ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ بنو نضیر کے یہودیوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ چونکہ تم لوگوں نے غداری کر کے معاہدہ توڑ ڈالا ہے اس لئے تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ حجاز مقدس کی سرزمین سے جلاوطن ہو کر باہر نکل جاؤ۔ منافقین نے یہ سنا تو جمع ہو کر بنو نضیر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ تم لوگ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے اس حکم کو ہرگز تسلیم نہ کرو اور یہاں سے ہرگز جلاوطن نہ ہو۔ ہم ہر طرح تمہارے شریک کار ہیں بنو نضیر نے منافقین کی پشت پناہی دیکھی تو حضور کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری شروع کر دی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو



مدینہ کا امیر بنا کر اور صحابہ کرام کی ایک فوج لے کر بنو نضیر کے قلعہ پر حملہ آور ہو گئے۔ یہودی اس قلعہ میں بند ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور پھر حکم دیا کہ ان کے درختوں کو کاٹ ڈالو کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر یہودی اسلامی لشکر پر چھاپہ مارتے۔ ان حالات کو دیکھ کر بنو نضیر کے یہودیوں پر ایسا رعب بیٹھ گیا اور اس قدر خوف طاری ہو گیا کہ وہ لرز اٹھے اور ان کو منافقین کی طرف سے بھی بجز مایوسی اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ آخر کار مجبور ہو کر یہودیوں نے درخواست کی کہ ہم لوگوں کو جلاوطن ہونے کا موقع دیا جائے چنانچہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ سامان جنگ کے علاوہ جس قدر سامان بھی وہ اونٹوں پر لاد کر لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں چنانچہ بنو نضیر کے یہودی چھ سو اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے مدینہ سے نکلے اور کچھ تو ”خیبر“ چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام جا کر ”ادزعات“ اور ”اریحا“ میں آباد ہو گئے اور چلتے وقت یہودیوں نے اپنے مکان کو گرا کر برباد کر دیا تاکہ مسلمان ان مکانوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ (مدارج النبوة ج ۲ و زرقانی ج ۲ ص ۷۹ تا ص ۸۵)

اللہ تعالیٰ نے بنو نضیر کے یہودیوں کی اس جلاوطنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشر میں

اس طرح فرمایا ہے کہ

هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ فاتهم اللہ من حیث لم یحتسبوا ☆ وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا ولی الابصار ☆

اللہ وہی ہے جس نے کافر کتابیوں (یہودیوں) کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لئے (اے مسلمانوں!) تمہیں یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے تو اللہ کا حکم ان کے پاس آ گیا جہاں سے کہ ان کو گمان بھی نہ تھا اور اس نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں

کے ہاتھوں سے ویران کرنے لگے تو عبرت پکڑو والے نگاہ والو۔

## درس ہدایت

یہودیوں کی قوم اپنی روایتی حسد و بغض اور تاریخی منافقت میں ہمیشہ سے مشہور رہے خاص کر غداری اور بدعہدی تو ان کا قومی خاصہ ہے اس کے علاوہ ان بدبختوں کا ظلم بھی ضرب المثل ہے یہاں تک کہ ان لوگوں نے بہت سے انبیاء کرام کو قتل کر دیا دریاں حالیکہ ان بدبختوں کو یہ اعتراف تھا کہ ہم ان کو ناحق قتل کر رہے ہیں خداوند قدوس نے ان کی بدعہدیوں اور وعدہ شکنیوں کا قرآن مجید میں بار بار ذکر فرما کر مسلمانوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ یہودیوں کے عہد و معاہدہ پر ہرگز ہرگز مسلمانوں کو بھروسہ نہیں کرنا چاہئے اور ہمیشہ ان بدبختوں کی مکاریوں اور وسیسہ کاریوں سے ہوشیار رہنا چاہئے۔

اور بدعہدی اور عہد شکنی کے یہ خبیث خصائل اور بدترین شرارتوں کے گھناؤنے ردائل زمانہ دراز سے آج تک بدستور یہودیوں میں موجود ہیں جیسا کہ اس دور میں بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ یہ لوگ آج کل اسرائیل کی غاصبانہ حکومت بنا کر فلسطینی عربوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اور امریکہ کے یہودی کس طرح ان کی بدعہدیوں پر ان کی پیٹھ ٹھونک کر خود اترارہے ہیں اور اسرائیلی حکومت کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں حالانکہ پوری دنیا اسرائیل اور امریکہ پر لعنت و ملامت کر رہی ہے مگر ان بے ایمان بے حیاءوں کی شرم و حیا اس طرح غارت ہو چکی ہے کہ ان ظالموں کو اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ فلسطینی عرب تو ظاہر ہے کہ امریکہ جیسی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے مگر ہم ناامید نہیں ہیں اور قرآنی وعدوں سے پر امید ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بدستور سابق ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی عذاب الہی تو ضرور ہلاک و برباد فرمادے گا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

## (۶۲) ایک عجیب وظیفہ

مفسرین نے فرمایا ہے کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند کو جن کا نام "سالم" تھا مشرکوں نے گرفتار کر لیا تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی مفلسی و فاقہ مستی کی شکایت کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ مشرکوں نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا ہے جس کے صدمہ سے اس کی ماں بے حد پریشان ہے تو اس سلسلے میں اب مجھے کیا کرنا چاہئے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم

صبر کرو اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو اور تم بھی بکثرت لاحول ولا قوۃ الا اللہ العلی العظیم پڑھا کرو اور بچے کی ماں کو بھی تاکید کر دو کہ وہ بھی کثرت سے اس وظیفہ کا ورد کرتی رہیں یہ سن کر عوف بن مالک اشجعی اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو یہ وظیفہ بتا دیا پھر دونوں میاں بیوی اس وظیفہ کو بکثرت پڑھنے لگے۔

اسی درمیان میں وظیفہ کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن مشرکین ”سالم“ کی طرف سے غافل ہو گئے چنانچہ موقع پا کر حضرت سالم مشرکوں کی قید سے نکل بھاگے اور چلتے وقت مشرکوں کی چار ہزار بکریاں اور پچاس اونٹوں کو بھی ہانک کر ساتھ لائے اور اپنے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں باپ نے دروازہ کھولا تو حضرت سالم موجود تھے ماں باپ بیٹے کی ناگہاں ملاقات سے بے حد خوش ہوئے اور عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کی سلامتی کے ساتھ قید سے رہائی کی خبر سنائی اور یہ فتویٰ دریافت کیا کہ مشرکین کی یہ بکریوں کو جس طرح چاہیں استعمال کریں اور اس کے بعد مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی کہ

ومن یتق اللہ یجعل لہ فحر جا  
☆ ویزقہ من حیث لایحتسب  
ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ  
اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شی  
ء قدرا ☆ ﴿الطلاق رکوع ۱﴾

جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی  
راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی  
دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو اور جو  
اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لئے کافی  
ہے بیشک اللہ اپنے ہر کام کو پورا کرنے والا ہے  
بیشک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں  
ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کو لے لیں تو یہ آیت لوگوں کو کافی ہو جائے  
گی اور وہ آیت یہ ہے ومن یتق اللہ سے آخر آیت تک (صاوی ج ۳ ص ۱۸۲)

### حکایت عجیبہ

علامہ اجہوری نے اپنی کتاب ”فضائل رمضان“ میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ  
لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی

آواز آئی مگر اس کی صورت نہیں دکھائی پڑی اس نے کہا اگر کوئی شخص مجھے دس ہزار دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہو اور اس وظیفہ کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی تو کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ میں تجھ کو دس ہزار دینار دیتا ہوں تو مجھے وہ وظیفہ بتا دے تو آواز آئی کہ تو دیناروں کو سمندر میں ڈال دے مجھے مل جائیں گے چنانچہ کشتی والے نے دس ہزار دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا تو اس غیبی آواز دینے والے نے کہا کہ وہ وظیفہ ومن یتق الله آخر آیت تک ہے تجھ پر جب کوئی مصیبت پڑے تو اس کو پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے اپنی دولت ضائع کر دی۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہرگز ہرگز میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا ہے اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ قرآن شریف کی آیت ضرور نفع بخش ہوگی۔ اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی۔ پھر اچانک طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی اور سوائے اس آدمی کے کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا یہ کشتی کے ایک تخت پر بیٹھا ہوا سمندر میں بہتا چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ ایک جزیرہ میں اتر پڑا اور چند قدم چل کر یہ دیکھا کہ ایک شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں اور اس محل میں ایک بہت ہی حسین عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اور کیسے یہاں پہنچ گئے؟ تو اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں۔ میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر میں جا رہی تھی تو ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے کوئی اچانک کشتی میں سے اچک کر لے بھاگا اور میں اس جزیرہ میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے وہ ہر ساتویں دن یہاں آتا ہے میرے ساتھ صحبت تو نہیں کرتا مگر بوسہ دکنار کرتا ہے اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے لہذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ آ کر تم پر حملہ کر دے گا ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا تو عورت نے کہا کہ جلدی بھاگ جاؤ وہ آ رہا ہے ورنہ وہ تم کو ضرور ہلاک کر دے گا چنانچہ وہ آ گیا اور یہ شخص کھڑا رہا مگر جوں ہی شیطان اس کو دبوچنے کے لئے آگے بڑھا تو

اس نے ومن یتق الله کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو شیطان زمین پر گر پڑا اور اس زور کی آواز آئی کہ گویا پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا ہے اور پھر وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے۔ تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات ملی۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی جواہرات کو اٹھا لو اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو چنانچہ بہت سے موتی و جواہرات اور پھل وغیرہ کھانے کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی ”بصرہ“ جا رہی تھی دونوں اس پر سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس مرد کے ممنون احسان ہو کر اس کو بہت عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگزشت سن کر دونوں کا نکاح کر دیا اور دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے اور تمام موتی جواہرات جو دونوں جزیرہ سے لائے تھے وہ دونوں کی مشترکہ بن گئے اور اس عورت سے خداوند تعالیٰ نے اس مرد کو چند اولاد بھی دی اور دونوں بہت ہی محبت و الفت کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ (صاوی ج ۳ ص ۱۸۳)

### درسِ ہدایت

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اعمال و وظائف قرآنی میں بڑی بڑی تاثیرات ہیں مگر شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو اور اعمال کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور زبان گناہوں کی آلودگی اور لقمہ حرام سے محفوظ اور پاک و صاف ہو اور عمل میں اخلاص نیت اور شرائط کی پوری پوری پابندی بھی ہو تو انشاء اللہ تعالیٰ قرآنی اعمال سے بڑی بڑی اور عجیب عجیب تاثیرات کا ظہور ہوگا جس کی ایک مثال آپ نے پڑھ لیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### (۶۳) پانچ مشہور اور پرانے بت

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی اور ان لوگوں کے پانچ بت بہت مشہور تھے جن کی پوجا کرنے پر پوری قوم نہایت ہی اصرار کے ساتھ کمر بستہ تھی اور ان

پانچوں بتوں کے نام یہ تھے۔ (۱) ود (۲) سواع (۳) یغوث (۴) یعوق (۵) نسر۔  
حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف وعظ فرمایا کرتے تھے تو ان کی قوم ان  
کے خلاف ہر کوچہ و بازار میں چمچا کرتی پھرتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح  
کی ایذا میں دیا کرتی تھی چنانچہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ

وقالوا لا تذرنا الہتکم ولا تذرنا اور (کفار) بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے  
ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق معبودوں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سواع اور  
ونسرا وقد اضلوا کثیرا۔ یغوث اور یعوق اور نسر کو اور بیشک انہوں نے

بہتوں کو گمراہ کر دیا۔ ﴿نوح رکوع ۲﴾

یہ پانچوں بت کون تھے؟ ان کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما  
کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ پانچوں فرزند تھے جو نہایت ہی دیندار و عبادت  
گزار تھے اور لوگ ان پانچوں کے بہت ہی محبت و معتقد تھے جب ان پانچوں کی وفات ہو گئی  
تو لوگوں کو بڑا رنج و صدمہ ہوا تو شیطان نے ان لوگوں کی تعزیت کرتے ہوئے یوں تسلی دی  
کہ تم لوگ ان پانچوں صالحین کا مجسمہ بنا کر رکھ لو اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین  
دلاتے رہو چنانچہ پیتل اور سیسے کے مجسمے بنا بنا کر ان لوگوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں رکھ  
دیا۔ کچھ دنوں تک تو لوگ ان مجسموں کی زیارت کرتے رہے پھر لوگ ان بتوں کی عبادت  
کرنے لگے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے۔ (صاوی ج ۳ ص ۲۱۳)

حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک ان لوگوں کو وعظ سنا سنا کر اس بت  
پرستی سے منع فرماتے رہے بالآخر طوفان میں غرق ہو کر سب ہلاک ہو گئے مگر شیطان اپنی اس  
چال سے باز نہیں آیا اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اسی طور پر بت پرستی  
سکھاتا رہا کہ لوگ اپنے صالحین کی تصویریں اور مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی  
زیارت کرتے رہے اور ان کے دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہے پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں  
اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے اس طرح شرک و بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی  
اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا جس کو روشن کرنے کے لئے انبیاء سابقین کے  
بعد دیگرے برابر مبعوث ہوتے رہے یہاں تک کہ ہمارے حضور نام النبیین صلی اللہ تعالیٰ  
علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لئے بت پرستی کی جڑ اس طرح کاٹ دی کہ آپ نے تصویروں اور

جسموں کا بنانا ہی حرام فرما دیا اور حکم صادر فرما دیا کہ تصاویر اور مجسمے ہرگز ہرگز کوئی شخص کسی آدمی تو آدمی کسی جاندار کا بھی نہ بنائے اور جو پہلے سے بن چکے ہیں ان کو جہاں بھی دیکھو فوراً مٹا کر اور توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دو تا کہ نہ رہے گا بانس نہ بچے گی بانسری۔

### درسِ ہدایت

آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے پیروں کے مریدین نے اپنے پیروں کی تصویروں کو چوکھٹوں میں بند کر کے اپنے گھروں میں رکھ چھوڑا ہے اور خاص خاص موقعوں پر اس کی زیارت کرتے کرتے رہتے ہیں بلکہ بعض تو ان تصویروں پر پھول ملائیں چڑھا کر اگر جتی بھی سلگایا کرتے ہیں اور اس کے دھوئیں کو اپنے بدن پر ملا کرتے ہیں اگر یہ لوگ اپنی ان خرافات سے باز نہ رہے اور علماء اہلسنت نے اس کے خلاف علم مخالفت نہ بلند کیا تو اندیشہ ہے کہ شیطان کا پرانا حربہ اور اس کی شیطانی چال کا جادو مسلمانوں پر چل جائے گا اور آنے والی نسلیں ان تصویروں کی عبادت کرنے لگیں گی۔

خوب کان کھول کر سن لو کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بت پرستی کے جس درخت کی جڑوں کو کاٹ دیا تھا آج کل کے یہ جاہل بدعتی پیر اور ان کے توہم پرست مریدین بت پرستی کی ان جڑوں کو سینچ سینچ کر پھر شرک و بت پرستی کے درخت کو ہرا بھرا اور تناور بنا رہے ہیں آج کل کے جاہل اور دنیا دار پیروں سے تو کیا امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اس کے خلاف زبان کھولیں گے مگر ہاں حق پرست اور حق گو علمائے اہلسنت سے بہت کچھ امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ ان خلاف شرع اعمال و افعال کے خلاف انشاء اللہ تعالیٰ ضرور علم جہاد بلند کریں گے کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر اس موقع پر جبکہ اسلام کی کشتی گمراہیوں کی بھنور میں ڈمگانے لگی ہے تو علمائے اہلسنت ہی نے اپنی جان پر کھیل کر کشتی اسلام کی ناخدائی کی ہے اور آخر طوفانوں کا رخ موڑ کر اسلام کی کشتی کو غرقاب ہونے سے بچالیا ہے۔

مگر اس زمانے میں اس کا کیا علاج؟ کہ ان بے شرع پیروں اور مکار باباؤں نے چند روپیوں کے بدلے کچھ مولویوں کو خرید لیا ہے اور یہ مولوی صاحبان ان بے شرع پیروں اور مکار باباؤں کو ”مجذوب“ یا فرقہ ”ملاعتیہ“ کا خوبصورت لبادہ اوڑھا کر خوب خوب ان کے کشف و کرامت کا ڈنکا بجا رہے ہیں اور ان باباؤں کے نذرانوں سے اپنی مٹھی گرم کر رہے ہیں اور اگر کوئی حق گو عالم ان لوگوں کے خلاف کلمہ حق کہہ دے تو بابا لوگ اپنے

داداؤں کو بلا کر اس عالم کی مرمت کرادیں اور ان کے زر خرید مولوی اپنی مخالفانہ تقریروں کی بوچھاڑ سے بے جا رہے حق گو عالم کی زندگی دو بھر کر دیں۔ میں نے بارہا علماء اہلسنت کو پکارا اور للکارا کہ اللہ۔ اٹھو اور حق کے لئے کمر بستہ ہو کر کم از کم اتنا تو کر دو کہ متفقہ فتویٰ کے ذریعہ یہ اعلان کر دو کہ یہ داڑھی منڈے اول فول بکنے والے کنجیری، تارک صوم و صلوة۔ بے شرع بابا لوگ فاسق معطن ہیں جو خود گمراہ اور مسلمانوں کے لئے گمراہ کن ہیں اور ان لوگوں کو ولایت و کرامت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں مگر افسوس کہ ایک مولوی بھی مجھ عاجز کی آواز پر لبیک کہنے والا نہیں ملا بلکہ پتہ یہ چلا کہ ہر بابا کی جھولی میں کوئی نہ کوئی مولوی چھپا ہوا ہے جس کے خلاف کچھ کہنا خطرے سے خالی نہیں کیونکہ جو بھی ان باباؤں کے خلاف زبان کھولے گا ان نذرانہ خور مولویوں کی کاؤں کاؤں اور چاؤں چاؤں میں اس کی مٹی پلید ہو جائے گی۔ فیہ اسفاه و یا حسرتاہ۔ انا لله وانا الیہ راجعون۔

## (۶۴) ابو جہل اور خدا کے سپاہی

ابو جہل نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا اور وہ علانیہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں نے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے پاؤں سے ان کی گردن کچل دوں گا اور ان کا چہرہ خاک میں ملا دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اس فاسد ارادہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کے قریب آیا مگر اچانک اٹلے پاؤں بھاگا ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے جیسے کوئی کسی مصیبت کو روکنے کے لئے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا اور بدن کی بوٹی بوٹی کانپنے لگی۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے اور محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور کچھ دہشت ناک پرند بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس سے میں اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ آگے نہیں بڑھ سکا اور ہانپتے کانپتے کسی طرح جان بچا کر بھاگا۔

نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو جدا کر دیتے۔



اس کے بعد بھی ابو جہل اپنی خباثت سے باز نہیں آیا اور حضور کو نماز پڑھنے سے منع کرنے لگا۔ اس پر حضور نے سختی سے اس کو جھڑک دیا تو ابو جہل نے غصہ میں بھر کر کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں مجھ سے زیادہ جتھے والا اور مجھ سے بڑی مجلس والا کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم! میں آپ کے مقابلہ میں سواروں اور پیدلوں سے اس میدان کو بھردوں گا۔ اس کی دھمکی کے جواب میں سورہ "علق" یعنی سورہ اقرآ کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا۔ (خزائن العرفان ص ۱۰۷ و دیگر تفاسیر)

كَلَّا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية  
 ☆ كاذبة خاطئة فليدع ناديه ☆  
 سندع الزبانية ☆ ﴿علق﴾  
 ہاں۔ ہاں اگر (ابو جہل) باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر (جہنم میں) کھینچیں گے  
 جھوٹی خطا کار پیشانی کو اب پکارے وہ اپنی مجلس کو ابھی ہم اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلاتا تو فرشتے اس کو بالاعلان گرفتار کر لیتے اور وہ "زبانہ" کی گرفت سے بچ نہیں سکتا تھا۔ (خزائن العرفان ص ۱۰۷)

### درس ہدایت

ابو جہل جب تک زندہ رہا ہمیشہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دشمنی و ایذا رسانی پر کمر بستہ رہا اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتا رہا آخر قہر خداوندی میں گرفتار ہوا کہ جنگ بدر کے دن دو لڑکوں کے ہاتھ سے ذلت کے ساتھ قتل ہوا اور اس کی لاش بے گور و کفن بدر کے گڈھے میں پھینک دی گئی۔ اسی طرح تمام دشمنان رسول طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہو گئے سبحان اللہ!

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے  
 نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا  
 تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے  
 جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا  
 عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے  
 یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا

## (۶۵) شب قدر

شب قدر بڑی برکت و رحمت والی رات ہے اس رات کے مراتب و درجات کا کیا کہنا ہے کہ خداوند قدوس نے اس مقدس رات کے بارے میں قرآن مجید کی ایک سورہ نازل فرمائی ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ

انا انزلنه فی لیلة القدر ☆ وما  
ادرك مالیلة القدر ☆ لیلة القدر  
خیر من الف شهر ☆ تنزل الملكة  
والروح فیها باذن ربهم من كل امر  
سلم ☆ ہی حتی مطلع الفجر ☆  
﴿سورة القدر﴾  
بیشک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا اور تم کیا جانو کہ کیا چیز ہے شب قدر؟ شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لئے۔ یہ سلامتی ہے یہ صبح صادق کے طلوع تک رہتی ہے۔

یعنی شب قدر وہ قدر و منزلت والی رات ہے کہ اس رات میں پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور اس کی ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اور افضل ہے اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے ایک لشکر کے ساتھ آسمان سے زمین پر اترتے ہیں یہ رات زمین و آسمان اور سارے جہان کے لئے سلامتی کا نشان ہے۔ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اس کے انوار و برکات کی تجلیاں برابر جلوہ افروز رہتی ہیں۔ (قرآن مجید)

روایت ہے کہ ایک دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا قصہ بیان فرمایا کہ اس نے ایک ہزار مہینے تک لگاتار عبادت اور جہاد کیا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کے امتیوں کی عمریں تو بہت کم ہیں پھر بھلا ہم لوگ اتنی عبادت کیوں کر سکیں گے؟ صحابہ کے اس افسوس پر آپ کچھ فکر مند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی کہ اے محبوب! ہم نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا کی ہے کہ وہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ (صاوی ج ۴ ص ۲۸۷)

## مومنوں کو ملائکہ کی سلامی

روایت ہے کہ شب قدر میں سدرۃ المنتہیٰ کے فرشتوں کی فوج حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے اور ان کے ساتھ چار جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر انور پر اور ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر اور ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر اور ایک جھنڈا طور سینا پر لہراتے ہیں اور پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر اس مومن مرد و عورت کو سلام کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہوں گی مگر جن گھروں میں بت یا تصویر یا کتا ہو یا جن مکانوں میں شرابی یا خنزیر کھانے والا یا غسل جنابت نہ کرنے والا یا بلاوجہ شرعی اپنی رشتہ داری کو کاٹ دینے والا رہتا ہو ان گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ (صاوی ج ۴ ص ۲۸۸)

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ (صاوی ج ۴ ص ۲۸۸)

## شب قدر کون سی رات ہے؟

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اکیسویں اور تیسویں اور پچیسویں اور ستائیسویں اور انیسویں راتوں یعنی تلاش کرو۔ (بخاری و مسلم)

اس لئے بعض علمائے کرام نے فرمایا کہ شب قدر کی کوئی معین رات نہیں ہے لہذا ان پانچوں راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہئے۔

مگر حضرت ابی بن کعب و حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دوسرے علمائے کرام کا قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی ستائیسویں رات ہے۔ (صاوی ج ۴ ص ۲۸۸) اور بعض علمائے کرام نے بطور اشارہ اس کی یہ دلیل بھی پیش کی ہے کہ "میلۃ القدر" میں نو حروف ہیں اور "میلۃ القدر" کا لفظ اس سورہ میں تین جگہ آیا ہے اور نو کو تین میں ضرب دینے سے ستائیس ہوتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان کی ستائیسویں رات ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (صاوی ج ۴ ص ۲۸۸)

## شب قدر کی نماز اور دعائیں

روایت ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ (روح البیان وغیرہ)

- (۱) شب قدر میں چار رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا تین مرتبہ اور قل هو اللہ پچاس مرتبہ پڑھے پھر سلام کے بعد سجدہ میں جا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے پھر سجدہ سے سر اٹھا کر جو دعائیں انشاء اللہ تعالیٰ مقبول ہوگی۔ (فضائل الشہور والایام)
- (۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کونسی دعا پڑھوں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔

- (۳) ایک روایت میں ہے کہ جو شخص رات میں یہ دعا تین مرتبہ پڑھ لے تو اس نے گویا شب قدر کو پالیا لہذا ہر رات اس دعا کو پڑھ لینا چاہئے۔ دعا یہ ہے۔
- لا الہ الا اللہ العظیم  
الکرم سبحان اللہ رب السموات السبع ورب العرش  
العظیم۔

- (۴) یہ دعا بھی جس قدر زیادہ پڑھ سکیں پڑھیں۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ دعا یہ ہے۔
- اللہم انی اسئلك العفو والعافیة والمعافاة الدائمة فی الدنیا والاخرة۔

## (۶۶) زمین بات چیت کرے گی

قیامت کے دن بندوں کی نیکی بدی کے حساب کے وقت جہاں بہت سے گواہ ہوں گے وہاں زمین بھی گواہ بن کر شہادت دے گی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر مرد و عورت نے زمین پر جو کچھ اچھایا برائے عمل کیا ہے۔ زمین اس کی گواہی دے گی۔ کہے گی کہ فلاں روز یہ کام کیا اور فلاں روز یہ کام کیا۔ (خزائن العرفان ص ۱۲ بحوالہ ترمذی)

زمین پر جو کچھ اچھے یا برے کام لوگوں نے کئے ہیں ان سب کو زمین نے یاد رکھا ہے اور قیامت کے دن وہ ساری خبروں کو علی الاعلان بیان کرے گی جس کو سب لوگ سنیں گے

اس مضمون کو خداوند عزوجل نے قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ

☆ اذا زلزلت الارض زلزالها ☆  
☆ واخرجت الارض اثقالها ☆  
وقال الانسان مالها ☆ يومئذ  
تحدث اخبارها ☆ بان ربك  
او حالها ☆ ﴿الزلزال﴾

جب زمین تھرتھرا دی جائے گی جیسا اس کا  
تھرتھرانا ٹھہرا ہے اور جب زمین اپنے بوجھوں  
کو باہر پھینک دے گی اور آدمی (حیرت  
سے) کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس دن  
وہ اپنی خبریں بتائے گی کیونکہ تمہارے رب  
نے اس کو اس بات کا حکم دیا ہے۔

### درس ہدایت

قیامت کے دن بندوں کے اچھے برے اعمال کے بہت سے گواہ ہوں گے ہر انسان  
کے کندھوں پر جو فرشتے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ وہ مستقل گواہ ہیں پھر ان کے علاوہ انسان  
کے اعضا گواہی دیں گے یعنی انسان کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان وغیرہ جن جن اعضاء سے جو  
جو نیکی یا بدی انسان نے کی ہے ان اعمال کے بارے میں زمین ہر عمل کی خبر دے گی اور  
خداوند قدوس کے حضور گواہی دے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی چھپ کر اور  
چھپا کر کوئی اچھا یا برا عمل کرے مگر وہ عمل قیامت کے دن ہرگز ہرگز چھپ نہ سکے گا بلکہ ہر  
آدمی کا ہر عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور وہ اپنے تمام کرتوتوں کو اپنی آنکھوں  
سے دیکھے گا اور ہر عمل کا بدلہ بھی پائے گا چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ

☆ يومئذ يصدر الناس اشتاتا ☆  
ليروا اعمالهم ۵ فمن يعمل مثقال  
ذرة خيرا يره ۵ ومن يعمل مثقال  
ذرة شرا يره ☆ ﴿الزلزال﴾

اس (قیامت) کے دن لوگ اپنے رب کی  
طرف پھریں گے کئی راستوں سے ہو کر تاکہ  
ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں تو جو ایک  
ذره بھرنیکی کرے وہ اس کو دیکھے گا اور وہ  
ایک ذره بھربدی کرے وہ اس کو دیکھے گا۔

بہر حال قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا اور ہر آدمی کو اپنے ہر چھوٹے بڑے اور اچھے  
برے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ زندگی کے ہر لمحہ میں یہ  
دھیان رکھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے ایک دن اپنے ان کاموں کا حساب دینا پڑے گا  
اور جن اعمال کو میں چھپا کر رہا ہوں۔ وہ ایک دن قیامت کے بھرے مجمع میں احکم الحاکمین

کے حضور ظاہر ہو کر رہیں گے اس وقت کیسی اور کتنی بڑی رسوائی اور شرمندگی ہوگی۔

## (۶۷) مجاہدین کے گھوڑوں کی عظمت

خداوند قدوس کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین اور غازیوں کا مرتبہ کتنا بلند و بالا اور کس قدر عظمت والا ہے اس کے پارے میں تو سینکڑوں آیتوں میں خداوند قدوس نے ان مردان حق کی مدح و ثنا کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے مگر سورہ ”والعدایت“ میں رب العزت جل جلالہ نے مجاہدین اور غازیوں کے گھوڑوں بلکہ ان گھوڑوں کی رفتار اور ان کی اداؤں کی قسم یاد فرما کر ان کی عزت و عظمت کا اظہار فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ

والعدیت ضحاح☆ فالموویت  
قدحاح☆ فالمغیرت صباحا فائرن  
به نقعا☆ فوسطن به جمعا☆ ان  
الانسان لربه لکنود☆  
﴿والعدیت﴾  
قسم ہے ان (گھوڑوں) کی جو دوڑتے ہیں  
ہانپتے ہوئے پھر ان (گھوڑوں) کی جو پتھروں  
سے اگ نکال دیتے ہیں کھر مار کر پھر وہ صبح کو  
حملہ کرتے ہیں پھر اس وقت وہ غبار اڑاتے ہیں  
پھر وہ دشمن کے بیچ لشکر میں چلے جاتے ہیں۔  
بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔

ان گھوڑوں سے مراد مفسرین کا اجماع ہے کہ مجاہدین اور غازیوں کے گھوڑے مراد ہیں جو خداوند قدوس کے دربار میں اس قدر محبوب و محترم ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت حق جل مجدہ نے ان گھوڑوں بلکہ ان کی اداؤں کی قسم یاد فرمائی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو جہاد میں دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں اور مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پتھروں پر اپنے نعل والے کھر مار کر رات کی تاریکی میں چنگاری نکال دیتے ہیں اور مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو صبح سویرے کفار پر حملہ کر دیتے ہیں اور مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو میدان جنگ میں دوڑ کر غبار اڑاتے ہیں اور مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کفار کے بیچ لشکر میں گھس جاتے ہیں اتنی قسموں کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔“

اللہ اکبر۔ خداوند قدوس جن چیزوں کی قسم یاد فرمائے ان چیزوں کی عظمت شان کا

کیا کہنا؟ قرآن مجید میں جن جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ مجھے ان کی قسم ہے۔ ان تمام چیزوں کا مرتبہ اتنا بلند و بالا اور اس قدر عظمت والا ہو گیا کہ وہ تمام چیزیں ہم مسلمانوں کے لئے بلکہ ساری کائنات کے لئے معزز و محترم ہو گئیں تو پھر مجاہدین کے گھوڑوں کی عزت و عظمت اور ان کے تقدس و احترام کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔

### درس ہدایت

اس سے ہدایت کا یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی ہر ہر چیز سے محبت فرماتا ہے اور خدا کے محبوبوں کی ہر ہر چیز قابل عزت و لائق احترام ہے۔ مجاہدین اسلام اور غازیان کرام چونکہ خداوند قدوس کے محبوب اور پیارے بندے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کے گھوڑوں سے بھی اس قدر پیار و محبت فرماتا ہے کہ ان گھوڑوں بلکہ ان گھوڑوں کی رفتار اور میدان جنگ میں ان گھوڑوں کے حملوں کی قسم یاد فرما کر ان گھوڑوں کی عزت و عظمت کا اعلان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔

جب مجاہدین کرام کے گھوڑوں کے بلند درجات کا خطبہ قرآن عظیم نے پڑھا تو اس سے معلوم ہوا کہ مجاہدین کے آلات جنگ اور ان کے ہتھیاروں، ان کی کمانوں، ان کی تلواروں کا بھی مرتبہ بہت بلند ہے۔ اسی لئے بعض بعض خانقاہوں میں بعض غازیوں کی تلواروں کو بزرگوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ تبرک بنا کر برسہا برس سے محفوظ رکھا ہے جو بلاشبہ باعث برکت و لائق عزت احترام ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### (۶۸) قریش کے دو سفر

مکہ مکرمہ میں نہ کاشتکاری ہوتی تھی نہ وہاں کوئی صنعت و حرفت تھی۔ پھر بھی قبیلہ قریش کے لوگ لوگ کافی خوشحال اور صاحب مال تھے اور خوب دل کھول کر حاجیوں کی ضیافت اور مہمان نوازی کرتے تھے۔ قریش کی خوشحالی اور فارغ البالی کا راز یہ تھا کہ یہ لوگ ہر سال دو مرتبہ تجارتی سفر کیا کرتے تھے جاڑے کے موسم میں یمن اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے اور ہر جگہ کے لوگ انہیں ہل حرم اور بیت اللہ شریف کا پڑوسی کہہ کر ان لوگوں کا اکرام و احترام کرتے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ تجارتیں کرتے تھے اور قریش ان

تجارتوں میں خوف نفع اٹھاتے تھے اور ان لوگوں کے حرم کعبہ کا باشندہ ہونے کی بناء پر راستہ میں ان کے قافلوں پر کسی قسم کی رہزنی اور ڈکیتی نہیں ہوا کرتی تھی باوجودیکہ اطراف و جوانب میں ہر طرف قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم رہا کرتے تھا قریش کے سوا دوسرے قبیلوں کے لوگ جب سفر کرتے تو راستوں میں ان کے قافلوں پر حملے ہوئے تھے اور مسافر لوٹے مارے جاتے تھے۔ اس لئے قریش جس طرح امن و امان کے ساتھ یہ دونوں تجارتی سفر کر لیا کرتے تھے۔ دوسرے لوگوں کو یہ امن و امان نصیب نہیں تھا۔ (خزائن العرفان ص ۱۴۷ وغیرہ)

اللہ تعالیٰ نے قریش کو جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان میں سے خاص طور پر ان دو تجارتی سفروں کی نعمت کو یاد دلا کر ان کو خداوند قدوس کی عبادت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ

لا یلف قریش ☆ الفہم رحلة الشتاء  
والصیف ☆ فلیعبدو رب هذا  
البت ☆ الذی اطعمہم من  
جوع ☆ وامنہم من خوف ☆  
﴿سورة القریش﴾

اس لئے کہ قریش کو (اللہ نے) جاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں کی الفت دلائی اس لئے انہیں لازم ہے کہ اس گھر (کعبہ) کے رب کی بندگی کریں جس نے ان لوگوں کو بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔

ان لوگوں کو بھوک میں کھانا دیا۔ یعنی ان دونوں تجارتی سفروں کی بدولت ان لوگوں کے معاش اور روزی کا سامان پیدا کر دیا اور ان کے قافلوں کو لوٹ مار سے امن و امان عطا فرمایا لہذا ان لوگوں کو لازم ہے کہ یہ لوگ رب کعبہ کی عبادت کریں جس نے ان لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے نہ کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کریں جنہوں نے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا ہے۔

### درس ہدایت

اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنی دو نعمتوں کو یاد دلا کر بت پرستی چھوڑنے اور اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اس سورہ میں اگرچہ خاص طور پر قریش کا ذکر ہے مگر یہ حکم تمام دنیا کے انسانوں کے لئے ہے کہ لوگ خدا کی نعمتوں کو یاد کریں اور نعمت دینے والے خدائے واحد کی



عبادت کریں اور بت پرستی سے باز رہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۶۹) کفر و اسلام میں مفاہمت غیر ممکن

کفار قریش میں سے ایک جماعت دربار رسالت میں آئی اور یہ کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کریں تو ہم بھی آپ کے دین کا اتباع کریں گے۔ ایک سال آپ ہمارے معبودوں (بتوں) کی عبادت کریں ایک سال ہم آپ کے معبود! اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کی میں غیر اللہ کو اس کا شریک ٹھہراؤں۔ یہ سن کر کفار قریش نے کہا کہ اگر آپ بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ ہمارے بت کو ہاتھ ہی لگا دیجئے تو ہم آپ کی تصدیق کر لیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کرنے لگیں گے۔ اس موقع پر سورہ قل یا ایہا الکفرون نازل ہوئی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور کفار قریش کو یہ سورہ پڑھ کر سنائی تو کفار قریش مایوس ہو گئے اور پھر غصہ میں جل بھن کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ کرام کو طرح طرح کی ایذائیں دینے پر تل گئے۔ (خزائن العرفان ص ۱۵۷)

قل یا ایہا الکفرون ☆ لا اعبد	(اے پیغمبر) تم فرما دو کہ اے کافرو! نہ میں
ما تعبدون ☆ ولا انتم عبدون	پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو اور نہ تم پوجتے ہو
ما اعبد ☆ ولا انا عابد ما عبدتم ☆	جو میں پوجتا ہوں اور نہ میں پوجوں گا جو تم
ولا انتم عبدون ما اعبد ☆ لکم	نے پوجا اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں
دینکم ولی دین ☆	تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے
	میرا دین ہے۔

﴿سورۃ الکافرون﴾

### درس ہدایت

اس سورہ پاک کے مضمون اور حضور سید لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کفر و اسلام میں کبھی مفاہمت اور موافقت نہیں ہو سکتی جو مسلمان کفار کی خوشنودی اور ان کی خوشامد کے لئے ان کی مذہبی تقریبات میں حصہ لیتے ہیں اور بت پرستی کی مشرکانہ رسموں میں چندہ دے کر شرکت کرتے ہیں ان کو اس سورہ سے ہدایت کا نورانی

سبق حاصل کرنا چاہئے اور ایمان رکھنا چاہئے کہ توحید اور شرک کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے جو موحد ہوگا وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا اور جو مشرک ہوگا وہ کبھی موحد نہیں ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۷۰) اللہ تعالیٰ کی چند صفتیں

کفار عرب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے سوال کئے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب اور خاندان کیا ہے؟ اس نے ربوبیت کس سے میراث میں پائی ہے؟ اور اس کا وارث کون ہوگا؟ کسی نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا ہے یا لکڑی کا؟ کسی نے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کھاتا پیتا ہے؟

ان سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ قل ہو اللہ نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا واضح بیان فرما کر اپنی معرفت کی راہ روشن کر دی اور کفار کے جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے نورانی بیان سے دور فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ (خزائن العرفان ص ۷۱۶)

قل هو اللہ احد ☆ اللہ الصمد ☆ لم یلد ☆ ولم یولد ولم یکن له کفوا  
 تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔

### درس ہدایت

اللہ تعالیٰ نے سورہ قل ہو اللہ کی چند آیتوں میں ”علم الہیات“ کے وہ نفس اور اعلیٰ مطالب بیان فرما دیئے ہیں کہ جن کی تفصیلات اگر بیان کی جائیں تو کتب خانے کے کتب خانے پر ہو جائیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور الوہیت میں صفت عظمت و کمال کے ساتھ موصوف ہے۔ مثل و نظیر و شبیہ سے پاک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔

وہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کسی کا محتاج ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

وہ قدیم ہے اور پیدا ہونا حادث کی شان ہے اس لئے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی مجالس ہے نہ اس کا عدیل و مثیل ہے۔

اس سورہ مبارکہ کی فضیلتوں کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اس کو تہائی قرآن کے برابر بتایا گیا ہے یعنی اگر تین مرتبہ اس سورہ کو پڑھا جائے تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔

ایک شخص نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔

(خزائن العرفان ص ۷۱۶ بحوالہ ترمذی)

## تمت

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والہ و صحبہ اجمعین

برحمة وھوارحم الراحمین.

ابتداءً تصنیف یکم جمادی الاخریٰ ۱۴۰۳ ختم تصنیف ۱۲۳ رمضان ۱۴۰۲ھ

## (۷۱) علوم و معارف کا نہ ختم ہونے والا خزانہ

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ جلیل القدر اور عظیم الشان کتاب ہے جس میں ایک طرف حلال و حرام کے احکام عبرتوں اور نصیحتوں کے اقوال، انبیائے کرام اور گزشتہ امتوں کے واقعات و احوال، جنت و دوزخ کے حالات مذکور ہیں اور دوسری طرف اس کے باطن کی گہرائیوں میں علوم و معارف کے خزانوں کے بے شمار ایسے سمندر موجیں مار رہے ہیں جو قیامت تک کبھی ختم نہیں ہو سکتے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے اس عظیم الشان جامعیت کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ

لايشبع منه العلماء ولا يخلق عن  
كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه.  
﴿مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۸۶﴾  
قرآنی مضامین کا احاطہ کر کے کبھی علماء آسودہ  
نہیں ہوں گے اور بار بار پڑھنے سے قرآن  
پرانا نہیں ہوگا اور قرآن کے عجیب و غریب  
مضامین کبھی ختم نہیں ہوں گے۔

چنانچہ حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ  
ان الله تعالى اطلعني على معاني  
سورة الفاتحة فظهر لي منها مائة الف  
علم واربعون الف علم وتسع مائة  
وتسعون علما. (الدولة المكية ص ۲۸) ﴿﴾  
بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ فاتحہ کے  
معانی پر آگاہ فرمایا تو ان میں سے ایک  
لاکھ چالیس ہزار نو سو ننانوے علوم مجھ پر  
منکشف ہوئے۔

اسی طرح امام شعرانی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب میزان میں تحریر فرماتے ہیں کہ  
قد استخرج اخي افضل الدين من  
سورة الفاتحة مائتي الف علم  
وسبعة واربعين الف علم وتسع  
مائة وتسعة وتسعون علما.  
میرے بھائی افضل الدین نے سورۃ فاتحہ سے  
دو لاکھ سینتالیس ہزار نو سو ننانوے علوم نکالے  
ہیں۔ (الدولة المكية ص ۲۸۰)

ان روایتوں سے اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید اگرچہ ظاہر میں تیس پاروں کا  
مجموعہ ہے لیکن اس کا باطن کروڑوں بلکہ اربوں علوم و معارف کا ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں  
ہوسکتا۔ کسی عارف باللہ کا مشہور شعر ہے کہ

جميع العلم في القرآن لكن

تقاصر عنه افهام الرجال

یعنی تمام علوم قرآن میں موجود ہیں لیکن لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر و  
کوتاہ ہیں۔ الحاصل قرآن مجید میں صرف علوم و معارف ہی کا بیان نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے  
کہ قرآن مجید میں پوری کائنات اور سارے عالم کی ہر چیز کا واضح اور روشن تفصیلی بیان  
ہے یعنی آسمان کے ایک ایک تارے سمندر کے ایک ایک قطرے سبزہ ہائے زمین کے ایک  
ایک تنکے ریگستان کے ایک ایک ذرے درختوں کے ایک ایک پتے، عرش و کرسی کے ایک  
ایک گوشے، عالم کائنات کے ایک ایک کونے، ماضی کا ہر واقعہ، حال کا ہر معاملہ، مستقبل کا

ہر ہر حادثہ قرآن مجید میں نہایت وضاحت کے ساتھ تفصیلی بیان ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

ما فرطنا فی الکتب من شیئی ہم نے اس کتاب میں کوئی بھی چیز اٹھانہ رکھیں۔

لیکن واضح رہے کہ قرآن کی راجحازی شان ہمارے تمہارے اور عام لوگوں کے لئے نہیں ہے بلکہ قرآن کی اس اعجازی شان کا کامل ظہور تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور صرف آپ ہی کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے تمام مضامین و معانی کو تفصیلی طور پر جان لیا اور پورا قرآن نازل ہو جانے کے بعد کائنات عالم کی کوئی شے، ماضی و حال اور مستقبل کا کوئی واقعہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوشیدہ نہیں رہا اور آپ نے ہر غیب و شہادت کو تفصیلی طور پر جان لیا کیونکہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ

ونزلنا علیک الکتب تبیاناً لکل شیئی روشن اور خوب واضح بیان ہے۔

پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صدقے میں بعض اولیائے کرام اور علماء اعظام کو بھی بقدر ظرف قرآن کے ان باطنی علوم و معارف سے حصہ ملا ہے جن میں سے کچھ کتابوں کے اکھوں صفحات پر ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں اور کچھ سینوں کے صندوق اور دلوں کی تجوریوں میں اب تک مقفل ہی رہ گئے ہیں جو آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک صفحات قرطاس پر جلوہ ریز ہوتے رہیں گے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس غیبی خبر و لاینقصی عجبانبہ کا وقتاً فوقتاً ظہور ہوتا رہے گا اور امت مسلمہ ان کے فیوض و برکات سے مستفیض و مالا مال ہوتی ہی رہے گی بہر حال یہ یقین و ایمان رکھنا چاہئے کہ ہم نے ”عجائب القرآن“ اور ”غرائب القرآن“ میں جو قرآن کے چند عجیب و غریب مضامین کا ایک مختصر مجموعہ تحریر کیا ہے اور ہم سے پہلے سے علماء کرام نے مضامین قرآن پر ہزاروں کتابیں اور لاکھوں صفحات تحریر فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کے علوم و معارف کے سامنے ان سب تحریروں کو وہ نسبت بھی حاصل نہیں جو ایک قطرہ کو دنیا بھر کے سمندروں سے اور ایک ذرہ کو تمام روئے زمین سے حاصل ہے کیونکہ قرآن مجید تو علوم و معارف کا وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا بلکہ قیامت تک علماء کرام اس بحرناپیدا کنار سے ہمیشہ عجیب و غریب مضامین کے موتی نکالتے

ہی رہیں گے اور ہزاروں لاکھوں کتابوں کے دفتر تیار ہوتے ہی رہیں گے۔

میں اگرچہ اس پر بہت خوش ہوں کہ قرآن کریم کے چند مضامین پر دو مختصر مجموعے لکھ کر میں ان علماء کرام کی جوتیوں کی صف میں جگہ پا گیا جنہوں نے اپنے نوک قلم سے قرآنی آیات کے ایسے ایسے درشہوار اور گہر آبدار صفحات قرطاس پر بکھیر دیئے جن کی چمک دمک سے مومنین کے ایمان و عرفان میں ایسی تابانی و تابندگی پیدا ہو گئی ہے جو قیامت تک روشن رہے گی مگر میں انتہائی متاسف اور شرمندہ ہوں کہ اپنی علمی کوتاہی اور کم فہمی کی وجہ سے اور پھر اپنی علالت کے باعث کچھ زیادہ نہ لکھ سکا اور نہ کوئی ایسی نادر بات لکھ سکا جو اہل علم کے لئے باعث کشش و قابل مسرت ہو۔

بہر حال دعا گو ہوں کہ خداوند کریم بطفیل نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام میری اس حقیر خدمت کو قبول فرما کر اس کو مقبولیت دارین کی کرامتوں سے سرفراز فرمائے۔ (آمین)

عبدالمصطفیٰ الاعظمی

عفی عنہ

